

بجولہ تعالیٰ

ترجمہ تاریخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ

کتاب ثانی - جلد ہفتم

جسویں

نامور حکمرانان اسلام خلفاء بنی عباسیہ ہارون، امین، مامون، معتصم،
والثوق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مہتدی اور معتد علی اللہ کے زمانہ
حکمرانی کے واقعات تحریر کئے گئے ہیں اور بے سہرو پانچہ عقد عباسیہ جو حضرت
کی قلعی کھولی گئی ہے برآمد کی تباہی کے اصلی اسباب ظاہر کئے گئے ہیں

مترجمہ

جناب مولوی حکیم احمد حسین صاحب الہ آبادی مؤلف سوانح عمری سلطان

صلاح الدین یوسف فاتح بیت المقدس و حیات نور الدین

۱۳۲۰ھ

۱۹۲۲ء

بایستقامت فتنی حامدین یونانی و انڈیا پریس الہ آباد چھپی

زچہ چہ

ایک نہایت مفید اور بے مثل کتاب ہے۔ اگر آپ ایک بے زبان مگر نہایت کارآمد
گروہ کو جاہل دائیوں اور اناڑی عورتوں کے پنچہ ہلاکت سے بچانا چاہتے ہوں اور انکی
بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، بہوؤں، بھانجیوں، بھتیجیوں، اڑوسی پڑوسی کو صاحب اولاد
صحیح و سندرست دیکھنا پسند کرتے ہوں تو مہربانی فرما کے کتاب زچہ چہ کو خرید لیں۔
اس کتاب میں استقرار حمل کی علامتیں، زمانہ حمل کی احتیاطیں، حوامل کے امراض
اور ان کا انسداد، عسر و ولادت زچہ خانہ کی تدبیریں، بچوں کی پرورش اور ان کے
امراض کے دفعیہ کی ترکیبیں اور سہل الحصول ادویہ اور وسلیس عام فہم زبان میں
لکھی گئی ہیں جس کو ہر لکھی پڑھی عورت آسانی سے سمجھ کر اپنے کو اور اپنی دوسری
بہنوں کو ان پڑھ دائیوں کی حماقت سے بچا سکے گی اور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹری
سرجری سے بھی محفوظ رکھے گی۔ کتاب کیا ہے بے حد معلومات کا ذخیرہ ہے
کاغذ سفید چکنا ولایتی۔

قیمت بلا محصول ڈاک عمر

المش

پیشہ و فتنہ الاسلام الہ آباد

فہرست ترجمہ تاریخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۹۷۹ ✓ کتاب ثانی جلد ہفتم
 ۱۲۵۳

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۱	مامون کی بیعت	۱	ہارون الرشید کی خلافت
۶۳	سفیان کا ظہور	۲۷	امین کی ولیعهدی
۶۵	شکر کی روانگی	۵	یحییٰ بن عبداللہ کا خروج
۶۵	عبدالملک بن صالح کی وفات	۶	عمر بن مہران کی گورنری
۶۶	امین کی معزولی و بجالی	۷	بغاوت و مشق
۶۶	طاہر کی کارگزاریاں	۸	موصل و مصر کے
۷۰	حجاز میں مامون کی بیعت	۹	عمال کی ترقی
	بغداد میں طاہر اور امین کا قتل		اور خوار
			مامون

ہارون الرشیدی خلافت و بغاوت

لیفہ ہارون الرشید نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی انتظاماً
 مامون کی عزل و نصب و تبدیلی کے احکام صادر فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز عمری
 نے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا، یزید بن حاتم
 بن حاتم کو اور روح بن حاتم کی وفات
 مرحمت کی پھر جب یہ مارا گیا تو ہرثمہ بن اعین

رافع بن کونین
 ہارون کے
 ہارون کے

یہ کایہ پانچواں تاجدار ربیع الاول ۱۹۵ھ کی پڑھی۔
 وقت اسکی عمر بائیس برس کی تھی۔ فضل بن یونس لیا۔
 تدون پیشتر پیدا ہوا تھا فصل کی ماں نے اسکو اور اسکی ماں خیزران نے خماوزیر
 لیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت ہادی کا انتقال ہوا تھا (باقی صفحہ آئندہ)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۶	ولیعہدی کی بیعت	۱۱۷	بغاوت مصر و اسکندریہ
۱۸۷	محمد بن ابراہیم کی موت	۱۱۸	عمال
۱۸۸	بغاوت ازبکستان	۱۲۳	صوائف
۱۹۰	قضاة کی معزولی اور تقرری	۱۲۴	ماموں کی وفات معتصم کی خلافت
۱۹۱	بغاوت حمص	۱۲۷	محمد بن قاسم کا خروج
۱۹۲	بجاء کی بدعہدی	۱۲۸	جنگ زط
۱۹۳	صوائف	۱۲۹	تعمیر سامرا
۱۹۴	عمال کی تفصیل	۱۲۹	فضل بن مروان کا ادبار
۱۹۶	قتل متوکل و بیعت غنما	۱۳۰	مخاربات بابک خزیمی
۱۹۸	اخپار خلفاء عباسیوں کی پروردگاری	۱۳۲	فتح عموریہ
	جنہوں نے عہد خلافت پر روئے سلیس کیا	۱۵۱	امراؤں کی گرفتاری
			لکھی گئی ہیں جس کو ہری پڑھی عورت آسانی سے سمجھ کر اپنے کو بہنوں کو ان پر ٹھہرائیوں کی حماقت سے بچا سکے گی اور لپٹ کر سربری سے بھی محفوظ رکھے گی۔ کتاب کیا ہے بے حد معنی کا غنہ سفید چکنا و لایتی۔
۲۱۱			قیمت بلا محصول ڈاک عمر
۲۱۲			المشا
۲۱۰			

پندرہ روزہ اسلام آباد

زول کر کے اسحاق بن

فہم
کے اسحاق کو دار الخلا

ترجمہ تلخیص علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا حکم دیدیا

ہزارندہ (برادر زادہ)

نی
صالح ہمدانی

عی روح

رات

اسکے

کتاب ثانی - جلد ہفتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہارون الرشیدی خلافت

خلیفہ ہارون الرشید نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی انتقالاً
عَمَّال کے عَزَل و نصب و تبدیلی کے احکام صادر فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز عمری
کو مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا، یزید بن حاتم
گورنر افریقیہ کے انتقال کر جانے پر روح بن حاتم کو اور روح بن حاتم کی وفات
کے بعد اسکے لڑکے فضل کو سند گورنری حرمت کی پھر جب یہ مارا گیا تو ہرثمہ بن اعین

اس خلیفہ ہادی کے انتقال کے بعد خلفاء عباسیہ کا یہ پانچواں تاجدار ربیع الاول ۱۷۰ھ کی لڑائی

تاریخ کو مقام عیسیٰ بازمیں تخت نشین ہوا اس وقت اسکی عمر بائیس برس کی تھی۔ فضل بن یزید

اس سے سات دن پیشتر پیدا ہوا تھا فضل کی ماں نے اسکو اور اسکی ماں خیزران نے فخر اوزیر

کو دودھ پلایا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت ہادی کا انتقال ہوا تھا (باقی صفحہ آئندہ)

مضامین بندہ حالات افریقہ میں بیان کیا جائیگا۔ اسی زمانہ میں کل سروری

بناوت مصر و اسکندریہ بن سے علیحدہ کر کے ایک جداگانہ صوبہ قرار دے کے عوام کے

عالم آیا۔ طرسوس کی تعمیر اور آباد کرنے کا حکم دیا۔ شروع ہی زمانہ خلافت

وکیا حمین شریفین میں کمال دریا ولی سے خیر و خیرات کیا۔ صائف کے

ماہوں کی وفات متعصم کی بن عبد اللہ لکائی بہاؤ کرنے کو گیا تھا ان دنوں مکہ و طائف کی گورنری

محمد بن قاسم کا شروع بین قتیقہ کو فذ کی گورنری پر علی بن موسیٰ بجرین، البصرہ، یامامہ، عمان و ابوما

جنگ نظر کی گورنری پر محمد بن سلیمان بن علی، خراسان کی گورنری پر ابو الفضل بن

فضل بن مروان کن طوسی تھا پھر مروان کر کے جعفر بن محمد بن اشعث کو مامور فرمایا

مخاربات باہک، نے خراسان پہنچ کے اپنے لڑکے عباس کو کابل کی طرف روانہ کیا چنانچہ

فتح عبوریہ امباس نے کمال مروانگی سے کابل و ساہبا کر فتح کیا اور جو بچہ وہاں تھا اسکو لوٹ

بجائے ہارون الرشید نے جعفر کو دربار خلافت میں طلب کر کے معزول کر دیا بجا

اسکے اسکے لڑکے عباس کو سند گورنری مع حمت فرمائی موصول کی عمان امارت

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) اس وقت بھی بن خالد قتیقہ تھا اور وظیفہ ادای اسکے قتل کی فکر میں تھا جو ہل ہی

ہادی نے دم توڑا ہر شہ بن امین نے رشید کے پاس پہنچ کے تخت نشینی کا مشورہ سنایا اور رشید

نے تخت نشین ہوتے ہی بھی بن خالد کو جیل سے نکلوا کے وزارت کے عہدہ سے متاز کر لیا پھر نکلا

یہ بیان ہے کہ ہادی کی موت کی خبر بھی بن خالد سے رشید تک پہنچائی تھی۔ رشید اس وقت

سوریا تھا بھی اسے نہ جنگا کے کہا ”اٹھئے امیر المؤمنین، رشید نے اس سے جواب دیا ”مکرم تک

خلافت کا مشورہ سنایا کرو گے دیکھو یہ مذاقی اچھا نہیں ہے اگر ہادی کے کان تک چسب

جائیگی تو میری کیا حالت ہوگی پوچھی نے عرض کیا ”موت نے اس بحث کا فیصلہ کر دیا۔

یہ فاتح خلافت حاضر ہے، ہنوز یہ گفتگو تمام نہ ہونے پائی تھی کہ مجلس اسے شاہی سے ایک

کے پیدا ہونے کا مشورہ آیا رشید نے اسکا نام عبد اللہ رکھا یہ وہی (باقی صفحہ گذشتہ)

عبدالملک بن صالح کے ہاتھ میں تھی ہارون الرشید نے اسکو معزول کر کے اسحاق بن محمد بن فرخ کو مقرر کیا بعد چندے ابوحنیفہ حرب بن قیس کو بھیج کے اسحاق کو دارالخلافہ بغداد میں بلا بھیجا اور حیب اسحاق دربار خلافت میں حاضر ہوا تو قتل کا حکم دیدیا اور بجائے اسکے (۱۵) اور امینیہ کی امارت سے یزید بن مزید بن زائدہ (برادرزادہ معن) کو معزول کر کے عبدالمدین المہدی کو مقرر کیا۔

۱۷ھ میں بنو تغلب کے صدقات وصول کرنے پر روح بن صالح ہمدانی مامور کیا گیا تھا اتفاق سے بنو تغلب اور روح میں مخالفت پیدا ہو گئی روح نے انکی سرکوبی کے خیال سے لشکر فراہم کیا بنو تغلب کو اسکی خبر لگ گئی رات کے وقت مجتمع ہو کے روح پر شجون مارا اور اسکو معہ ایک جماعت کے جو اسکے ہمراہیوں میں سے تھے مار ڈالا۔

۱۸ھ میں محمد بن سلیمان والی بصرہ نے وفات پائی چونکہ اسکا بھائی جعفر بن سلیمان ہارون الرشید سے اکثر اسکی شکایتیں کرتا تھا کہ اسے مسلمانوں کے حقوق

(بقیہ صفحہ گذشتہ) شخص ہے جو آئندہ مامون الرشید کے مبارک لقب سے پکارا جائیگا۔ یہ رات بھی عجیب رات تھی اسی شب میں ایک خلیفہ (ہادی) کا انتقال ہوا وہ سراسر (ہارون) سریر خلافت پر جلوس فرما ہوا اور تیسرا (مامون الرشید) عالم وجود میں آیا۔ ابراہیم موصلی نے ہارون الرشید کی تخت نشینی کے تمنیت میں یہ اشعار پڑھے۔

المتران الشمس كانت صريفة فلما اتى هارون اشرق نورها تلبست الدنيا جبالا مملثها فهارون واليها ويحيى وزيرها	کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آفتاب بیمار تھا۔ جب ہارون تخت نشین ہوا تو اسکی روشنی چمک اٹھی۔ دنیا نے اسکی پادشاہت سے خوبی کا لباس پہن لیا۔ کیونکہ ہارون اسکا بادشاہ ہے اور یحییٰ اس کا وزیر
۱۵ اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔	(باقی صفحہ آئندہ)

اور مال غنیمت کو غصب کر کے اسباب و سامان مہیا کیا ہے اور اپنے آپ کو خلافت و حکومت کا مستحق سمجھتا ہے ہارون الرشید کے دل میں اس کے کہنے سننے سے محمد بن سلیمان کی جانب سے خباہت پیدا ہو گیا تھا جو بعد وفات محمد بن سلیمان اس طرح پر نکلا کہ اسکے مال و اسباب گھوڑے اور اثاثہ البیتہ کو ضبط کر کے خزانہ میں داخل کر لیا۔ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ساٹھ ہزار دینار نقد تھے محمد بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی نہ تھا محمد بن سلیمان کے مرنے پر وراثت کا دعویٰ ہوا ہارون الرشید نے اسکے اقرار سے اسکو معقول کر دیا۔

۷۴ھ میں ہارون الرشید نے اسحاق بن سلیمان کو سندھ و مکران کی گورنری مرحمت کی اور یوسف بن امام ابو یوسف کو بحالت حیات امام موصوف عہدہ قضا پر مامور فرمایا۔

۷۵ھ میں عیسیٰ بن جعفر بن المنصور (ایمن کے ماموں) اور فضل بن عیسیٰ کی کوششوں سے ہارون الرشید نے اپنے لڑکے محمد بن زبیدہ کی

(پتیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) اور ایک بدو ہارون کی تخت نشینی کے وقت آیا تھا لوگوں نے کہا "کیا لے کے آیا ہے" عرض کیا "میں ایک پیام لایا ہوں" کہا "بیان کرو" گذارش کی "میں سخواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ تم امیر المومنین کے پاس جاؤ اور یہ ابیات اس کے حضور میں پہنچاؤ۔"

تو نے ورثہ میں قریش سے خلافت پائی ہے۔
وہ ہمیشہ تم دونوں کے پاس دو وطن بننے آئے گی۔
موسیٰ کے بعد ہارون کے پاس ناز کرتی ہوئی آئی ہے
اور ایسی حالت میں وہ کیوں نہ ناز کرے۔

توارثت الخلفاء من قریش
توف الیکما ابداً حدوسا
الی ہارون تہدے بعد موسیٰ
تیس وما لہما ان تمیسا

تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۲۳ و ۲۴ و اعلام الناس صفحہ ۸۴۔

ولیعہدی کی بیعت لی اسوقت اسکی عمر پانچ برس کی تھی۔ اسی سن میں ہارون الرشید نے عباس بن جعفر کو امارت خراسان سے معزول کر کے خالد عطف بن عطاء کندی کو مامور فرمایا تھا۔

۷۵۰ء میں یحییٰ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن حسن براور عہدی نے ولیم میں خلافت عباسیہ کے خلاف خروج کیا تھوڑے ہی دنوں میں

اسکا رعب و جلال بڑھ گیا ہمراہیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہر چار طرف سے دل بدل کی طرح لوگ اٹھتے چلے آتے تھے ہارون الرشید نے انکی جلو گری کے لئے فضل بن یحییٰ کو پچاس ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا۔ جرجان، طبرستان، اور رے وغیرہ کی سند گوزری بھی دیدی فضل نے بغداد سے نکل کے لشکر مرتب کیا اور سامان و اسباب سفر مہیا کر کے کوچ کر دیا طالقان میں پہنچ کے یحییٰ بن عبد اللہ کے نام ایک خط لکھا جس میں شاہی عقاب کی دھمکی دی تھی اور خلافت عباسیہ کے رعب و داب سے ڈرایا تھا ساتھ ہی اسکے صلح کر لینے پر انعام و جاگیرات کی امید دلائی تھی۔ والی ولیم سے بھی اس بابت خط و کتابت کی تھی اور بصورت صلح کر لینے کے دس لاکھ درہم دینے کو لکھا تھا یحییٰ کے دل پر اس خط کے پڑھنے سے ایسی ہیبت چھا گئی کہ مصالحت منظور کر لی لکھ بھیا کہ مجھے اس شرط پر صلح منظور ہے کہ ہارون الرشید اپنے قلم سے صلح نامہ لکھ دے اور اس پر فقہاء، قضات، سرداران بنو ہاشم اور ان کے مشائخین کے دستخط ہوں منجملہ ان کے عبد الصمد کا بھی دستخط ہو۔ فضل نے ان تمام واقعات سے ہارون الرشید کو مطلع کیا ہارون الرشید نے اس شرط کے مطابق صلح نامہ لکھ کے معہ ہدایا اور تحائف کے فضل کے پاس روانہ کیا چنانچہ یحییٰ نے معہ فضل کے بغداد کی طرف کوچ کر دیا ہارون الرشید نے نہایت تپاک سے ملاقات کی اور اپنے ہدایا و تحائف کا اسکو گرویدہ بنا لیا۔ اس واقعہ کے بعد سے فضل کا اعزاز

ہارون الرشید کے دربار خلافت میں بڑھتا گیا بالآخر ہارون الرشید نے یحییٰ برمکی کو قید کر دیا اور پھر یہ قید سے مرہی کے نکلا۔

عمر بن مہران | موسیٰ بن عیسیٰ کو ہارون الرشید نے ملک مصر کی گورنری پر مقرر کیا تھا چند دنوں بعد اسکی نسبت دارالخلافت میں خیرین

پہنچنے لگیں کہ یہ امیر المؤمنین کا دشمن اور خلافت سنیہ کے انقلاب کا خواہاں ہے۔ ہارون الرشید نے غصہ ہو کر مصر کی گورنری کا انتظام جعفر بن یحییٰ برمکی کے سپرد کیا اور عمر بن مہران کو سند گورنری دینے کے لئے پیش کرنے کا حکم دیا یہ شخص بہت بد شکل، عجیب الخلقہ، احوال (بھنگا) اور لپٹ قامت تھا صورت و شکل نازیبا

ہونے کے ساتھ بہت ہی ذلیل و کم حیثیت لباس پہنتا تھا اور غلام کو سواری پر اپنے پیچھے بیٹھاتا تھا جب دربار عام میں یہ پیش کیا گیا اور گورنری مصر کا اسکو مرادہ سنا گیا تو اس نے یہ شرط پیش کی کہ بعد انتظام ممالک مصر واپسی میرے

اختیار میں رہے دارالخلافت سے اجازت حاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہ رہے خلیفہ ہارون نے یہ شرط منظور کر لی اور عمر بن مہران رخصت ہو کے مصر کو روانہ

ہوا اتفاق وقت سے جس وقت عمر مصر پہنچا تھا اس وقت موسیٰ بن عیسیٰ جلسہ عام میں بیٹھا ہوا تھا ارباب حاجت اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے جب سب لوگ

متفرق و منتشر ہو گئے تو عمر بن مہران نے فرمان شاہی موسیٰ بن عیسیٰ کے سامنے رکھ دیا موسیٰ نے تمام و کمال پڑھ کے کہا جناب ابو حفص کب تشریف لائیں گے

(ابو حفص عمر بن مہران کی کنیت تھی) عمر بن مہران نے جواب دیا ”ابو حفص میں ہی ہوں“ موسیٰ نے عمر بن مہران کو بے پاؤں تک بغور دیکھ کے کہا ”لعن اللہ فرعون

حیث قال ایس لی ملک مصر“ (المدکی فرعون پر لعنت ہو کجنت اسی ملک مصر کی بادشاہی پر دعوائے خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا) ”کیا میں مصر کا مالک مستقل

نہیں ہوں) غرض موسیٰ نے گورنری مصر کا چارج دیکے بغداد کا راستہ لیا اور عمر بن مہران ملک مصر کے انتظام میں مصروف ہوا کاتب (سکرٹری) کو حکم دیا کہ کسی کا کوئی تحفہ و نذر سوائے زر نقد کے قبول نہ کیا جائے۔ لوگ ایک زمانہ سے اسکے عادی ہو رہے تھے کہ گورنر مصر کو ہدایا و تحائف دیکے خراج کو باقی رکھ چھوڑا کرتے تھے اسی دستور کے مطابق مصر والوں نے ہدایا و تحائف پیش کئے عمر بن مہران نے سمجھوں پرانے پیش کرنے والوں کے اسماء لکھا کے بطور امانت خزانہ میں رکھوا دیا جب قسط اول و دوم کو عمر بن مہران نے کمال سختی و تشدد سے وصول کیا تو تیسری قسط میں لوگوں کو شکایتیں ہوئیں کہ ہم ہدایا و تحائف بھی دیتے ہیں اور پھر ہم سے خراج بھی سختی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے عمر بن مہران نے ان ہدایا و تحائف کو خزانہ سے نکلوا کے ان کے دینے والوں کے سامنے پیش کر کے دام دام کا حساب کر کے خراج وصول کر لیا اور تیسری ہی قسط میں ملک مصر کا خراج پورا کر کے بغداد واپس آیا۔

بغاوت و مشق | اسی سنہ (یعنی ۱۷۶ھ) میں مابین مضر یہ و یمانیہ مقام دمشق میں بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا مضر یوں کا سردار ابولہبیدام عامر بن عمارہ تھا جو خارجہ بن مسان بن ابی حارثہ مری کی اولاد سے تھا اصل فساد بنو قین و یمانیہ میں پیدا ہوا تھا اس سبب سے کہ یمانیہ نے بنو قین کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا بنو قین اسکے معاوضہ لینے کو مجتمع ہوئے ان دنوں دمشق کی گورنری پر عبد الصمد بن علی تھا اس نے اس ہنگامہ کی خبر پا کے رؤساء و اراکین حکومت کو دونوں قبیلوں میں مصالحت کرنے کی غرض سے جمع کیا قینیہ تو سمجھا بچھانے سے رک رہے اور یمانیہ نے حیلہ و حوالہ کر کے مال و یا مکررات کے وقت بحالت غفلت مضر یہ پر دھاوا کر کے ان میں سے تین سو یا چھ سو کو کاٹ ڈالا بنو قین نے قبائل قضاعہ و سلیم سے مدد طلب کی

ان لوگوں نے مدونہ دی تب ہوقین قیس میں آئے اپنی بیسی۔ کمزوری اور مجبوری کو ظاہر کر کے اعانت کی درخواست کی قیس نے یہ درخواست منظور کر لی اور ان کے ساتھ بلقاء کی طرف کوچ کر دیا اور موقع پا کے آٹھ سو یانیہ کو مارڈالا فریقین میں جنگ کا بازار گرم ہو گیا لڑائی طویل کھینچ گئی۔ دربار خلافت تک یہ خبریں پہنچیں خلیفہ نے انتظاماً عبدالصمد کو معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو مامور کیا دو برس تک برابر اس فساد مشتعل رہی بعد دو برس کے فریقین نے مصالحت کر لی۔ ابراہیم بن صالح کو پہلے شب و روز کے انتظام اور تنگ و دو سے فرصت نہ ملی دمشق پر اپنے لڑکے اسحاق کو اپنا نائب کر کے بطور وفد (ڈیپوٹیشن) دربار خلافت میں چلا آیا چونکہ ابراہیم و اسحاق کا میل خاطر یانیہ کی جانب تھا اس وجہ سے ابراہیم نے دربار خلافت میں پہنچ کے قیس کے طرح طرح کے الزامات بیان کئے۔ مگر یہ کچھ پیش نہ کیا عبدالواحد بن بشر نے عذر و معذرت کر کے صفائی کر لی، اسحاق نے دمشق میں پھر ایک شورش برپا کرنے قیس کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے پڑوایا اور تشہیر کر کے قید کر دیا لوگوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا ایک روز غسان نے قیس بن عیسیٰ کے لڑکے کو مارڈالا اسکے بھائی نے حوران میں دو اقیل سے اسکی شکایت کی اور مدد کا خواستگار ہوا دو اقیل یانیہ پر چڑھ آئے اور ان میں سے چند آدمیوں کو مارڈالا بعد اسکے یانیہ نے کلیب بن عمر بن جنید بن عبدالرحمن کے مکان پر دھاوا کر دیا کلیب توج گیا مگر اس کا مہمان جو اسکے یہاں مقیم تھا مارڈالا گیا اس مہمان کی ماں (سابہ) ابوہیدام کے پاس روتی پڑی گئی ابوہیدام نے کہا ”صبر کرو ہم اس قصہ کو امیر کے رو رو پیش کریں گے“ اگر اس نے اسپر توجہ کی تو نبھا ورنہ امیر المومنین تو انصاف کریں گے“ اسحاق کو اس واقعہ کی خبر پہنچی اس اثناء میں ابوہیدام بھی دارالامارت میں حاضر ہوا حاضر کی اجازت چاہی اجازت نہ دی گئی بعد اسکے کسی چور نے ایک یانیہ کو مارڈالا

اور یانیہ نے قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارنیا را کرویا اور قبیلہ محارب کو جو ان کے ہمسایہ تھے ٹوٹ لیا محارب نے ابو ہیدام سے اسکا شکوہ کیا ابو ہیدام نے ان لوگوں کے اسحاق کے پاس گیا اسحاق نے اسکو بھڑایا ہوا دیکھ کے تفتیش مقدمہ کا وعدہ کیا اور وہ پروردہ یانیہ کو ابو ہیدام پر حملہ کرنے کی ہدایت کر دی چنانچہ یانیہ مجمع ہو کے باب جاتیہ کی جانب آئے ابو ہیدام کو اسکی خبر لگ گئی مسلح ہو کے میدان جنگ میں آگیا اور کمال مردانگی سے ان کو ہزیمت دیکے دمشق پر قبضہ کر لیا جیل کا دروازہ کھول دیا یانیہ نے یہ رنگ دیکھ کے قبیلہ کلیب سے امداد کی درخواست کی ان لوگوں نے انکی حالت پر ترس کھا کے مدد دی اور مضر یہ نے ابو ہیدام کے ساتھ صف آرائی کی باب تو ماہ پر فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی ابو ہیدام نے چار بار یانیہ کو شکست دی اسحاق نے ابو ہیدام سے کہا کہ لڑائی روک دو میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا ابو ہیدام نے لڑائی موقوف کر دی اسحاق نے یانیہ کو چپکے سے کہلا بھیجا کہ اسوقت گو لڑائی موقوف ہو گئی ہے مگر جو وقت ابو ہیدام غافل ہو حملہ کر دینا۔ ابو ہیدام کے جاسوسوں نے یہ خبر ابو ہیدام تک پہنچا دی آگ بگولا ہو گیا پھر سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف نکلا اور ان کو ہزیمت دی پھر دوبارہ باب تو ماہ پر ان کو ہزیمت دی بعد اسکے یانیہ اردن، تولان اور کلیب وغیرہ کو جمع کر کے دمشق کی طرف بڑھے ابو ہیدام نے جاسوسوں کو خبر لانے کی غرض سے مامور کیا جاسوسوں نے خبر لانے میں تاخیر کی۔ ابو ہیدام نے شہر میں جا کے کمر کھول دی اسحاق نے موقع پا کے ایک جاسوس کو ابو ہیدام کی خبر لانے کو بھیجا اور جب اس کو ابو ہیدام کی حالت سے واقفیت ہو گئی تو اس نے یانیہ کو شہر کی پرلی جانب سے داخل ہونے کا حکم دیا ابو ہیدام نے یہ خبر پا کے اپنے ہمراہیوں کو یانیہ پر پھپھے سے حملہ کرنے کو روانہ کیا اور خود سینہ سپر ہو کے سامنے سے دھاوا کیا یانیہ کو اس واقعہ میں بھی شکست ہوئی غرہ صفر ۱۶۷ھ کو

اسحاق نے قصر حجاج کے قریب اپنے لشکریوں کو مجتمع کر کے مرتب کیا ابوہیدام کے
 ہمراہی جو اطراف دمشق میں قصبات و دیہات کے ٹوٹنے کو گئے ہوئے تھے یہ خبر پانکے
 واپس آئے اسحاق کے بعض دستہ فوج سے بڑھیر ہو گئی ابوہیدام کے ہمراہیوں نے
 ان کو شکست دیدی اور اکثر مکانات اور بعض دیہات کو جلا دیا دمشق کے اطراف و
 جوانب کے رہنے والوں نے ابوہیدام سے امان کی درخواست کی ابوہیدام نے
 امن دیدی جس سے فتنہ فرو ہو گیا لوگوں کو تسلی ہوئی ابوہیدام نے اپنے ہمراہیوں
 کو انتظام و حفاظت کی غرض سے اطراف دمشق میں بھیلادیا تھوڑے سے آدمی اسکے
 پاس رہ گئے اسحاق نے موقع مناسب پانکے اپنے لشکر کا عذا فر سکسکی کو امیر مقرر
 کر کے ابوہیدام پر حملہ کرنے کا حکم دیدیا اگرچہ ابوہیدام کے دلیرانہ حملہ نے عذا فر کو
 پسپا کر دیا مگر لشکریاں اسحاق تین روز تک برابر لڑتے رہے چوتھے روز اسحاق بھی
 تیار ہو کے میدان جنگ میں آیا اس وقت اسکے لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی علاوہ اسکے
 یمانیہ بھی اسکے رکاب میں تھے ابوہیدام نے شہر سے نکل کے باب جابیہ پر مقابلہ کیا
 اسحاق کی فوج اس معرکہ میں بھی گھونگھٹ کھا گئی اور اپنا مورچہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئی
 بعد اسکے حمص کی فوج نے ابوہیدام کے ایک قریہ پر شہجون مارا ابوہیدام نے اپنے
 ہمراہیوں میں سے چند لوگوں کو اسکے روک تھام کو روانہ کیا ان لوگوں نے حمص کی
 فوج کو ہزیمت دیکے ان کے ایک گروہ کثیر کو مار ڈالا اور یمانیہ کے اکثر محلوں اور
 دیہاتوں کو جو غوطہ میں تھے جلا کے خاک و سیاہ کر دیا اس واقعہ کے بعد تقریباً شریوم
 تک فریقین لڑائی سے رُکے رہے غزہ زینج الاخر سنہ مذکور کو سندی خلیفہ ہارون
 کی جانب سے ایک لشکر لیکے دمشق کے قریب پہونچا یمانیہ نے اسکو ابوہیدام کیجا
 سے برہم کر دیا ابوہیدام نے کہلا بھیجا کہ میں امیر المؤمنین کا مطیع ہوں میری یہ مجال
 نہیں ہے کہ خلافت پناہی کے حکم سے سرتانی کروں "سندی یہ سن کے دمشق

میں داخل ہوا اور اسحاق دارحجاج میں جا اترادوسرے دن سندی نے اپنے ایک سپہ سالار کو تین ہزار کی جمعیت سے ابوہیدام کی طرف روانہ کیا ابوہیدام نے انکے مقابلہ پر ایک ہزار جوانوں کو میدان کارزار میں نکالا سپہ سالاران ہزار جوانوں کی شکل و صورت دیکھ کے خوف سے کانپ اٹھا لوٹ کے سندی کے پاس آیا اسے دی کہ یہ لوگ موت کو حیات سے افضل سمجھتے ہیں جس طرح ممکن ہو ان سے مصالحت کرنا مناسب ہے سندی نے نامہ وپیام کر کے ابوہیدام سے مصالحت کر لی مصالحت کے بعد ابوہیدام نے حوران کی طرف کوچ کر دیا اور سندی تین روز تک دمشق میں ٹھہرا رہا۔ چوتھے روز موسیٰ بن عیسیٰ دمشق کا گورنر ہو کے آیا اس نے لشکریوں کو ابوہیدام کے گرفتار کر لائے پر مامور کیا لشکریوں نے ابوہیدام کا مکان جا گھیرا ابوہیدام مع اپنے لڑکے اور ایک غلام کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی موسیٰ کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اس اثناء میں ابوہیدام کے ہمراہی اس واقعہ سے مطلع ہو کے ہر چہا طرف سے دریا کی طرح اُٹھ آئے ابوہیدام نے بصرہ کا رخ کیا موسیٰ نے اس کے تعاقب پر لشکر مامور کیا ابوہیدام ان کو پسپا کر کے بصرہ کی جانب چلا گیا (اور فتنہ دمشق کا خاتمہ ہو گیا) یہ واقعہ رمضان ۱۷۷ھ کا ہے۔

بعضوں نے اس فتنہ و فساد کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ہارون کے ایک گورنر نے سجستان میں ابوہیدام کے بھائی کو مار ڈالا تھا اس نے وہاں تو کچھ نہ کہا لیکن شام میں آ کے بہت بڑا گروہ مجتمع کر لیا اور آتش فساد مشتعل کر دی خلیفہ رشید نے اس کے بھائی کو اس کے گرفتار کر لائے پرتعین کیا چنانچہ ابوہیدام کو بچیلہ و فریب گرفتار کر لایا خلیفہ رشید نے براہ ترحم خسروانہ اسکی خطائیں معاف کر دیں اور رہا کر دیا۔ ۱۸۰ھ میں خلیفہ رشید نے اس فتنہ کے فرو کرنے کی غرض سے جعفر بن یحییٰ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا چنانچہ جعفر اپنے حسن انتظام سے اس فساد کو فرو کر کے

نیک نامی کے ساتھ دار الخلافت بغداد میں واپس آیا۔

۷۷ھ میں عطات بن سفیان ازوی نے خراسان و موصل پر
قبضہ کر لیا تھا ان دنوں موصل کا گورنر محمد بن عباس ہاشمی تھا اور

بعضے کہتے ہیں کہ عبد الملک بن صالح تھا بہر حال عطات نے تھوڑے ہی دنوں میں
چار ہزار جنگ آوروں کو مجتمع کر کے موصل کا خراج وصول کرنا شروع کر دیا اور
گورنر موصل و بادیا پڑا رہا یہاں تک کہ خلیفہ ہارون موصل پہنچا اور اس نے موصل
کے شہر نپاہ کو منہدم کر دیا عطات بھاگ کے ارمینیا سے رقبہ چلا آیا اور وہیں
بنالیا۔

۷۸ھ میں جو فیہ نے (یقبیلہ قیس و قضا عہ سے تھے) گورنر مصر اسحاق بن
سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان لڑنے کو آئے خلیفہ ہارون نے ہرثمہ
بن اعین کو (یہ ان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فرو کرنے کی غرض سے
مصر کے جانے کو لکھا۔ جوں ہی ہرثمہ نے مصر میں قدم رکھا جو فیہ کا دماغ درست
ہو گیا آتش بغاوت فرو ہو گئی خلیفہ ہارون نے انتظاماً مصر کی گورنری ہرثمہ کو دی
پھر بعد ایک ماہ کے اسکو معزول کر کے عبد الملک بن صالح کو مامور کیا۔

۷۹ھ میں جو فیہ نے (یقبیلہ قیس و قضا عہ سے تھے) گورنر مصر اسحاق بن
سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان لڑنے کو آئے خلیفہ ہارون نے ہرثمہ
بن اعین کو (یہ ان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فرو کرنے کی غرض سے
مصر کے جانے کو لکھا۔ جوں ہی ہرثمہ نے مصر میں قدم رکھا جو فیہ کا دماغ درست
ہو گیا آتش بغاوت فرو ہو گئی خلیفہ ہارون نے انتظاماً مصر کی گورنری ہرثمہ کو دی
پھر بعد ایک ماہ کے اسکو معزول کر کے عبد الملک بن صالح کو مامور کیا۔

۸۰ھ میں جو فیہ نے (یقبیلہ قیس و قضا عہ سے تھے) گورنر مصر اسحاق بن
سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان لڑنے کو آئے خلیفہ ہارون نے ہرثمہ
بن اعین کو (یہ ان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فرو کرنے کی غرض سے
مصر کے جانے کو لکھا۔ جوں ہی ہرثمہ نے مصر میں قدم رکھا جو فیہ کا دماغ درست
ہو گیا آتش بغاوت فرو ہو گئی خلیفہ ہارون نے انتظاماً مصر کی گورنری ہرثمہ کو دی
پھر بعد ایک ماہ کے اسکو معزول کر کے عبد الملک بن صالح کو مامور کیا۔

کر کے اس کے لڑکے عباس بن جعفر کو گورنری کا عہدہ عطا کیا پھر بعد چند دنوں
 اسکو معزول کر کے خالد غطریف بن عطاء کندی کو ۷۵۷ء میں خراسان، سجستان اور
 جرجان کی سند گورنری مرحمت کی۔ خالد غطریف نے اپنی جانب سے داؤد بن یزید
 کو اپنی نیابت دی اور سجستان کا عامل مقرر کیا اسی کے عہد گورنری میں حصین خارجی
 نے (یہ قیس بن ثعلبہ کا آزاد غلام تھا) اہل اوق کی سازش سے علم بغاوت بلند کیا
 عثمان بن عمارہ عامل سجستان نے اسکی سرکوبی کو ایک لشکر روانہ کیا حصین نے اسکو
 ہزیمت دیکے اسکے ایک گروہ کثیر کو قتل کر ڈالا اور جوش کامیابی میں باذغیس،
 بوسج اور ہرات کی طرف کوچ کر دیا خالد غطریف نے بارہ ہزار لشکر حصین کی
 گرفتاری و جنگ پر مامور کیا حصین نے چھ سو کی جمعیت سے مقابلہ کیا اور اس
 لشکر کو بھی نیچا دکھا کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اسوقت سے حصین برابر اطراف
 خراسان میں قتل و غارت کرتا رہا کسی معرکہ میں عامل خراسان کو اسکے مقابلہ میں کامیابی
 نہیں ہوئی تا آنکہ ۷۵۷ء میں اسکی دلیرانہ باغیانہ زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔

۷۸۰ء میں ماوراء النہر چہا دیا گیا اور خلیفہ ہارون نے خراسان کی گورنری
 پر علی بن عیسیٰ بن ماہان کو مامور کیا۔ بیس برس تک اس عہدہ سے ممتاز رہا اسی کے
 عہد میں حمزہ بن اترک خارجی نے بقصد بوسج خروج کیا ان دنوں ہرات کی گورنری
 پر عمرو بن یزید زدوی تھا اس نے چھ ہزار سواروں کی جمعیت سے حمزہ سے معرکہ
 آرائی کی حمزہ نے اسکو شکست دیکے اسکے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کثیر کو مار ڈالا
 عمرو بن یزید اسی غوغا میں دیکے مر گیا تب علی بن عیسیٰ نے اپنے لڑکے حسن کو
 دس ہزار لشکر کے ساتھ جنگ حمزہ پر روانہ کیا مگر اس نے لڑائی نہ کی علی بن عیسیٰ
 نے جھلاکے اسکو معزول کر دیا اور بجائے اسکے اپنے دوسرے لڑکے عیسیٰ بن علی
 کو مامور کیا اس سے اور حمزہ سے لڑائی ہوئی حمزہ نے ہزیمت دیدی علی بن عیسیٰ

نے تازہ دم فوج دیکے اسکو پھر جنگ حمزہ پر واپس کیا مقام نیشاپور میں صفت آرائی کی
 نوبت آئی ایک خونریز جنگ کے بعد حمزہ شکست کھا کے قہستان کی طرف بھاگا عیسیٰ
 کے لشکریوں نے تعاقب کیا حمزہ کے ہمراہیوں میں سے باسٹنہا چالیس آدمیوں کے
 جو اسکے ہمراہ قہستان بھاگ گئے تھے اور کوئی جانبر نہ ہوا عیسیٰ نے اوق، جوین اور ان
 قصبات و دیہات کی جانب اپنے لشکریوں کو روانہ کیا جو حمزہ کی اعانت و امداد کر رہے
 تھے اور نہایت بے رحمی سے خوارج کے خون کی ندی بہا دی تقریباً تیس ہزار خوارج
 اس قتل عام میں مارے گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے مقام زرنج میں عبدالمد
 بن عباس نسفی کو اپنا نائب مقرر کر کے مراجعت کی عبدالمد بن عباس نے خراج اور
 مال غنیمت جمع کرا کے زرنج سے کوچ کر دیا حمزہ کو اسکی خبر لگ گئی اثنائے راہ میں بجالت
 غفلت عبدالمد سے چھپڑ چھاڑ کی عبدالمد اور اس کے ہمراہیوں نے نہایت استقلال
 و مردانگی سے مقابلہ کیا بالآخر حمزہ شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوا اسکے اکثر ہمراہی اس
 معرکہ میں کام آگئے بعد اس واقعہ کے حمزہ نے یہ شیوہ اختیار کر لیا کہ اطراف و جوانب
 کے دیہات و قصبات پر بجالت غفلت شیخون مارتا اور وہاں کے رہنے والوں کو
 گرفتار کر لانا تھا کسی خاص گانوں میں قیام پذیر نہ ہوتا تھا اسی زمانہ میں علی بن عیسیٰ
 نے طاہر بن حسین کو بوشیخ پر مامور کیا تھا حمزہ نے یہ سن کے طاہر کا رخ کیا اتفاق سے
 ایک چھوٹا سا گانوں اثنائے راہ میں مل گیا ٹوٹ لیا وہاں کے باشندوں کو گرفتار کر لیا
 طاہر بھی یہ خبر پانے کے اٹھ کھڑا ہوا خوارج کے ایک گانوں میں پہونچا خوارج طاہر کی
 آمد سن کے بخوف جان بھاگ گئے۔ یہ وہی خوارج تھے جو تقرر حکم کے خلاف تو تھے
 مگر لڑتے نہ تھے اور محکمہ خوارج کا وہ گروہ ہے جو وقتاً فوقتاً موقع پا کے جنگ کرنے
 پر آمادہ ہو جاتا تھا اور اسکا شعار ”لا حکم الا للہ“ تھا ان لوگوں نے حمزہ کو
 روزانہ خونریزی و بغاوت سے باز آنے کو لکھا حمزہ نے وعدہ کیا لیکن اس کی

فتنہ پر و از طبیعت کو چین نہ ملا چند دنوں بعد بد عہدی کر کے پھر ٹوٹ مار شروع کر دی
اور امن عامر میں خلل انداز ہو گیا اسی وجہ سے اس سے اور علی کے ہمراہیوں سے
متعد و لڑائیاں ہوئیں۔

۸۲ھ میں خلیفہ ہارون نے اپنے لڑکے عبدالمد
کی ولیعہدی کی بیعت لی کہ بعد امین کے تخت خلافت
ملکی بے ثباتیں

کا یہ وارث ہو اور الماموں کے مبارک لقب سے ملقب کر کے خراسان اور اسکے
ملحقات صوبہ کی ہمدان تک کی سند گورنری مرحمت کی بعد اسکے عیسیٰ بن علی گورنر
خراسان کو طلب کر کے مامون الرشید کی جانب سے مقرر کر کے خراسان کی جانب
واپس کر دیا۔ اسی سنہ میں ابوخصیب وہب بن عبدالمد نسائی مقام خراسان میں
علم بغاوت بلند کر کے خراسان کے اطراف و جوانب کو ٹوٹنے لگا مگر پھر سطوت
شاہی سے خائف ہو کے امان کا خواستگار ہوا امن دیدی گئی۔ اس واقعہ کے بعد
یہ خبر مشہور ہوئی کہ بلاد باذغیس میں حمزہ خارجی نے بغاوت پھیلا دی ہے اور قتل
وغارت کا بازار گرم کر رکھا ہے عیسیٰ بن علی نے حمزہ پر فوج کشی کر دی مقابلہ ہو عیسیٰ
نے حمزہ کے ہمراہیوں میں سے دس ہزار آدمیوں کو مار ڈالا اور جوش کامیابی میں کابل
وزابلستان تک بڑھتا چلا گیا ابوخصیب نے میدان خالی دیکھ کے عہد شکنی کر دی اور
بلوایوں کا ایک گروہ کثیر مجتمع کر کے ایبورد و انسا، طوس اور نیشاپور پر قبضہ کر کے مرو کا
قصد کیا چونکہ اہل مرو اس کے فتنہ و شر سے غافل تھے محاصرہ میں آگے مکران کی
متفقہ کوشش سے ابوخصیب پساہو کے سرخس کی جانب ٹوٹ آیا ۸۶ھ میں
علی بن عیسیٰ بن ماہان ابوخصیب کی سرکوبی کی طرف متوجہ ہوا مرو سے ایک جرار لشکر
لے کے ابوخصیب پر چڑھ گیا مقام نسا میں لڑائی ہوئی ابوخصیب مارا گیا اور اسکے
عیال و اطفال قیدی بنائے گئے ابوخصیب کی زندگی کے خاتمہ سے خراسان کی

بغاوت کا خاتمہ ہو گیا آتش بغاوت جو ایک مدت سے مشتعل ہو رہی تھی خاموش ہو گئی۔

۸۹ھ میں امراء خراسان نے علی بن عیسیٰ کی بد اخلاقی کج ادائیگی، ظلم اور سخت گیری سے تنگ آ کے دربار خلافت میں شکایت لکھ بھیجی کہ اس نے علاوہ اس کے کہ ہم لوگوں کو تیر ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے شیرازہ خلافت و سلطنت کے درہم و برہم کر ڈالنے کی بھی فکر کر رہا ہے خلیفہ رشید نے یہ خبر پا کے رے کا قصد کیا جوں ہی خلیفہ ہارون کا لشکر رے میں پہنچا علی بن عیسیٰ ہدایا، تحائف اور قیمتی قیمتی اسباب لئے ہوئے حاضر ہوا خلیفہ، کل اراکین دولت اور شاہی خاندان کے کل ممبروں کے سامنے نذریں پیش کیں اس سے خلیفہ ہارون کے خیالات بدل گئے خوش ہو کے گورنری خراسان پر واپس کر دیا اور رے، طبرستان، دینا وند، قومس اور ہمدان کے صوبہ کو بھی اسکی گورنری میں ملحق کر دیا۔ قبل اس واقعہ ۸۸ھ میں علی بن عیسیٰ نے اپنے لڑکے عیسیٰ بن علی کو جنگ خاقان پر مامور کیا تھا چنانچہ عیسیٰ بن علی خاقان کو شکست دیکے اس کے بھائی کو گرفتار کر لایا تھا۔

۱۹۰ھ میں رافع بن لیث بن نصر بن سیار نے سمرقند میں آتش بغاوت مشتعل کی فوج شاہی سے ایک مدت دراز تک لڑائیاں ہوتی رہیں انہیں لڑائیوں میں اس کے لڑکے عیسیٰ نے وفات پائی تھی۔ بعد اسکے خلیفہ ہارون نے علی بن عیسیٰ کو چند جوہات سے (۱۹۱ھ میں) معزول کر دیا از انجملہ یہ وجہ تھی کہ یہ لوگوں کو ذلیل سمجھتا تھا اور روسا، شہر کی اہانت کرتا تھا ایک روز حسین بن مصعب (یہ طاہر بن حسین کے والد تھے) علی بن عیسیٰ سے ملنے گئے تھے علی بن عیسیٰ کمال ترش رونی سے پیش آیا سخت کلامی کی، اور کلمات فحش سے مخاطب کر کے قتل کر ڈالنے کی بھی دھمکی دی ایسا ہی واقعہ ہشام بن فرخسرو کے ساتھ پیش آیا تھا ہشام نے اس واقعہ کے بعد فالج کا

حیا کر کے علی کے خوف سے خانہ نشینی اختیار کر لی ہر چند لوگوں نے مکان سے
 نکلنے کو کہا نہ نکلا یہاں تک کہ علی بن عیسیٰ معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال
 پریشان دربار خلافت پہنچا شکایت کی امن کا خواستگار ہوا خلیفہ ہارون نے
 امن دی۔ منجملہ ان امور کے جس سے خلیفہ ہارون نے اسکو گورنری خراسان
 سے معزول کیا تھا ایک یہ بھی تھا کہ جب اسکا لڑکا عیسیٰ جنگ رافع میں مارا گیا
 تو ایک لونڈی نے عیسیٰ کے کسی خادم سے تذکرہ یہ کہا کہ بلج کے فلاں باغ میں
 تیس ہزار دینار عیسیٰ نے دفن کر دیے ہیں اس خادم نے اپنے ملنے والوں سے
 تذکرہ کیا رفتہ رفتہ عوام الناس میں یہ راز افشا ہو گیا عوام الناس یہ سن کے دوڑ
 پڑے باغ میں گھس کے لوٹ لائے۔ خلیفہ رشید کے کان تک دینار لوٹنے کی
 خبر پہنچی تو اس نے جھلا کے علی بن عیسیٰ کو معزول کر دیا کیونکہ علی بن عیسیٰ ہمیشہ
 کمی خزانہ کی شکایت کرتا تھا اور اس امر کا یقین دلاتا تھا کہ جنگ رافع میں اپنی
 عورتوں کے زیورات فروخت کر کے فوج کشی کی تھی اور ہرثمہ بن اعین کو طلب کر کے
 خراسان کی سند گورنری مرحمت فرمائی۔ رجاہ خادم کو اسکے ہمراہ روانہ کیا خلیفہ
 نے یہ فرمان اپنے قلم سے تحریر کیا تھا اور اس راز کے چھپانے کی سخت تاکید
 کی تھی اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ اپنے کو یہ ظاہر کرنا کہ خلیفہ نے مجھے علی بن عیسیٰ کا
 مددگار و معاون مقرر کر کے روانہ کیا ہے۔ ہرثمہ نے نیشاپور میں پہنچ کے انتظام
 شروع کر دیا اپنے ہمراہیوں کو نیشاپور میں مقرر کر کے مرو پہنچا علی بن عیسیٰ سے
 ملاقات ہوئی اسکو مع اسکے اہل و عیال اور متعلقین کے گرفتار کر کے مال و اسباب
 کو ضبط کر لیا جس کی قیمت آٹھ لاکھ تھی جو خلیفہ ہارون کے پاس پانچ سو اونٹوں پر
 بار کر کے بھیج دیا اور علی بن عیسیٰ کو اونٹ پر بغیر کجاوہ کے سوار کر کے دارالخلافت
 بغداد کی جانب روانہ کیا۔ بعد اسکے ہرثمہ نے ماوراء النہر کی جانب کوچ کیا

اور رافع بن لیث پر سمرقند میں محاصرہ ڈالا آخر کار طول محاصرہ سے گھبرا کے رافع نے امن طلب کی ہرثمہ نے امن دیدی اور چند دنوں سمرقند میں قیام پذیر رہا عمرو میں ہرثمہ کے آنے کا واقعہ ۱۹۳ھ کا ہے۔

۱۸۶ھ میں خلیفہ ہارون نے انبار سے بقصد حج مکہ معظمہ کا سفر اختیار فرمایا اس کے ساتھ اسکے تینوں لڑکے

محمد امین، عبدالمداموں، اور قاسم تھے۔ سب کے پہلے امین کی ولیعہدی کی بیعت لی تھی اور اسکو عراق، شام اور عرب کی حکومت عطا کی تھی بعد اسکے ماموں کو ولیعہد مقرر کیا اور اسکو خراسان اور ہمدان کے صوبجات تاقصائے مشرق دئے تھے اور ماموں کے بعد اپنے تیسرے بیٹے قاسم کی ولیعہدی کی بیعت لی تھی اور اسکو موتمن کا لقب دیا تھا مگر ماموں المرشید کو اسکی معزولی کا بصورت نالایق ثابت ہونے کے اور بجالی کا بصورت لایق ہونے کے اختیار دیا تھا اسکو جزیرہ، ثعور اور عواصم کی حکومت دی تھی۔

مدینہ منورہ پہنچ کے اہل مدینہ کو انعامات دئے مستحقین میں خیرات تقسیم کی جس کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ دینار تھی اسی طرح مکہ معظمہ میں داد و دہش سے کام لیا۔ فقہاء، قضاة اور سرداران لشکر کو طلب کر کے دونوں شہزادوں کی جانب سے جدا جدا عہد نامے لکھوائے ایک امین کی طرف سے ماموں کے ساتھ وفا کر نیکا۔ دوسرا ماموں کی طرف سے تھا امین کے ساتھ ایفاء عہد کا پھران دستاویزات کو شہادتوں سے مکمل کر کے خزانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا پھر جب ۱۸۹ھ میں طبرستان گیا اور وہاں چندے قیام پذیر رہا تو سرداران لشکر و اراکین دولت کو جمع کر کے یہ کہا کہ یہاں پر جو کچھ میرے لشکر میں مال، خزانہ، آلات حرب اور ساز و سامان ہے اسکا مالک مستقل صرف ماموں ہے اور ان لوگوں سے ماموں کی ولیعہدی کی تجدید بیعت کر کے بغداد کی جانب کوچ کر دیا۔

اسی طرح بغداد میں رؤساء شہر و سرداران لشکر کو مجتمع کر کے امین کی ولیعهدی کی بیعت کی تجدید کی۔

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ خالد بن برمک اکابر شیعہ سے تھا اور دولت عباسیہ میں جو اعزاز اور رتبہ اسکے خاندان کو

حاصل تھا وہ کسی اور اراکین سلطنت کو نصیب نہ تھا بڑی بڑی ولایتوں اور صوبوں کے براہمکہ ہی مالک و حکمران تھے۔ خلیفہ منصور نے موصل اور اذربایجان کی گورنری پر خالد کو مقرر کیا تھا اور اسکے بیٹے یحییٰ کو ارمینیا کی حکومت مرحمت کی تھی۔ خلیفہ مہدی نے ہارون الرشید کی اتالیقی اسی کے سپرد فرمائی تھی اس نے اس خدمت کو نہایت عمدگی سے انجام دیا تھا اور خلیفہ ہادی سے جبکہ ہارون کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولیعهد بنانے کا قصد کیا تھا اسی نے کھلم کھلا مخالفت کی تھی اسی بناء پر خلیفہ ہادی نے اسکو قید کر دیا تھا پس جب ہارون سریر خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو قلمدان وزارت یحییٰ کے سپرد کر کے امور مملکت کے سیاہ و سفید کرنے کا اختیار دیدیا۔

یحییٰ پہلے خیزران (مادر ہارون الرشید) کی راس سے امور مملکت کو انجام دیتا تھا لیکن جب یہ مر گئی تو اسکا قدم استقلال اور استحکام کے ساتھ سلطنت میں جم گیا اسکا بہت بڑا خاندان تھا حقیقی باچھیرے بھائی اور بیچے کثرت سے تھے اسکے بیٹے جعفر، فضل اور محمد امور سلطنت میں اپنے باپ کی طرح دخل تھے خلیفہ کے اقرب کا ان کو بہت بڑا حصہ شرف کا ملا تھا خلیفہ سے انکو خاص خصوصیت تھی اور فضل تو خلیفہ ہارون کا رضاعی بھائی تھا فضل کی ماں نے ہارون کو اور ہارون کی ماں خیزران نے فضل کو وودھ پلایا تھا اور چونکہ ہارون نے یحییٰ کی گود میں پرورش پائی تھی اس وجہ سے بیاس ادب یحییٰ کو باپ کے خطاب سے منسوب

کیا کرتا تھا اور (بچی کے معر ہو جانے پر) فضل اور جعفر کو عہدہ وزارت سے ممتاز کیا
 تھا۔ قبل اسکے جعفر کو مصر و خراسان کی گورنری بھی دی تھی اور جن دنوں مابین مضر یہ و
 یانہ شام میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا تھا اسی کو اس ہنگامہ کے فرو کرنے کے لئے
 منتخب کیا تھا چنانچہ اس نے کمال خوبی اس خدمت کو انجام دیا اور نیک نامی کے
 ساتھ واپس آیا تھا۔ فضل کو بھی حکومت مصر و خراسان دی گئی تھی اور جت کئی بن
 عبدالمد علوی نے بسازش و ولیم سر اٹھایا تھا تو فضل ہی کو خلیفہ ہارون نے یحییٰ بن
 عبدالسد کی طرف روانہ کیا تھا اسی کی حکمت عملی اور پولیٹیکل چالوں سے یحییٰ بن عبدالسد
 نے خلیفہ کی اطاعت قبول کی تھی۔ اور ماموں کی ولیعہدی کے بعد جعفر بن یحییٰ کو
 اتالیقی کی خدمت سپرد کی تھی ان کل مہمات، انتظامات اور ملکی خدمات کو ان لوگوں نے
 نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا۔ رعایا سے خلیفہ تک سب انکے مداح تھے۔

رفتہ رفتہ انکا اقتدار اور جاہ و جلال حکومت و سلطنت میں اس درجہ بڑھ گیا
 کہ خلیفہ کا نام ہی نام رہ گیا تھا اور سلطنت کے سیاہ و سفید کرنے کے یہی مالک
 تھے۔ امراء و دولت کو اس سے حسد پیدا ہوا موقع پا کے خلیفہ سے شکایتیں کرنے
 لگے آئے دن کی شکایات سے خلیفہ کے دل میں بھی بمقتضائے بشریت برا مکہ
 علی الخصوص جعفر کی طرف سے ایک کینیدگی پیدا ہو گئی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور
 فروگذاشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھنے لگا جس سے سنگین اور غیر قابل عفو جرائم
 دیکھے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ کی برہمی کے اسباب سے ایک سبب
 یہ بھی تھا کہ خلیفہ نے یحییٰ بن عبدالسد کو جب کہ فضل برملی اسکو ولیم سے بہ حکمت عملی
 لے آیا تھا جعفر برملی کے پاس نظر بند کروایا تھا اور اس نے اسکو بغیر اجازت و
 اطلاع خلیفہ رہا کر دیا فضل بن ربیع نے خلیفہ کے کان تک اس واقعہ کو پہنچا دیا۔
 خلیفہ نے جعفر سے استفسار کیا جعفر نے اس خبر کی تصدیق کر دی خلیفہ کو جعفر کی

اس خود رانی اور ایسے باغی ملزم کے رہا کر دینے سے کشیدگی پیدا ہوئی اور وقتاً فوقتاً لوگوں کی شکایتوں سے یہ کبیدگی بڑھتی گئی بالآخر صاف طور سے اپنی ناراضی کو ظاہر اور بات بات پر اعتراض کرنے لگا۔ ایک روز یحییٰ بن خالد حسب دستور قہم خلیفہ کی خدمت میں بلا اطلاع حاضر ہوا اتفاق سے اس وقت شاہی طبیب جبرئیل بن یحییٰ شوع بیٹھا ہوا تھا خلیفہ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا ”کیوں جبرئیل تمہارے مکان میں بھی یوں ہی بلا اطلاع لوگ چلے آتے ہیں؟“ عرض کی ”یہ غیر ممکن ہے“ پھر یحییٰ کی طرف متوجہ ہوا یحییٰ نے جواب دیا ”امیر المؤمنین ایہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں ہمیشہ بلا اجازت حاضر ہوتا تھا اگر پیشتر سے مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری حاضری بلا اطلاع ناگوار خاطر ہا یوں ہوتی ہے تو میں اپنے کو اسی طبقہ میں رکھتا“ خلیفہ نے شرم سے گردن جھکا کے کہا ”تم اپنے دل میں کچھ خیال نہ کرو میں نے یوں ہی ایک بات کہہ دی“ ہمیشہ کا دستور تھا کہ جب یحییٰ دربار خلافت میں آتا تو حاجب، دربان اور خدام تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے مگر شکر رنجی کے بعد خلیفہ ہارون کے اشارہ سے مسرور (خادم) نے تعظیم کرنے کی ممانعت کر دی چنانچہ جس وقت یحییٰ دربار خلافت میں حاضری کی عرض سے آتا تو دربان منہ پھیر لیتے تھے ایک مدت اسی حالت سے گزر گئی۔ ۱۸۷ھ میں حج سے واپسی کے وقت خلیفہ ہارون نے انبار میں قیام کیا جعفر بھی ہمراہ تھا ایک روز رات کو خلیفہ ہارون نے مسرور (اپنے خادم خاص) کو معہ ایک باعت سرنگوں کی طلب کر کے حکم دیدیا کہ تو اسی وقت جعفر کے خیمہ میں جا اور دروازہ خیمہ پر بلا کے اسکا سر اتار لا مسرور یہ سن کے کانپ اٹھا بار بار عرض کر رہا تھا کہ اب اس حکم کو غور کر کے صادر فرمائیے خلیفہ ہارون نے ڈانٹ کر کہا ”نہیں! تجھے اس حکم کی تعمیل کرنا ہوگی“ مسرور سہم گیا پھر خلیفہ زمین پر چھڑی ٹپک کے بولا ”جا“

اسی وقت اس حکم کی تعمیل کرو نہ تیری خیر نہیں ہے "مسرور یہ دیکھ کے کہ خلیفہ کا غصہ
 بڑھتا جاتا ہے رخصت ہو کے جعفر کے خیمہ میں آیا اور جعفر کا سر اتار کے خلیفہ ہارون
 کے روبرو لاکے رکھ دیا خلیفہ نے اسی شب میں فضل برملی کو گرفتار کر کے قید کر دیا
 اور یحییٰ کے کل مکانات، جاگیریں، اخدام اور مال و اسباب کے ضبطی کا ایک گشتی
 فرمان تمام مالک میں بھیج دیا اور براملہ کے چھوٹے بڑے کو جیل میں ڈال دیا۔ اگلے
 دن جعفر کی لاش بغداد کو روانہ کی اور یہ حکم دیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے پل
 پر نصف نصف ہر دو جانب آویزاں کر دئے جائیں۔ اس عتاب شاہی سے صرف
 محمد بن خالد برملی محفوظ رہا۔ خلیفہ ہارون کا یہ ایک احسان تھا کہ اس نے یحییٰ اور
 اسکے بیٹوں فضل، محمد اور موسیٰ پر کسی قسم کی سختی نہیں کی۔ بعد اسکے عبدالملک بن صالح
 بن علی پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ براملہ کا ہوا خواہ اور دوست ہے۔ خوبی قسمت سے
 یہ شکایت عبدالملک کے بیٹے عبدالرحمن نے کی تھی کہ اسکو بھی دعوائے خلافت
 ہے خلیفہ نے اسکو فضل بن ربیع کے پاس نظر بند کر دیا دوسرے دن سردربار
 طلب کر کے دھمکا کے حال دریافت کرنے لگا عبدالملک نے حلفاً اس سے
 انکار کیا اور اپنی خدمات سابقہ کا اظہار کر کے اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کیا
 شہادت کی غرض سے اسکا کاتب پیش کیا گیا عبدالملک نے کہا "یہ جھوٹا ہے"
 تب اسکا بیٹا عبدالرحمن بلا یا گیا عبدالملک نے عرض کی اسکی شہادت بھی قابل
 اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ مامور معذور ہے یا عاق فاجر ہے "خلیفہ ہارون یہ کہتا ہوا
 دربار عام سے اٹھ کھڑا ہوا "تو ان دو سے زیادہ اور عادل شاہد کہاں سے آسکتے
 ہیں خیر میں اس بابت غور کرونگا دیکھوں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کیونکہ وہی
 میرے اور تیرے درمیان میں حکم ہے "عبدالملک نے جواب دیا بہتر میں بھی
 اللہ تعالیٰ کے حکم ہونے اور امیر المؤمنین کے حاکم ہونے پر راضی ہوں کیونکہ

مجھے یقین کامل ہے کہ امیر المومنین اپنی خواہش نفسانی کو رضائے رب پر مقدم نہ کرے گا۔
 پھر دوسرے دن خلیفہ ہارون نے اسکو سردار طلب کیا خوف جان سے کانپتا ڈرتا
 ہوا حاضر ہوا اور اپنے تعلقات خدمات اور خیر خواہیاں ظاہر کرنے لگا خلیفہ ہارون
 نے کہا ”والد اگر بنی ہاشم کو صفحہ ہستی پر باقی رکھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بے شک
 تجھے قتل کر ڈالتا“ اور بدستور جیل میں بھیج دیا اس کے بعد عبدالمدین مالک (یہ محکمہ
 پولیس کا افسر اعلیٰ تھا) حاضر ہوا باتوں باتوں عبدالملک کا ذکر آگیا عبدالمدین
 مالک نے عرض کی ”امیر المومنین! سچ تو یہ ہے کہ عبدالملک آپ کا بڑا خیر خواہ
 اور جان نثار ہے میں نے آج تک اس سے کسی قسم کی بُرائی نہیں دیکھی“ خلیفہ ہارون
 نے فرمایا ”اگر تم کو اسکے حرکات و سکنات اور افعال سے اطمینان کلی ہے تو میں
 اسکو رہا کئے دیتا ہوں“ عرض کی ”چونکہ آپ نے اسکو قید کر دیا ہے بالفعل یہ
 نامناسب ہے مگر نرمی کیجئے“ خلیفہ ہارون نے ایسا ہی کیا اور وظیفہ مقرر کر دیا
 یہاں تک کہ ہارون الرشید کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ امین نے اسکو رہا کیا۔

بعد اس واقعہ کے خلیفہ ہارون نے قیدیوں کے برابری پر سختی شروع کر دی کئی برائی
 کے پاس ملامت نہ کہلا بھیجا ”تم نے مجھ سے عبدالملک کے باغیانہ خیالات چھپائے
 تم کو یہ زبیا نہ تھا“ کئی نے یہ پیام سن کے جواب دیا ”امیر المومنین! خود یہ خیال
 فرما سکتے ہیں کہ عبدالملک مجھ سے اپنے ایسے پوشیدہ راز کیوں بتلائے گا میں تو ہوا خواہ
 دولت و حکومت تھا اور اگر مجھے یہ امر اشارۃً گنایتہً کسی طرح معلوم ہو جاتا تو میں
 اسکا آپ سے زیادہ دشمن ہوتا نعوذ باللہ! آپ ایسے خیالات اپنے دماغ عالی
 سے دور کیجئے ہاں یہ ضرور تھا کہ میں بوجہ تقدس مذہبی اس سے محبت رکھتا تھا اور
 میرا گمان تو یہ ہے کہ اس میں مذہبی تقدس سب عباسیوں سے بڑھ کر ہے“
 پیامبر نے یہ پیام خلیفہ ہارون تک پہنچایا خلیفہ نے پیامبر کو پھر اٹلے پاؤں

یچی کے پاس بھیجا اور یہ دھکی دی کہ اگر صحیح صحیح واقعہ بیان نہ کرو گے تو میں تمہارے
 بیٹے فضل کو قتل کر ڈالوں گا۔ یچی نے جواب دیا ”امیر المؤمنین کو اختیار ہے ہم لوگوں
 کی جانیں آپ کے قبضہ میں ہیں جو چاہیں کریں“ پیامبر نے یہ سن کے فضل کا ہاتھ
 پکڑ لیا اور لے چلا۔ یچی زار زار رونے لگا فضل اپنے بڑے سے اور مصیبت زدہ باپ
 سے رخصت ہوا۔ یچی نے رخصت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دعا دی۔
 خلیفہ ہارون کے حکم کے مطابق پیامبر نے فضل کو تین روز تک دوسرے مکان
 میں قید رکھا جب ان دونوں آدمیوں سے کسی حال کا انکشاف نہ ہوا تو پھر دونوں
 کو ایک ہی جگہ پر قید کر دیا۔

ابراہیم بن عثمان بن نہیک بعد قتل جعفر برکی اکثر برا مکہ کا ذکر کر کے رویا کرتا تھا اور
 اسکی قوم بھی اسکے ساتھ روتی تھی ابراہیم کی روتے روتے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ
 دیوانہ وار جعفر کا قصاص مانگنے لگتا تھا اور جب کنیزوں کے ساتھ مجلس عیش میں
 نبیذینے کو بیٹھتا تھا تو تلوار ہاتھ میں لیکر کہتا تھا وا جعفر اہ واسید اہ واللہ
 لا تارت باک ولا قتلن قاتلک (ہاے جعفر ہاے میرے سردار والدین
 تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا اور تمہارے قاتل کو ضرور قتل کروں گا) ابراہیم کا یہ
 جوش انتقام دیکھ کے اسکے بیٹے اور حفص نے جا کر خلیفہ ہارون سے اطلاع کر دی
 خلیفہ ہارون ابراہیم کو طلب کر کے جعفر کے قتل پر افسوس و ندامت ظاہر کرنے لگا
 ابراہیم نے رو کے جواب دیا ”والد امیر المؤمنین آپ نے بہت بڑی غلطی کی“
 ہارون الرشید یہ سن کے جھلا اٹھا جھڑک کے بولا ”چل اٹھ کھڑا ہو“ ابراہیم
 جوں ہی اٹھا اسکے بیٹے نے پیچھے سے ایک تلوار کا ہاتھ لگایا جس کے صدمہ سے
 چند راتوں کے بعد مر گیا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے ہارون کے حکم سے
 یہ فعل کیا تھا۔

یہی برکی برابر کوفہ ہی کے جیل میں رہا تا آنکہ ۹۰ھ میں انتقال کر گیا بعد اُس کے بیٹے افضل نے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ خاندان براکہ محاسن عالم سے تھے اور ان کی دولت منجملہ بڑی دولتوں کے تھی اور یہ لوگ دولت اور ملت کے چہرہ کی زیبائش تھے۔

(مترجم) علامہ مورخ نے جس قدر حالات خاندان براکہ کے تحریر فرمائے ہیں وہ نہایت چٹخے اور سٹلے ہوئے ہیں کسی مقام پر نقطہ تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر میں اختصار کے ساتھ۔ لہذا میں یہ نظر دلچسپی ناظرین خاندان براکہ کے مشاہیر کے حالات اور کتب تواریخ سے لکھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ پڑھنے والے شوق و دلچسپی سے پڑھیں گے۔

خاندان براکہ سے جو سب کے پہلے عہدہ وزارت سے ممتاز کیا گیا وہ خالد برکی تھا اس کے اجداد آتشکدہ نو بہار کے متولی تھے جس کو منوچہر بادشاہ فارس نے ماہتاب کے نام پر بنوایا تھا۔ مشہور آتشکدوں میں چوتھا نمبر اسی کا تھا۔ جب ۸۵ھ عہد خلافت عثمان ذی النورین میں خراسان مفتوح ہوا اور اسلامی حکومت تمام اطراف میں پھیل گئی اُس وقت یہ آتشکدہ بھی جو عہد منوچہر سے آباد چلا آتا تھا ویران ہو گیا اور خاندان براکہ رنج و مصیبت کے محاصرہ میں آ گیا۔ پھر ۸۶ھ عہد خلافت ولید بن عبد الملک اموی میں قتیبہ بن مسلم حجاج کی طرف سے خراسان کا گورنر ہو کے وارد خراسان ہوا اور ایک بہت بڑی فوج مرتب کر کے مرو پر فوج کشی کر دی اس لڑائی میں جہاں اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا وہاں لونڈیاں بھی گرفتار ہو کر آئی تھیں ان میں ایک عورت برک کی تھی تقسیم غنیمت کے وقت یہ عورت عبد اللہ بن مسلم (برادر قتیبہ) کے حصہ میں آئی اتفاق سے یہ اُس سے باردا ہو گئی چند روز بعد اہل مرو سے صلح ہوئی تو قتیبہ کے حکم سے لونڈیاں واپس ہوئیں

مجبوراً عجب اندھنے اس برکی عورت کو بھی بریک کے پاس واپس کر دیا مگر یہ شرط
 قرار پائی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہمارا ہے۔ انقضائے مدت محل کے بعد خالد پیدا ہوا اسکی
 تعلیم و تربیت کا زمانہ کیسا اور کہاں گذرا اسکے نسبت ہم خامہ فرسائی نہیں کیا چاہتے
 اس کا عروج ۳۲ھ عہد خلافت سفلح سے شروع ہوتا ہے۔ ابوسلمہ خلیل وزیر
 آل محمد کے قتل کے بعد وزارت کا معزز عہدہ اسی کو مرحمت کیا گیا سفلح کے
 مرنے تک اس نے وزارت کی۔ المنصور سریر خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے
 بھی اس کو وزارت ہی کے عہدہ پر رکھا لیکن بعد ایک سال ایک مہینہ کے
 ابوایوب موریانی کی حکمت عملی سے خلیفہ منصور نے خالد کو بغاوت اکراد کے
 فرو کرنے کو قارس بھیج دیا۔ خالد کے جانے کے بعد ابوایوب موریانی قلمدان
 وزارت کا مالک بنایا گیا۔ اگرچہ پھر خالد کو عہدہ وزارت نصیب نہیں ہوا لیکن
 بڑے بڑے ذمہ داریوں کے کام اسکے سپرد رہے۔ خلیفہ مہدی کا زمانہ ولیعہدی
 میں اتالیق رہا۔ موصل کی حکومت اس کے سپرد کی گئی۔ غرض جب تک زندہ رہا
 ممتاز عہدہ سے سرفراز رہا آخر الامر بقول ابن القادسی ۱۶۳ھ میں وفات
 پائی۔ اسکا ایک لڑکا بھی تھا۔

یحییٰ برکی ہشام بن عبد الملک اموی کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوا سن ولادت
 کا باوجود تلاش کے کچھ پتہ نہیں چلا اسکی تعلیم و تربیت اور بن طفولیت کے حالات
 سے ہم کو چنداں واقفیت نہیں ہوئی مگر ہم اتنا بتلا سکتے ہیں کہ جب اس کے
 شباب کا زمانہ ہوا تو اس کا نامور باپ دولت عباسیہ کے اراکین سلطنت سے شمار
 کیا جاتا تھا۔ خالد کی کارگزاریوں اور یحییٰ کی قابلیت پر نظر کر کے یحییٰ کو خلیفہ مہدی نے

۱۵ ابن خلکان مطبوعہ مصر جلد اول صفحہ ۱۰۶۔

۱۶ ابن خلکان جلد اول صفحہ ۱۰۶۔

۱۷ ابن خلکان جلد ۲ مطبوعہ مصر صفحہ ۳۲۲۔

ہارون الرشید کا اتالیق مقرر کیا چنانچہ ہارون نے اسی کے آغوش تربیت اور نگرانی میں تعلیم پائی اور جب ہارون کو خلیفہ مہدی نے حدود مغرب، اوزبیکان اور ارمینیہ کی گوزری مرحمت کی تو منجملہ اور خاص خاص آدمیوں کے جو ہارون کے ہمراہ بھیجے گئے تھے یحییٰ برکلی بھی تھا۔ جس وقت خلیفہ ہادی نے ہارون کو خلافت و سلطنت سے محروم رکھنے کی فکر کی تھی اُس وقت یحییٰ نے اس راسے سے مخالفت کی تھی جس کی پاداش میں اسکو سزائے قید جھیلنا پڑی تھی اور تا وقت وفات ہادی یہ جیل میں رہا۔ انہیں خیر خواہیوں اور دل سوزیوں کے صلہ میں ہارون نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی یحییٰ کو امور مملکت میں سیاہ و سفید کرنے کا اختیار دیدیا تھا۔ اس کے زمانہ وزارت میں دربار خلافت اہل علم و اہل کمال سے بھرا رہتا تھا اس کے عہد میں علوم اور فنون کے ترجمہ کی ترقی ہوئی۔ یہ بہت بڑا فیاض، رحیم، کریم اور رقیق القلب تھا معلومات اسکے وسیع تھے شاعر بھی تھا اور علم نجوم میں اس کو ایک خاص مہارت تھی اوایل عمر سے اسکے درمیانی عمر کا حصہ نہایت اچھا رہا اگر آخری حصہ عمر نہایت بُرے طور سے گذرا تیسری محرم سن ۱۹۰ھ میں کوفہ کے جیل میں وفات پائی۔ اس کے آٹھ بیٹے، فضل، محمد، جعفر، موسیٰ، عباس، احمد، خالد، عبدالمد تھے لیکن ان میں سے فضل و جعفر زیادہ مشہور ہیں اور انہیں کے اقتدار اور جاہ و جلال کے انساے عہد خلافت ہارون الرشید میں مشہور ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ علاوہ ان آٹھ لڑکوں کے ایک لڑکا اور تھا جس کا نام باوچوڑ تحقیق اور تفتیش مجھے معلوم نہیں ہوا۔

فضل برکلی تیسویں ذی الحجہ ۱۲۷ھ میں پیدا ہوا اس کے ایک مہینہ بعد ہارون الرشید کی ولادت ہوئی دونوں ایک دوسرے کے رفیع تھے ہارون الرشید جیسا یحییٰ کو باب

کہا کرتا تھا ویسا ہی فضل و جعفر کو بھائی کے خطاب سے یاد کرتا تھا مہدی نے ہارون کی اتالیقی بچی کو سپرد کی تھی اور ہارون نے جعفر و فضل کے اغوش تربیت میں اپنے بیٹوں امین و مامون کو دیا تھا۔ ہارون الرشید کا پہلا وزیر بچی بزرگی تھا لیکن ضعیف ہو جانے پر ۷۴۷ء میں قلمدان وزارت فضل کے سپرد کیا گیا مگر بچی کا اقتدار بدستور قائم رہا اور پیچیدہ معاملات ملکی اسی کی رائے سے طے کئے جاتے تھے بچی بن عبد اللہ علوی کی بغاوت کے زمانہ میں ہی اس مہم پر روانہ کیا گیا اور اس نے اس خدمت کو بغیر جنگ اور خونریزی کے نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا تھا۔ اس حسن خدمت کے صلہ میں ہارون الرشید نے صوبہ خراسان کی گورنری مرحمت کی تھی اور طبرستان، رے، انہا و نند، ہمدان، جرجان، اور بیجان اور ارمینہ کے بلاد اس کی گورنری میں ملحق کر دیئے تھے۔ فضل کا دائرہ حکومت بہت بڑا تھا۔ جو اب کریم، فیاض اور علم و ہنر کا قدروان تھا۔ اسکی سخاوت اور فیاضی کے حالات لکھنے کو ایک دفتر چاہئے اسکی داد، دہش نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ علوم و فنون کے ترقی دینے میں بھی اسکو بہت بڑا حصہ ملا کاغذ بنانے کا کارخانہ اسی نے جاری کیا۔

۴۵ برس کی عمر میں یوم جمعہ محرم ۱۹۳ھ کو رقبہ کے جیل میں انتقال کیا۔ جعفر بزرگی بچی بزرگی کا دوسرا نامور بیٹا تھا۔ اس کے اقتدار اور ملکی خدمات کے تذکرہ روز روشن کی طرح ظاہر ہیں۔ خلیفہ ہارون کو اس سے دلی محبت تھی ایک ساعت بغیر اسکے چین نہ آتا تھا۔ مصر اور خراسان کی گورنری پر رہا اور فضل کے بعد عمدہ وزارت سے ممتاز کیا گیا عقیل، فہیم اور تجربہ کار تھا اسکی لیاقت پر ہارون الرشید کو ناز تھا وزارت کا اقتدار اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ ہارون الرشید برائے نام خلیفہ

۱۵ ابن خلکان جلد ۱ صفحہ ۴۰۹۔

۱۶ مقدمہ ابن خلدون فصل ۱۱۱ صناعة الوراقہ صفحہ ۳۵۰۔

تھا حکم و احکام تمام ممالک محروسہ میں اسی کے جاری تھے جہاں دیکھئے اسی کی جاگیر تھی۔ عالیشان مکانات و جگہ کے کنارہ اسی کے نظر آتے تھے ہر وقت اسکے دروازہ پہ حاجتمندوں کا میلہ سا لگا رہتا تھا۔ انہیں اسباب سے یہ اور اس کا خاندان تباہ و برباد کیا گیا۔ اسکے قتل کے افسانہ میں بڑی رنگ آمیزی کی گئی ہے۔ عجیب و غریب واقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ دلچسپی سے سنتے اور نقل کرتے ہیں۔ اس لیے سروپا افسانہ کے ذکر سے تاریخ کے دامن پر پیدما داغ لگ گیا ہے۔

اس غلط واقعہ کا ناخذ جسکی شہرت اردو زبان میں بھی بذریعہ ناولوں اور رسائل کے ہو گئی ہے تاریخ کبیر ابو جعفر جبریل طبری ہے جس نے ۳۱۰ھ میں وفات پائی اس وقت سے آج تک برابر مورخین ایک دوسرے سے اس واقعہ کو نقل کرتے چلے آئے عام طور سے اس واقعہ کی تنقید و تحقیق کی طرف توجہ نہ کی گئی۔ مگر علامہ طبری نے جن الفاظ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کو خود اس روایت پر وثوق نہ تھا اُس کے الفاظ یہ ہیں:—

قد حدثني احمد بن زهير	مجھ سے احمد بن زہیر نے کہا معلوم ہوتا ہے
احسبه عن عمه زاهر بن	کہ اس نے اپنے چچا زاہر بن
حربان سبب هلاك جعفر	حرب سے یہ روایت کی ہے کہ سبب ہلاکت جعفر اور
والبراملة ان الرشيد كان	برا کہ کا یہ ہے کہ رشید کو نغمیر
لا يصبر من جعفر وعن	جعفر اور اپنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے
اخته عباسية بنت المهدي	ایک ساعت صبر نہیں آتا تھا اور یہ دونوں
وكان يحضرهما اذا	شراب نوشی کے جلسہ میں شریک ہوا کرتے
جلس للشرب فقال	تھے اس لئے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں
لجعفر ازوجكم هالكل	عباسیہ کا عقد تمہارے ساتھ کیا چاہتا

لَا النَّظْرَ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ
 شَيْءٌ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ
 فَرَوْجَهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ -
 ہوں تاکہ تم کو اس کا دیکھنا مباح ہو جائے لیکن
 زن و شوی کے تعلقات نہ ہوں، چنانچہ اس
 شرط پر عباسہ کا عقد جعفر سے کر دیا۔

یہی الفاظ ہیں جن کی بنا پر بعض مورخین نے بڑی بڑی خیالی عمارتیں قائم کر لی ہیں
 طبری سے جس نے اس واقعہ کی روایت کی ہے وہ احمد بن زہیر ہے اور احمد بن
 زہیر سے جس نے روایت کی ہے اسکا حال خود طبری کو معلوم نہیں ہوا اسکا یہ کہنا
 ”احسبہ عن عمہ زاہر بن حرب“ صاف طور سے بتلا رہا ہے کہ احمد
 بن زہیر کی روایت مورخانہ حیثیت سے نہیں ہے بلکہ عام روایت کی بنا پر ہے۔
 قطع نظر اس سے اگر یہ امر تسلیم کر لیا جائے طبری کی اخیر روایت کا جس پر سلسلہ
 روایت ختم ہو جاتا ہے زاہر ہی ہے تو زاہر کا یہ حال ہے کہ اسکا کسی معاملہ یا مشورہ
 عقد عباسہ میں شریک ہونا یا بوقت قتل جعفر موجود ہونا کسی تاریخ سے نہیں پایا
 جاتا۔ خود طبری نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اس معاملہ میں ہارون الرشید
 کے ہمراز و شریک تھے۔ اور بفرض تقدیر اگر طبری اس واقعہ کو تسلیم کر لیتا تو آگے
 چل کر اور اسباب قتل جعفر کے تحریر نہ کرتا اور اگر تحریر کرتا تو اس واقعہ کو ترجیح دیتا مگر
 اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ کل واقعات جو جعفر کے قتل کے محرک ہوئے تھے
 بلا ترجیح لکھ دئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ مذکورہ اس کے نزدیک مسلمہ
 نہیں ہے محمد یاب املیدی نے بھی اس واقعہ کو اعلام الناس صفحہ ۵۳ میں روایت
 ابراہیم بن اسحاق نقل کیا ہے اور اصل راوی کا نام ابو ثور زاہر بن عقیلاب اور
 بجائے عباسہ کے میمونہ کا نام لکھا ہے۔ بسین تفاوت رہ از کجا است تاہ کجا
 خلیفہ مہدی کی چار لڑکیاں بانوقہ، عباسہ، عالیہ اور سلمہ تھیں علاوہ ان کے
 کوئی لڑکی میمونہ نامی نہ تھی اور عباسہ کا عقد ہارون نے پہلے محمد بن سلیمان

سے کیا تھا جب یہ مر گیا تو ابراہیم بن صالح بن علی سے اسکا نکاح کیا گیا دیکھو
 کتاب المعارف لابن محمد عبدالمدین مسلم بن قتیبہ کاتب وینوری المتوفی ۲۷۶ھ
 صفحہ ۱۳۰ علامہ ابن خلدون مؤلف کتاب ہذا نے جو اس واقعہ پر مقدمہ تاریخ میں
 ریمارک کیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے مگر افسوس ہے کہ اسکو بخیاں
 اطالت مقال اعادہ نہیں کیا جاتے۔ فمن شاء الاطلاع علیہا فلیح
 الیہا۔ انتہی کلام المترجم۔

ملکی فتوحات | ہارون الرشید جیسا کہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے ایک
 سال جہاد کرتا تھا اور دوسرے سال زیارت کعبہ کو جاتا تھا اور روزانہ سو رکعتیں
 نماز پڑھا کرتا اور ایک ہزار درہم خیرات دیتا تھا اور جب حج کرنے کو جاتا تو ایک
 فقہار کو اپنے خیب خاص کے صرف سے اپنے ہمراہ لیجاتا تھا اور جس سال حج کو
 نہ جاتا تو تین سو آدمیوں کو اپنے صرف سے حج کرنے کو روانہ کرتا تھا۔ انتظام ملکی
 اور سیاست میں خلیفہ منصور کا پیرو تھا مگر داد و دہش میں اسکا مخالف تھا۔ اسکے
 پیشتر کوئی خلیفہ اس سے زیادہ سخی، جواد اور بے دریغ مال کا دینے والا نہیں
 گذرا جہاد کا بیحد شایق تھا نامی گرامی سپہ سالاروں اور اپنے خاندان کے سربراہوں
 ممبروں کو جنگ پر بھیجا کرتا تھا چنانچہ ۱۷۰ھ میں لشکر صائفہ کے ساتھ سلیمان بن
 عبدالمد بکائی کو مامور کیا تھا بعضوں کا بیان ہے کہ خود بنفس نفیس اس مہم پر
 گیا تھا اور ۱۷۲ھ میں اسحاق بن سلیمان بن علی بھیجا گیا تھا چنانچہ بلاد روم میں اسنے
 بہت بڑی کامیابی حاصل کی بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا آدمی قیدی بنا
 گئے۔ ۱۷۴ھ میں عبدالرحمن بن عبدالملک بن صالح صائفہ کی فوج کا سردار بنا
 جہاد پر روانہ کیا گیا اور بعضے کہتے ہیں کہ عبدالملک بھیجا گیا تھا پس اسنے رومیوں
 کو خوب نرک دی شدت سرا سے لشکریوں کے ہاتھ کٹ کے گر گئے بعد ازاں

۸۷ھ میں عبدالرزاق بن حمید ثعلبی، ۸۸ھ میں زفر بن قاسم اور ۸۹ھ میں خود خلیفہ ہارون نے بلا دروم پر بقصد جہاد فوج کشی کی قلعہ صفصاف کو بزور تیغ فتح کیا۔ اسی سنہ میں عبدالملک بن صالح نے بھی جہاد کیا تھا اور جوش کامیابی میں انقرہ تک بڑھتا چلا گیا مٹمورہ کو اسی نے اپنے زور تیغ سے مفتوح کیا اسی سنہ میں مسلمانوں نے معاوضہ دیکے اپنے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے رہا کرایا۔ یہ پہلی مصالحت تھی جو دولت عباسیہ میں ہوئی۔ اس کام کا انصرام قاسم بن رشید کے سپرد کیا گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے بے حد مسرت ہوئی مقام لاس میں فدیہ دیکے مسلمان قیدیوں کی رہائی کی مجلس منعقد کی گئی جو طرسوس سے بارہ فرسنگ کے فاصلہ پر تھا علماء اعیان سلطنت، سرحدی باشندے، اور ابوسلیمان کے ہمراہ تیس ہزار نظامی فوج اس میں شریک ہوئی والی طرسوس بھی اس موقع پر آگیا تھا۔ رومی بھی مسلمان قیدیوں کو لے کے آئے تھے جن کی تعداد تین ہزار سات سو تھی قاسم بن رشید نے ان کے معاوضہ میں رومی قیدیوں کو دیکے مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا۔ پھر ۸۲ھ میں عبدالرحمن بن عبدالملک بن صالح صائف کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا رفتہ رفتہ افسوس شہر صحا کہت تک پہنچ گیا اسی زمانہ میں ان لوگوں کو یہ خبر لگی کہ رومیوں نے اپنے باؤشا قسطنطین بن ایون کے بعد اسکی ماں ربی کو تخت حکومت پر جانشین کیا اور اس کو عطشہ کا لقب دیا ہے اس خبر کو سن کے اسلامی لشکر نے بلا دروم پر حملہ کیا اور کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ ۸۳ھ میں خاقان بادشاہ خزر کی لڑکی فضل بن یحییٰ کی طرف روانہ کی گئی اتفاق وقت سے مقام ہرودہ میں پہنچے مگر گئی اس کے ہمراہیوں نے واپس ہو کے اس کے باپ سے یہ ظاہر کیا کہ وہ بچیلہ و مکر ماری گئی ہے۔ خاقان کو اسکے سننے سے طیش آگیا لشکر مجتمع کر کے بلا در اسلام پر حملہ کے قصد سے باب الابواب سے خروج کیا ہزار مسلمانوں اور رومیوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی بدعتیں اور

ایسی زیادتیاں کیں کہ جس سے اس وقت تک کان آشنا نہیں ہوئے خلیفہ ہارون نے اس مہم کے سر کرنے کی غرض سے یزید بن مزید کو صوبہ ارمینیا کی گورنری پر مامور فرمایا اور اذربایجان کی حکومت کو بھی اسی کے قبضہ میں رہنے دیا۔ اور خزیمہ بن خازم کو ^{تصیین} میں اہل ارمینیا کی ملک کے لئے ٹھہرایا۔ بعضوں نے خاقان کے خروج کا یہ سبب ظاہر کیا ہے کہ سعید بن مسلم نے ہجیم سلمیٰ کو کسی وجہ سے مار ڈالا، ہجیم کا لڑکا خزمر کے پاس فریاد لے گیا خزمر نے لشکر مرتب کر کے سعید پر دھاوا کر دیا اور ارمینیا میں قتل و غارت کرتے ہوئے گھس پڑے۔ سعید بن مسلم یہ خبر پا کے بھاگ کھڑا ہوا اور خزمر بھی قتل و غارت کر کے واپس چلے گئے۔ ۱۸۰ھ میں خلیفہ نے قاسم بن رشید کو عوام صم کی گورنری پر مقرر کر کے بسرافسری لشکر صائفہ بلا دروم پر جہاد کرنے کو روانہ کیا پس اس نے قرہ پر پونچھے لڑائی کا نیرہ گاڑا اور اہل قرہ کو روزانہ جنگ و خونریزی سے تنگ کرنے انہیں دنوں قاسم نے عباس بن جعفر بن اشعث کو قلعہ سنان کے محاصرہ کو بھیجا رومی تاب مقابلہ نہ لائے تین سو بیس مسلمان قیدیوں کو دیکے مسلمانوں سے مصاحبت کر لی چنانچہ بعد مصاحبت شہزادہ قاسم مع اپنے لشکر کے واپس آیا ان دنوں روم کی حکومت ملکہ رہنی کے قبضہ میں تھی رومیوں نے اسکو معزول کر کے تقفور (ٹیکفورس) کو تخت نشین کیا یہ رومیوں کے دیوان الخراج (دفتر تحصیل مالگذاری یا بورڈ آف رونیو) کا افسر تھا اس واقعہ کے پانچ مہینہ بعد ملکہ رہنی مر گئی اور تقفور نے ادائے خراج مقررہ سے انکار کر کے بصلاح و مشورہ ارکان سلطنت ہارون الرشید کو ایک خط لکھ بھیجا خلیفہ ہارون اس خط کو دیکھ کے آپے سے باہر

۱۸۰ھ مضمون خط یہ تھا کہ ملکہ سابق نے اپنی نادانی سے تم کو رخ کا قائم مقام کیا تھا اور اپنے کو پیادہ کا قائم مقام بنا رکھا تھا۔ اسوجہ سے بہت سامال و اسباب اس نے تمہارے پاس روانہ کیا حالانکہ اسکا دو چند تم کو ملکہ کے پاس بھیجنا تھا اور یہ عورتوں کی فطرتی کمزوری (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

ہو گیا لشکر آراستہ کر کے بقصد جہاد بلا اوروم پر چڑھائی کر دی اور اس تیزی سے ہر قتل
 (ہریکلی) پائے تخت رومیوں پر جا پڑا کہ نقفور حیرت زدہ رہ گیا کچھ نہ بن پڑی مجبور
 ہو کے معافی مانگی مصالحت کی درخواست کی مگر مصالحت کے بعد ہی پھر یہ عہدی
 کی اس خیال سے کہ شدت سسرما کی وجہ سے خلیفہ ہارون لشکر کشی کا قصد نہ کریگا
 مگر اسکا یہ خیال خام نکل گیا۔ خلیفہ ہارون یہ خبر پانے کے کمر ہمت باندھ کے اٹھ کھڑا
 ہوا اور بلا اوروم میں پہنچ کے تمام ملک میں اپنی فوج کو پھیلا دیا بات کی بات
 میں بہت سے مشہور قلعے ملک روم کے فتح کر کے واپس آیا۔ ۸۸ھ میں سیرافری
 لشکر صائفہ ابراہیم بن جبرئیل نے حدود و مضافات سے بلا اوروم پر حملہ کیا نقفور
 والی روم مقابلہ پر آیا لیکن پہلے ہی حملہ میں تاب مقابلہ نہ لاسکا ہزیمت اٹھانے کے
 بھاگ کھڑا ہوا تقریباً چالیس ہزار فوج کام آگئی۔ اسی ستر میں شہزادہ قاسم
 بن رشید نے دابق میں رابطہ قائم کیا۔ ۸۹ھ میں خلیفہ ہارون نے جبکہ رے میں
 ٹھہرا ہوا تھا شروین بن قارن، تداہر مرزا، جدنازیار اور مرزبان بن جستان والی ولیم
 کو امان مرحمت کی اور حسین خادم کی معرفت امان نامہ لکھ کے طبرستان کی طرف
 روانہ کیا چنانچہ مرزبان اور تداہر مرزبان نامہ پاتے ہی دربار خلافت میں حاضر آئے
 خلیفہ نے نہایت اعزاز و احترام سے اپنا مہمان بنایا انعامات و صلے مرحمت کئے
 تداہر مرزا اور مرزبان نے اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار و اعتراف کر کے شروین کے
 اداسے خراج کا بھی ذمہ کر لیا۔ اسی سنہ میں مسلمانوں نے فدیہ دیکے اپنے قیدیوں

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) اور حماقت کی وجہ سے ہوا پس بغور معائنہ خط ہذا جس قدر اب تک تم نے ملک روم
 سے خراج وصول کیا ہے واپس کر دو اور اپنے کو آئندہ مصائب سے بچاؤ ورنہ بذریعہ تلوار فیصلہ
 کیا جائے گا" اس خط کے پڑھنے سے ہارون کا چہرہ غصہ سے تھما اٹھا اپنے قلم سے خط کی پشت پر
 یہ عبارت لکھ کے روانہ کر دیا من ہارون امیر المومنین الی نقفور (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

کورومیوں کی قید سے چھوڑا لیا کوئی مسلمان قیدی سرزمین روم میں بحالت قید باقی نہ رہا
 ۱۹۰ھ میں خلیفہ ہارون نے ماموں کورقہ میں اپنا نائب بنایا اور کل انتظام مملکت
 اسکے سپرد کر کے نقفور پادشاہ روم کی بدعہدی کی وجہ سے ایک لاکھ پینتیس ہزار
 فوج نظامی سے علاوہ فوج مجاہدین و متطوعہ (والنظیر) کے بلا در روم پر حملہ کر دیا
 اس مرتبہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا نام درج رجسٹر نہ تھا اور کوئی دارالخلافہ
 بغداد میں باقی نہیں رہا سب کے سب مکرستہ ہو کے عساکر اسلامیہ کے ساتھ
 جہاد کرنے کو روانہ ہو گئے اور خلیفہ ہارون نے بوقت روانگی اپنے ممالک محروسہ
 میں ایک گشتی فرمان بلا دس صدی پر جہاد کرنے کا روانہ کر دیا اور خود ہر قلعہ پر پہنچنے
 محاصرہ کر لیا تیس یوم کے محاصرہ کے بعد بزور تیغ فتح کر کے اہل قلعہ کو گرفتار کیا مال
 و اسباب جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ بعد ازاں داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ کو ستر ہزار فوج کے ساتھ
 بلا در روم کے اور قلععات کے مفتوح کرنے کو روانہ کیا المدجلستانہ نے اس ناموں
 سپہ سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلعے مفتوح کئے جس کو اس نے چاہا لوٹ لیا
 ویران کر دیا انہیں دنوں شراحیل بن معن ابن زائدہ نے قلعہ سقالیر (سلی) اور
 دبسہ کو ایزید بن مخلد نے قلعہ صفصاف اور قونیہ کو فتح کر لیا اور عبد اللہ بن مالک
 نے قلعہ ذی الکلاع پر محاصرہ ڈال دیا اور حمید بن معیوب امیر البحر مقرر کیا گیا اسنے
 سواحل شام و مصر کی کشتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرس پر چڑھائی کر دی اہل
 قبرس کو ہزیمت ہوئی حمید نے جزیرہ قبرس کو منہدم کر کے آگ لگا دی مال و

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) کلب الروم قد قرأت کتابک یا ابن الکافراۃ و الجواب ماتوا
 دون ما تسمع (ہارون الرشید امیر المؤمنین کی جانب سے نقفور گ روم کو معلوم ہو کر میں نے تیرا خط
 اسے کافر زادہ پڑھا اسکا جواب بجائے سننے کے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا) تاریخ کامل ابن اثیر
 جلد ۶ صفحہ ۴۴، مطبوعہ مصر۔

اسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا اور قبرس کے رہنے والوں میں سے تقریباً سترہ ہزار آدمیوں
 کو گرفتار کر لیا اور رافقہ میں لے جا کے فروخت کر ڈالا اسقف قبرس نے دو ہزار
 دینار دیکے قید کی مصیبت سے اپنی جان بچائی۔ ان واقعات کے بعد خلیفہ ہارون
 نے حلوان پر محاصرہ ڈالا اور چند دنوں کے محاصرہ کے بعد عقبہ بن جعفر کو محاصرہ پر
 چھوڑ کے کوچ کر گیا فقور نے روزانہ جنگ سے تنگ آ کے خراج اور اپنا جزیہ
 چار دینار اپنے لڑکے اور بطریق کی طرف سے دو دو دینار روانہ کئے اور یہ درخواست
 کی کہ قیدیوں پر ہر قلعہ سے فلاں عورت مجھے مرحمت فرمائی جائے کیونکہ یہ میرے
 بیٹے کی منگینتی بیوی ہے چنانچہ خلیفہ ہارون نے اس درخواست کے مطابق اس
 عورت کو روانہ کر دیا۔ اسی سنہ میں جزیرہ قبرس باغی ہو گیا تھا جسکو میویوب بن
 یحییٰ نے بزور تیغ اپنی مردانہ کوششوں سے سر کیا اور وہاں کے سرکشوں متکبروں
 کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جیوں ہی خلیفہ ہارون نے جہاد روم سے مراجعت کی
 رومی بادشاہ نے عین زربہ و کنیسہ سوزا کو لوٹ کے واپس چلا آیا مگر واپسی کے وقت
 اہل مصیصہ نے رومیوں سے کل مال و اسباب چھین لئے ۱۹۱ھ میں یزید بن مخلد
 ہبیری نے دس ہزار فوج کی جمعیت سے ملک روم پر جہاد کیا رومیوں نے ایک
 تنگ راہ میں ان لوگوں کو گھیر لیا یزید بن مخلد کو اس واقعہ میں ہزیمت ہوئی طرس
 سے دو منزل کے فاصلہ پر معہ پچاس آدمیوں کے شہید کر ڈالا۔ اسی سنہ میں خلیفہ
 ہارون نے ہرثمہ بن اعین کو قبل گورنری خراسان صائفہ کی سرداری مرحمت فرمائی
 اور تیس ہزار خراسانی لشکر صائفہ کی فوج میں اضافہ کر کے روانگی کا حکم دیا اور بعد
 روانگی ہرثمہ خود بھی عساکر اسلامیہ کے ساتھ بلا وسرحدی کے طرف کوچ کر دیا سرحد
 حدت پر عبدالمدن مالک کو اور مرعش پر سعید بن مسلم بن قتیبہ کو مامور فرمایا اسی زمانہ
 میں رومیوں نے مرعش پر بجالت غفلت سچون مارا اور بہت سا مال و اسباب لوٹ کے

واپس گئے بایں ہمہ سعید بن مسلم نے اپنے مقام سے حرکت تک نہ کی۔ خلیفہ کے کان تک یہ خبر پہنچی تو اس نے محمد بن یزید بن مزید کو طرسوس کی جانب روانہ کیا اور خود سرحد حرث پر قیام کر کے اپنے سپہ سالاروں کو سرحدی بلاد کے کلیسوں کے منہدم کرنے کو بھیج دیا۔ ذمیوں نے وضع و قطع اور لباس میں مسلمانوں سے مخالفت شروع کر دی۔ اسی سنہ میں ہرثمہ طرسوس کی تعمیر پر مامور کیا گیا فرخ خلیفہ کا خادم اس تعمیر کا منصرگ تھا تعمیر طرسوس میں تعویق ہوتی نظر آئی تو خلیفہ کے حکم سے خراسان کی تین ہزار فوج اور مصیصہ و انطاکیہ کی ایک ایک ہزار فوج طرسوس میں تعمیر کی غرض سے طلب کر لی گئی۔ چنانچہ ۹۲ھ میں طرسوس کی تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ اسی سنہ میں حزمیہ نے اطراف اذربایجان میں باغیانہ حرکت شروع کی جسکی سرکوبی پر عبدالمدین مالک دس ہزار کی جمعیت سے روانہ کیا گیا حزمیہ کا ایک گروہ کثیر قتل و قید کر لیا گیا یہ لڑائی مقام قرمانین میں ہوئی تھی خاتمہ جنگ کے بعد وہ قیدی جو میدان جنگ میں گرفتار کر لئے گئے تھے خلیفہ کے حکم سے قتل کر ڈالے گئے اور ان قیدیوں کو جو بعد جنگ کے گرفتار کئے گئے تھے فروخت کر ڈالا۔ اسی سنہ میں سرحدی بلاد پر ثابت بن مالک خزاعی مامور کیا گیا۔ اسی کے ہاتھ سے مظلومہ مفتوح ہوا اسی سنہ میں اسی کے ذریعہ سے مقام بردون میں رومیوں اور مسلمانوں سے مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدہ دیکھے اپنے اپنے قیدی رہا کر لئے۔ پھر دوبارہ اسی سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے معاوضہ دیکھے اپنے اپنے قیدیوں کو چھوڑا لیا۔ اس مصالحت میں مسلمان قیدیوں کی تعداد دو ہزار پچاس تھی۔

عَمَّال | افریقہ کی گورنری پر جیسا کہ ہم تحریر کر آئے ہیں مزید بن حاتم تھا ۱۱۸ھ میں اپنے بیٹے داؤد کو اپنا نائب بنا کے مرگیا خلیفہ ہارون نے اس کے مرنے پر روح بن حاتم (مزید کے بھائی) کو فلسطین سے طلب کر کے افریقہ کی گورنری

پر مامور فرمایا اور ابو ہریرہ محمد بن فرخ کو حکومت جزیرہ سے معزول کر کے قتل کر ڈالا اور بجائے اس کے (ابو حنیفہ حرب بن قیس) کو مامور فرمایا۔ ۴۷ھ میں موصل کی حکومت پر حکم بن سلیمان کو مقرر کیا اسی کے زمانہ گورنری میں فضل خارجی نے اطراف نصیبین میں خروج کیا اور نصیبین کو لوٹ کے دارپا، اردن اور خلاط کا قصد کیا پھر اس ارادہ کو ملتوی کر کے نصیبین کے قصد سے موصل کی طرف آیا حکم نے یہ خبر پا کے اپنا لشکر آراستہ کیا مقام زاب میں جنگ ہوئی پہلی لڑائی میں حکم کو ہزیمت ہوئی لیکن حکم نے نہایت عجلت سے دوبارہ اپنی قوت کو سنبھال کے فضل پر حملہ کر دیا اسی معرکہ میں فضل مع اپنے ہمراہیوں کے کام آگیا۔ اسی سنہ میں روح بن حاتم نے افریقیہ میں وفات پائی حبیب بن نصر پہلی اسکا جانشین کیا گیا مگر پھر جب فضل بن روح نے در خلافت میں حاضر ہو کے گورنری افریقیہ کی درخواست پیش کی تو خلیفہ ہارون نے حبیب کو معزول کر کے فضل کو افریقیہ کی سند گورنری مرحمت فرمائی۔ ۷۷ھ میں فضل وارد افریقیہ ہوا۔ اس کے پہنچتے ہی افریقیہ میں آتش بغاوت بھڑک اٹھی خراسانی لشکر اطاعت سے منحرف ہو گیا فضل نے ہر چند ان کی رضامندی کی کوشش کی وہ راضی نہ ہوئے روز بروز جوشن بغاوت بڑھتا گیا بالآخر خلیفہ ہارون نے ہرثمہ بن اعین کو سند گورنری عطا کر کے ایک لشکر کے ساتھ افریقیہ روانہ کیا۔ چنانچہ اسکی عمدہ کارگزاریوں سے بغاوت فرو ہو گئی۔ چونکہ اندنوں افریقیہ معدن نفاق و مخالفت ہو رہا تھا ہرثمہ بن اعین نے بعد چند گورنری سے استعفا داخل کیا خلیفہ نے منظور فرمایا اور اسی افریقیہ کے ڈھائی برس بعد عراق چلا آیا۔ اسی سنہ میں فضل بن یحییٰ کو بجائے اسکے بھائی جعفر بن یحییٰ کے مصر کی گورنری علاوہ حکومت رے اور سجستان کے مرحمت

۱۷ھ اصل کتاب میں اس مقام پر جگہ خالی ہے۔ یہ نام تاریخ کامل صفحہ ۴۷ جلد ۶ سے لکھا گیا ہے۔

کی گئی پھر تھوڑے دنوں کے بعد حکومت مصر سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان
 کو مامور کیا۔ اسکی تقرری کے بعد ہی مصر میں جو قیہ نے علم بغاوت بلند کیا (جو قیہ
 قیس و قضاء کا ایک گروہ ہے) خلیفہ ہارون نے اسحاق کی کمک پر ہرثمہ بن عین
 کو سند گورنری مصر مرحمت کر کے مامور فرمایا جو قیہ نے ہرثمہ کے پہنچتے ہی اطاعت
 قبول کر لی آتش بغاوت فرو ہو گئی ایک مہینہ بعد ہرثمہ کو معزول کر کے عبد الملک
 بن صالح کو مقرر کیا۔ اسی سنہ میں اپنی دولت و حکومت کا نظام بچی بن خالد کے
 سپرد کیا تھا اور سنہ ۱۸۰ھ میں جعفر بن یحییٰ برمکی کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بغاوت
 شام کے فرو کرنے کو روانہ کیا جس میں بہت بڑا ساز و سامان جنگ اور نامی نامی
 سپہ سالار اور مشہور مشہور جنگ آور تھے جعفر بن یحییٰ نے اپنی خداداد قابلیت سے
 اس فساد کو فرو کیا واپسی کے بعد خلیفہ ہارون نے بہ نظر قدر افزائی خراسان
 و سجستان کی گورنری مرحمت فرمائی۔ جعفر نے اپنی طرف سے عیسیٰ بن جعفر کو مقرر
 کیا اور خود مرہیس کے انتظام ملکی و مالی میں مصروف رہا اس اثنا میں ہرثمہ بن عین
 افریقیہ سے واپس آیا جعفر نے اپنی طرف سے خلیفہ کے باڈی گارڈ کی سرداری
 پر مامور کیا اسکے بعد فضل بن یحییٰ حکومت طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا
 عبدالعزیز بن خازم طبرستان اور رویان کا سعد بن مسلم جزیرہ کا اور یحییٰ بن سعد
 حریشی موصل کا والی مقرر کیا گیا اس نے اہل موصل کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے
 سنین ماضیہ کی مالگذاری بجز و تعدی وصول کرنے کی کوشش کی جس سے اکثر
 اہل موصل جلا وطن ہو کے نکل گئے خلیفہ ہارون نے اسکو معزول کر دیا اور (۱۸۵ھ)
 ۱۸۱ھ میں محمد بن مقاتل بن حکیم علی کو (ہرثمہ کے مستعفی ہونے کے بعد) افریقیہ
 کی گورنری مرحمت کی اسکا باپ مقاتل سپہ سالار ان شیبہ سے تھا اور یہ خود

خلیفہ ہارون کا رضاعی بھائی اور ساتھ کا کھیل ہوا تھا۔ اہل افریقیہ نے ہرثمہ کے علیحدہ
 ہونے پر پھر بغاوت اٹھایا تمام ملک میں بد نظمی پھیل گئی۔ ابراہیم بن اغلب ان دنوں
 والی زراب تھا اور لشکر افریقیہ اسی سے صلاح و مشورہ کرنے کو آتا تھا اور یہ درپردہ
 انکی امداد کرتا تھا مگر پھر بھی محمد نے اپنی حکمت عملیوں سے لشکر افریقیہ کو اپنا مطیع بنا لیا اور
 کل افریقیہ میں امن و امان کا دور ہو گیا۔ لشکر افریقیہ نے جو مجبوراً محمد کا مطیع ہو گیا
 تھا ابراہیم کو دربار خلافت میں گورنری افریقیہ کی درخواست پیش کرنے پر آمادہ
 کیا اس شرط پر کہ خراج مصر سے جو ایک لاکھ سالانہ افریقیہ کے مصارف فوج کیلئے
 جایا کرتا ہے چار لاکھ سالانہ علاوہ اس ایک لاکھ کے خزانہ شاہی میں سالانہ داخل
 کیا کرونگا۔ خلیفہ ہارون نے اپنے مشیروں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا ہرثمہ
 بن اعین نے اسے دی کہ ”ابراہیم بن اغلب کو افریقیہ کی گورنری دیدیجئے کوئی
 کوئی ہرج نہیں ہے پچنانچہ سند گورنری افریقیہ محرم ۸۲۷ھ میں ابراہیم کے پاس
 بھیج دی گئی۔ ابراہیم نے افریقیہ میں پہونچنے کے کل امور کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی
 بلوایوں اور باغیوں کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغداد بھیج دیا جس سے شور
 و بغاوت فرو ہو گئی۔ بلوہ فرو ہونے کے بعد قیروان کے قریب ایک شہر عباسیہ
 نامی آباد کیا اور معہ اپنے اہل و عیال، معتمدین اور حشم و خدم کے عباسیہ میں سکونت
 اختیار کی اسی وقت سے ملک افریقیہ میں اسکی حکومت و سلطنت کی بنا پڑی جو
 آئندہ اس کے سلسلہ نسل میں باقی رہی جیسا کہ اسکے حالات میں بیان کیا جائیگا
 تا آنکہ اس پر شیعی عبیدی خلفاء غالب آئے۔ یزید بن مزید اور یحییٰ بن کا گورنر تھا
 ۸۸ھ میں خلیفہ ہارون نے صوبہ ارمینیہ کو بھی اس کے صوبہ سے ملحق کر دیا
 اور خزیمہ بن خازم کو نصیبین کی گورنری عنایت کی۔ ۸۲۷ھ میں مین و مکہ کی حکومت
 حماد بربری کو، سندھ کی داؤد بن یزید بن حاتم کو، جبل کی یحییٰ حرشی کو، اور طبرستان

کی مہرویہ رازی کو عطا فرمائی۔ ۸۵ھ میں اہل طبرستان نے یورش کر کے مہرویہ کو مار ڈالا تب بجائے اسکے عبداللہ بن سعید حرشی کو مامور کیا۔ اسی سنہ میں یزید بن مزید شیبانی نے جو اذربجان و ارمینیا کا گورنر تھا مقام ہرذعہ میں وفات پائی بجائے اسکے اسکا بیٹا اسد بن یزید مامور کیا گیا۔ ۸۹ھ میں خلیفہ ہارون کو رے جانے کی ضرورت پیش آئی اسی زمانہ میں طبرستان رے، دوناوند، قومس اور سہدان کی حکومت عبدالملک بن مالک کو مرحمت کی۔ ۹۰ھ میں موصل کی گورنری پر خالد بن یزید بن حاتم کو مامور کیا۔ ہرثمہ کی گورنری سلیمان کی معزولی اور علی بن عیسیٰ کے اوبار کے واقعات جو ۹۱ھ میں گزرے تھے ان کو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اسی سنہ میں حماد بربری نے ہمصیم یانی پر فتح پائی خلیفہ ہارون کے پاس گرفتار کر لایا خلیفہ نے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ نیز اسی سنہ میں محمد بن فضل بن سلیمان کو موصل کی گورنری مرحمت فرمائی ان دنوں مکہ معظمہ کی حکومت پر فضل بن عباس (خلیفہ منصور و سفاح کا بھائی) تھا۔

رافع بن لیث کی بغاوت رافع بن لیث بن نصر بن سیار عساکر ماوراء النہر کے نامور سرداروں میں سے تھا، یحییٰ بن اشعث نے ایک نہایت حسین، خوبصورت، اور نازنین عورت سے عقد کر لیا تھا جس کے پاس اکثر بوقت فرصت آیا جایا کرتا تھا اتفاق یہ کہ کسی وجہ سے اس عورت کو یحییٰ سے کشیدگی پیدا ہو گئی علیحدگی کی فکر میں ہوئی رافع نے موقع مناسب پا کے یہ سکھلا دیا کہ تم دو شخصوں سے اپنے ارتداد و کفر کی شہادت دلا دو تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی یحییٰ کا نکاح ٹوٹ جائے گا بعد ازاں تم توبہ کر کے پھر اسلام قبول کر لینا میں تم سے شرعی طور سے عقد کر لوں گا اس عورت نے ایسا ہی کیا اور رافع سے اس نے عقد بھی کر لیا یحییٰ بن اشعث نے اسکی

شکایت خلیفہ ہارون کے کان تک پہنچائی اور اصل واقعہ کو لفظ بہ لفظ عرض کر دیا
 خلیفہ نے علی بن عیسیٰ کے نام اس مضمون کا فرمان بھیجا کہ رافع اور اس عورت سے
 علیحدگی کرا کے رافع پر حد شرعی جاری کرو اور شہر سمرقند میں گدھے پر سوار کرا کے
 تشہیر کرا دو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ چنانچہ تعمیل اس حکم کے رافع اس عورت
 سے علیحدہ کر کے قید کر دیا گیا ایک روز موقع پا کے رافع جیل سے بھاگ گیا علی بن
 عیسیٰ کے پاس بلج پہنچا علی بن عیسیٰ نے اسکے قتل کا قصد کیا مگر اپنے بیٹے عیسیٰ بن
 علی کی سفارش سے قتل نہ کیا اور سمرقند پھر واپس جانے کی ہدایت کی رافع نے
 سمرقند میں واپس ہو کے یہ نیا گل کھلایا کہ حالت غفلت میں عامل سمرقند کو جو علی
 بن عیسیٰ کی جانب سے تھا قتل کر کے سمرقند پر قابض ہو گیا یہ واقعہ ۱۹۰ھ کا ہے
 علی بن عیسیٰ نے یہ خبر پا کے اپنے بیٹے عیسیٰ کو رافع سے جنگ کرنے کو روانہ کیا
 رافع نے اسکو ہزیمت دیکے اثناء دارگیر میں مار ڈالا علی بن عیسیٰ نے اس واقعہ سے
 پریشان ہو کے بقصد جنگ رافع لشکر کی آغا سنگی اور سامان جنگ کی درستی شروع
 کر دی اور اس خیال سے کہ مبادا رافع مرو پر قبضہ نہ کر سکے بلج سے مرو چلا آیا انہیں
 واقعات کے اثناء میں سال کا دورہ پورا ہو گیا دوسرا سال شروع ہوا تو اس کے
 اوبار کا زمانہ تھا یہ معزول کر دیا گیا اور ہرثمہ بن اعین کو خراسان کی گورنری دی گئی۔
 رافع کے ہمراہ نامور نامور سپہ سالار بھی تھے مگر اسکی سوہ مزاجی سے اس سے
 علیحدہ ہو کے ہرثمہ کے پاس چلے آئے۔ از انجملہ عجیب بن عبسنہ وغیرہ تھے۔ ہرثمہ
 نے رافع بن لیث پر سمرقند میں محاصرہ ڈالا اور نہایت سختی سے ایک مدت دراز
 تک محاصرہ کئے رہا اسی اثناء میں طاہر بن حسین کو خراسان سے طلب کر لیا
 اسکے آجانے کے بعد حمزہ خارجی نے اطراف خراسان کو شاہی لشکر سے خالی
 پاسے سر اٹھایا ہرات و سجستان کے نیک حرام عمال نے بہت سامان اس کے

پاس بھیج دیا جس سے اسکی قوت بڑھ گئی بعد ازاں ۹۱۴ھ میں عبدالرحمن نے حمزہ سے جنگ کرنے کو نیشاپور کی طرف کوچ کیا تقریباً بیس ہزار فوج اسکے ہمراہ تھی۔ حمزہ بھی یہ خبر پا کے مقابلہ پر آیا مگر پہلے ہی حملہ میں حمزہ کو شکست فاش ہوئی بہت سے ہمراہی اسکے مارے گئے ہرات تک عبدالرحمن اسکا تعاقب کرتا گیا تا آنکہ خلیفہ المأمون نے فرمان بھیج کے تعاقب سے واپس کیا۔ ہاں ۹۱۳ھ میں مابین ہرثمہ و رافع لڑائی ہوئی تھی جس میں فتح و کامیابی ہرثمہ کو حاصل ہوئی تھی اسی واقعہ میں ہرثمہ نے بشر برادر رافع کو گرفتار کر کے خلیفہ ہارون کی خدمت میں بھیج دیا اور بخاری کو مفتوح کر لیا تھا قبیل اس واقعہ کے خلیفہ ہارون صائفہ سے مراجعت کرنے کے بعد طرسوس آباد کے رقبہ چلا آیا تھا اور رقبہ سے بقصد خراسان رافع کی سرکوبی کی غرض سے کوچ کر دیا تھا اور چونکہ رقبہ ہی سے سلسلہ عزالت شروع ہو گیا تھا رقبہ میں اپنے بیٹے قاسم کو اپنا نائب مقرر کیا اور خزمیہ بن خازم کو قاسم کے پاس چھوڑا اور اختلافت بغداد پہونچا اور بغداد سے سامان جنگ و سفرو دست کر کے اپنے بڑے بیٹے امین کو اپنا جانشین کر کے شعبان ۱۹۲ھ میں خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ روانگی کے وقت مامون الرشید کو امین کے ساتھ بغداد میں رہنے کا حکم صادر کیا فضل بن سہل نے مامون الرشید کو راسے دی کہ ”آپ خلیفہ ہارون کے ہمراہ خراسان چلے جائیے ایسا نہ ہو کہ امین کے ساتھ بغداد میں قیام کرنے سے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے“ مامون الرشید نے خلیفہ مامون (اپنے بزرگ باپ سے) عرض کیا خلیفہ ہارون نے مامون کی یہ درخواست منظور فرمائی۔

ہارون کی | دارالخلافت بغداد سے ہارون بہ قصد خراسان روانہ ہو کے
 موت | ماہ صفر ۱۹۳ھ میں جرجان پہونچا چونکہ عزالت کا سلسلہ طویل پہونچ گیا
 تھا قیام کر دیا اور اپنے بیٹے مامون الرشید کو نامی نامی سپہ سالاروں کے ساتھ جہیں

عبداللہ بن مالک، یحییٰ بن معاذ، اسد بن خزیمہ، عباس بن جعفر بن محمد بن اشعث، امجدی
 حریشی، اور نعیم بن خازم تھا مرو کی جانب روانہ کیا اور مامون کی روانگی کے بعد خود بھی مروی
 کے پاس طرسوس چلا گیا علالت یوں آئی اور پکڑتی گئی نقل و حرکت سے اس قدر مجبور
 ہو گیا کہ لوگوں میں اسکی موت کا غل جج گیا رفتہ رفتہ اسکے کان تک بھی یہ خبر پہنچی لوگوں
 کو دکھلانے کی غرض سے سوار ہونے کا قصد کیا مگر ضعف نے اٹھنے نہ دیا بستر علالت
 پر پڑا رہ گیا اس وقت جب کہ یہ طوس میں تھا بشیر برادر رافع جس کو ہرثمہ نے قید کر کے
 روانہ کیا تھا پونچا روبرو بلا کے کہا "والد اگر میری موت کے آنے میں اس قدر بھی وقفہ
 ہوتا کہ میں اپنے لبوں کو حرکت دے سکوں تو میں یہی حکم دیتا کہ اسکو مار ڈالو" بعد اس کے
 ایک قصاب کو طلب کر کے حکم دیا کہ "اسکا عضو عضو کاٹ کے علیحدہ کر دو" اس قدر کہنے
 کے بعد بیہوش ہو گیا حاضرین اٹھ کے چلے گئے جب اسکو اپنی زندگی سے ناامیدی
 ہوئی تو قبر تیار کرنے کا حکم دیا جس مکان میں مقیم تھا اسکے ایک گوشہ میں قبر کھودی گئی
 چند حفاظ قرآن نے قبر میں جا کے ختم قرآن کیا اور نحو و کنارہ قبر پر لیٹا ہوا دیکھتا رہا بار بار
 کہتا جاتا تھا "واسوا قاتلا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" تا آنکہ جان
 بحق تسلیم کی۔ اسکے بیٹے صالح نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسکی وفات کے وقت فضل بن
 ربیع، اسماعیل بن جبیر، مسرور، حسین اور رشید موجود تھا تیسیس برس یا کچھ زیادہ حکومت
 کی۔ بیت المال میں نوے کروڑ دینار چھوڑے۔

ہارون کے

حصائل

۱۵ یہ خلیفہ جو ابھی آپ لوگوں سے رخصت ہو کے عالم جاودانی کی طرف

راہی ہوا ہے بہت بڑا الو العزم، علم و ہنر کا قدر دان، فہم و فراست، عزم

و ثبات، فیاضی اور شجاعت میں ممتاز و کیتا تھا۔ خلفاء عباسیہ میں سب سے پہلے اسی نے علم

ہنر کی سرپرستی کا بیڑہ اٹھایا اسکی قدروانی ایسی شہرہ آفاق ہوئی کہ بڑے بڑے اہل کمال ہر چہار

طرف سے دربار خلافت میں کھینچے چلے آتے تھے خود بھی ذی علم تھا فقہ، حدیث، (باقی نوٹ صفحہ آئینہ)

امین کی خلافت

خلیفہ ہارون الرشید کی وفات پر اگلے دن صبح کو لشکر ہارون میں امین کی خلافت کی بیعت لی گئی۔ ہارون الرشید اس وقت مرو میں تھا حمویہ (خلیفہ مہدی کا آزاد غلام تھا) افسر ڈاک نے اپنے نایب سلام ابن سلم کو جو بغداد میں تھا اس واقعہ سے مطلع کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہو کے خلافت کی مبارکباد دینے کی ہدایت کی سب کے پہلے جس نے امین کو خلافت کی مبارکباد دی وہ یہی تھا۔ شہزادہ صالح بن ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک خط مشعر تہنیت خلافت اور وفات ہارون الرشید معرفت رجاہ خادم کے روانہ کیا اور ساتھ ہی اسکے خاتم خلافت۔ عصا اور چادر بھیج دی۔ رجاہ کے پہنچنے پر امین اپنے قصر سے جو خلد میں تھا برآمد ہو کے قصر خلافت میں آیا اور لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی خطبہ دیا اور حاضرین کو ہارون الرشید کی موت کی خبر سنا کے اپنی آپ اور لوگوں کی تعزیت کی بعد ازاں کل خاندان خلافت نے بیعت کی سلیمان بن المنصور جو خلیفہ امین کے باپ و ماں کا چچا تھا سپہ سالاروں سے اور سندی

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) ادب اور ایام العرب سے خوب ہی واقف تھا یحییٰ، فضل، اور جعفر اس کے تھے۔ جبرئیل اور نختیشوع نام نامی عیسائی اطباء اس کے دربار کے طبیب تھے۔ نخواہ پچیس روپے پیادہ کی دس روپے تھے سپہ سالاری کا کام وقت جنگ یر عظم، قاضی القضاة اور خلیفہ کے بیٹے کر لیا کرتے تھے۔

سلطنت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسکے ملک محروسہ کی حدیں ہندو تانار سے تک تھیں سوائے اندلس عظمیٰ (اسپین) کے اور کل اسلامی دنیا اس کی مطیع تھی روم و یورپ ناز کر سکتا تھا اس نامور خلیفہ کے خراج گزار تھے۔ اسکے ملک کا سالانہ خراج سات لاکھ پانچ سو قنطار تھا ایک قنطار ۸۴۰۰ دینار کا اور ایک دینار پانچ روپیہ کا ہوتا ہے۔

مذہبی عقاید اور خیالات کا پابند تھا۔ زندقہ و احماد سے سخت نفرت تھی بزرگان دین سے معتقدانہ ملتا تھا نفیس بن عیاض کے مکان پر خود جاتا تھا۔ علماء و فضلاء کی نصیحتوں کو (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

عوام الناس سے بیعت لینے پر مامور کیا گیا۔ بغداد کی نظامی فوج کو دو برس کا روزینہ عنایت کیا۔ بعد اسکے زبیدہ خاتون رقبہ سے بغداد آئیں خلیفہ امین معہ اراکین سلطنت و اہل و عیال بغداد انبار تک استقبال کرنے کو گیا زبیدہ ہی کے ساتھ خزانہ شاہی تھا۔

ہارون کے انتقال کے پہلے جس وقت کہ اسکی علالت ترقی پذیر ہو رہی تھی اسکے لشکر گاہ میں ایک خط بکر بن البعتر کے معرفت امین نے اپنی بیعت لینے کی غرض سے روانہ کیا تھا دوسرا خط مامون و مومن کے نام بھی اسی مضمون کا بھیجا تھا اور تیسرا خط اپنے بھائی صالح کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ معہ لشکر خزائن اور مال و اسباب کے فضل کے مشورہ و رائے سے چلے آؤ ان خطوط کے علاوہ ایک خط علیحدہ فضل کے نام مال و اسباب اور خزائن شاہی کی حفاظت کی بابت لکھا تھا اور ہر محکمہ کے افسر کو اسکے عہدہ پر بحال و قائم رکھا تھا مثلاً پولیس، یاڈی گارڈ، اور حجابت وغیرہ۔ اتفاق سے اس کی اطلاع ہارون کو ہو گئی۔ بکر کو بلا بھیجا آنیکا سبب دریافت کیا بکر نے صاف جواب دیا ہارون کو

بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ گوش و ہوش سے سنتا تھا۔

شعرا و شعراء سے محبت دلی رکھتا تھا اپنے مدائح کو زیادہ پسند کرتا تھا علی الخصوص شاعر خوش کلام کے کلام کو کمال رغبت و شوق سے سنتا اور انکو بڑے بڑے انعامات دیتا تھا مروان بن ابی حفصہ کو ایک قصیدہ پر جس کا ایک شعر یہ ہے

”وسدت بھرون الثخور فاحکمت + بہ من امور المسلمین المرائر“

پانچ ہزار دینار، ایک خلعت فاخرہ، دس غلام رومی اور ایک خاصہ کا گھوڑا مرحمت کیا تھا۔ خلفاء عباسیہ میں سب کے سب پہلے اسی نے چوگان کھیلا اور اویراں نشانہ پر شرط باندھ کر تیر اندازی کی اور شرط پنج کھیلی اور بے تکلفی کی مجلس میں نغمہ و سرود کو شوق و ذوق سے بیٹھ کے سنا گو یوں کے مراتب اور وظیفے مقرر کئے۔ ابراہیم موصلی کو جو اپنے زمانہ میں علم موسیقی کا استاد مانا جاتا تھا دس ہزار درہم ماہانہ دیتا تھا۔ رقیق القلب اس درجہ تھا کہ تھوڑی سی (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

شہبہ پیدا ہوا استفسار فرمایا "کوئی خط لایا ہے" جواب دیا نہیں خلیفہ ہارون نے بہانے کے
 درے پٹو کے جیل میں ڈال دیا اس واقعہ کے بعد ہی ہارون کا انتقال ہو گیا فضل بن
 ربیع نے بکر کو جیل سے نکلوایا بکر نے امین کے خطوط حوالہ کر دئے۔ اراکین سلطنت
 خطوط پڑھ کے امین سے ملجانے کی بابت مشورہ کرنے لگے فضل بن ربیع نے معہ
 ان لوگوں کے جو اس وقت لشکر گاہ میں تھے اسوجہ سے کہ ان لوگوں کو خود اپنے وطن
 جانے کی تمنا تھی بغداد کی طرف کوچ کر دیا اس نے اور کھل لشکریوں نے مامون کے
 عداور شقاق کو پس پشت ڈال دیا۔

مامون الرشید کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے باپ کے سپہ سالاروں
 عبد اللہ بن مالک، یحییٰ بن معاذ، شیب بن حمید بن قحطیبہ اور علاء مولیٰ ہارون کو
 جو ہمراہ رکاب تھے ایک جلسہ میں مجتمع کیا۔ علاء اسکا حاجب (لارڈ چیمبر لین) عباس
 بن مسیب بن زہیر افسر عالی پولیس، ایوب بن ابی سمیر کا تب (سکرٹری) انہا عبد الرحمن

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) تحریک پر زرارہ روٹھتا تھا محمد بن منصور بغدادی راوی ہے کہ جن دنوں خلیفہ
 ہارون نے ابو العتاہیہ کو جیل کی سزا دی تھی ایک جاسوس کو اسکے روزانہ گفتگو و کلام سے اطلاع
 دینے پر مقرر کیا تھا ایک روز ابو العتاہیہ نے دیوار جیل پر جوش میں آکے یہ دو شعر لکھ دئے۔

اما والله ان الظلم یوم وما زال لمسی ههوا الظلوم
 الی دیان یوم الدین تمضی وعند الله تجتمع الخصوم

جاسوس نے خلیفہ کے کان تک ان شعروں کو پہنچا دیا سن کے روپڑا اور رے سکون ہوا تو
 ابو العتاہیہ کو طلب کر کے رہا کر دیا اور ایک ہزار دینار مرحمت کئے۔

سیاست ملکی اور معاملات سلطنت میں بیدار مغزی سے کام لیتا تھا بقائے سلطنت اور
 خلافت کی شان و شکوہ کا بچہ کوشاں تھا۔ انہیں وجوہ سے برا کہہ کا قتل وقوع میں آیا اور نامی
 معاملہ سے لوگوں نے یہ الزام اس کے سر تھوپ دیا مگر عقل سلیم اور (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

بن عبد الملک بن صالح اور ذوالریاستین فضل بن سہل مخصوص و معزز معتدین سے تھے۔ حاضرین میں سے بعضوں نے یہ رائے دی کہ فوراً تعاقب کر کے فضل بن ربیع مع اپنے ہمراہیوں کے واپس لایا جائے لیکن فضل بن سہل نے اس سے اختلاف کر کے مشورہ دیا کہ ”مجھے اس امر کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ میاں داوہ لوگ آپ کو دیکھا نہ دیں میرے نزدیک مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بذریعہ خط و کتابت ان لوگوں کو ایفاء عہد و میثاق اور پابندی بیعت کا حکم دیجئے اور بد عہدی و نقض بیعت کے نتیجہ بد سے ڈریئے“ مامون الرشید نے اس رائے کی مطابق سہل بن صالح اور نول خادم کی معرفت ایک خط نیشاپور فضل بن ربیع وغیرہ کے پاس روانہ کیا فضل ربیع نے خط پڑھ کے کہا ”کیا میں ہی اکیلا اس لشکر میں ہوں“ عبدالرحمن نے اپنے پاؤں سے ابن سہل کو دبا کے نیزہ مارنیکا قصد کیا پھر کچھ سوچ سمجھ کے نیزہ کا پیل دکھلا کے بولا ”اگر تیرا آقا مامون، ہوتا تو اس کے سینہ پر بھی یہی رکھ دیتا“ ابن سہل حیرت زدہ عبدالرحمن کا

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) انصاف گزین تحقیق پسند طبیعت یہ بتلا رہی ہے کہ ہارون الرشید نے بعض ملکی مصالح سے برا ملک کے خاندان کو تباہ کیا تھا کہ جعفر و عباسیہ کے بے بنیاد نکاح کے باعث سے۔ جیسا کہ عام طور سے ناولوں اور روایت کش مورخوں کے ذریعے سے عوام میں مشہور ہو رہا ہے خلیفہ ہارون کا عقد پہلے زبیدہ خاتون سے ہوا انھیں کو ام جعفر بھی کہتے ہیں یہ جعفر بن المنصور کی بیٹی تھیں محمد امین انھیں کے بطن سے پیدا ہوئے زبیدہ کے نکاح کے بعد امۃ العزیز (ام ولد ہادی) سے عقد کیا ان کے بطن سے علی بن رشید تولد ہوئے بعد ازاں ام محمد بنت صالح مسکین اور عباسہ بنت سلیمان بن المنصور اور عزیزہ بنت خالد غطریف اور عثمانیہ بنت عبداللہ بنت محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان سے نکاح کیا۔ وفات کے وقت چار بیویاں زبیدہ، ام محمد، عباسہ اور عثمانیہ زندہ تھیں۔ بارہ بیٹے تھے۔ محمد امین زبیدہ خاتون کے بطن سے عبداللہ المامون مرسل نامی کنیز سے باقی (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

منہ دیکھ رہا تھا اور عبدالرحمن مامون کو گالیوں دیتا جاتا تھا۔ ابن سہل و توفل ہزار خرابی اپنی جان بچانے کے مامون کے پاس واپس آئے اور کل واقعات سے مطلع کیا۔ فضل بن سہل نے عرض کیا ”اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے چونکہ آپ خراسان میں ہیں ان دشمنوں کی دشمنی سے آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے گا خراسان میں مقنع نے خروج کیا تھا بعد ازاں یوسف الیر نے سر اٹھایا اس سے دولت عباسیہ کو بغداد میں ایک گوتہ تردید پیدا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بہت جلد رفع ہو گیا اور آپ نے توفل بن لیث کی بغاوت کے زمانہ کے حالات ملاحظہ ہی فرمائے ہیں اور آج بفضلہ تعالیٰ آپ اپنے تائبانہ میں ہیں اور آپ کی بیعت کا طوق انکی گردنوں میں ہے صبر و استقلال سے کام لیجئے میں آپ کی خلافت کا ذمہ دار ہوں“ مامون نے کہا ”انشاء اللہ تعالیٰ میں تمہارے کئے پر عمل کروں گا اور اس کام کا انصرام تمہارے سپرد کرتا ہوں“ فضل بن سہل نے عرض کیا ”عبداللہ بن مالک اور دوسرے اراکین دولت بوجہ

رقبہ نوٹ صفحہ گذشتہ) قاسم المومنین، ابواسحاق محمد المعتمد صاحب، ابو عیسیٰ محمد، ابو یحیٰی محمد، ابو العباس محمد، ابوسلیمان محمد، ابو علی محمد، ابو محمد، اور ابوالواحد محمد۔ اہمات اولاد (کنیزوں) سے پیدا ہوئے مگر ان میں سے چار امین، مامون، مومنین اور معتصم سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ لڑکیاں چودہ تھیں سکینہ، ام حبیب، اروی، ام حسن، ام محمد، حمدونہ، فاطمہ، ام سلمہ، حدیجہ، ام قاسم، رملہ، ام جعفر، ام علی، عالیہ اور ریطہ تھیں اور یہ سب اہمات اولاد کے بطن سے پیدا ہوئیں تھیں۔

اسکے مرنے پر ملک میں ایک مصیبت پھیل گئی۔ شعراء نے برسوں نوحہ خوانی کی فضل بن عیاض فرماتے تھے ”مجھے ہارون کی موت سے زیادہ صدمہ کسی امر کا نہیں ہوا مجھے یہ گوارا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کا حصہ ہارون کی عمر میں زیادہ کر دیتا“

میں نے یہ نوٹ کامل بن اثیر تاریخ الخلفاء ابن خلکان اور المعارف سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔“

شہرت و قوت مجھ سے زیادہ آپ کے حق میں مفید ہوں گے اور میں ان میں سے انکا جو آپ کے اس کام کو انجام دے خادم ہوں تا آنکہ زمام حکومت آپ کے قبضہ میں آجائے“ مامون نے اسکا کچھ جواب ندیا فضل مامون سے رخصت ہو کے اراکین دولت سے ملنے کو آیا اور مامون کی بیعت کا معاملہ پیش کیا بعضوں نے انکار کیا بعضوں نے جھڑک کے نکال دیا فضل مامون کے پاس واپس آیا اور ان حالات سے آگاہ کیا مامون نے کہا ”بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس کام کا انصرام اپنے ہاتھ میں لو“ فضل نے عرض کیا ”نظر بحالت موجودہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ فقہاء اور علماء کو حکم دیجئے کہ لوگوں کو راہ حق پر چلنے اور عمل کرنے کی ہدایت کریں احیاء سنت و رد مظالم کی تعلیم دیں“ مامون نے اسی وقت فقہاء کو طلب کر کے وعظ و پند کی ہدایت کی اور سپہ سالاران لشکر و اراکین سلطنت کی تالیف قلوب کرنے لگا تمہی سے کہتا تھا کہ ”مجھے سر ریخلافت پر بیٹھنے تو دو میں تم کو موسیٰ بن کعب کی جگہ پر مقرر کر دینگا، ربعی سے ابو داؤد و خالد بن ابراہیم کے عہدہ دینے کا وعدہ کرتا تھا یمانی کو بجائے قحطیہ و مالک بن ہشیم کے مقرر کرنے کا اقرار تھا یہ سب دولت عباسیہ کے نقباء تھے باقی رہے اہل خراسان۔ ان کے خوش کرنے کے خیال سے چوتھائی خراج معاف کر دیا جس سے اہل خراسان کی باچیں کھل گئیں۔ فرط مسرت سے کہتے پھرتے تھے ”کیوں نہ ہو ہماری بہن کا بیٹا، ہمارے نبی کے چچا کا لڑکا ہے“ مامون نہایت توجہ اور بیدار مغزی سے ان ممالک کا جو اسکے قبضہ میں خراسان اور رے وغیرہ کے تھے انتظام کرنے لگا۔ اور اپنے بڑے بھائی امین کے پاس تحائف روانہ کئے مودیانہ عرضی لکھی۔

ان واقعات کے بعد خلیفہ امین نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دور میں اپنے بھائی قاسم الموتین کو حکومت جزیرہ سے معزول کر دیا مگر قنسرین اور عواصم کی

گورنری پر بدستور قائم رکھا اور جزیرہ میں بجائے اسکے خرمیہ بن خازم کو مامور کیا اسکے شروع عہد خلافت میں مکہ معظمہ کی گورنری پر داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد اور حمص کی گورنری پر اسحاق بن سلیمان تھا لیکن اہل حمص نے اس سے مخالفت و بغاوت کی اسحاق حمص سے سلمیہ چلا آیا خلیفہ امین نے اسکو معزول کر کے عبداللہ بن سعید حریشی کو مامور کیا پس اس نے حمص پہنچکے باغیوں میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو جیل بھیج دیا اور اطراف حمص میں آگ لگا دی باغیوں نے مجبور ہو کے امان کی درخواست کی عبداللہ بن سعید نے امان دی۔ مگر بعد چندے پھر باغی ہو گئے عبداللہ بن سعید نے پیران میں سے اکثر آدمیوں کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا بعد اسکے خلیفہ امین نے ابراہیم بن عباس کو حمص کی سند گورنری مرحمت فرما کے حمص روانہ کیا۔

۱۹۳ء میں ہرثمہ بن ہاشم سمہرتمہ میں بزور تیغ داخل ہوا اور رافع اور اسپر قبضہ کر لیا اور وہیں قیام بھی کر دیا اسکے ساتھ طاہر بن حسین بھی تھا رافع بن لیث نے ترک کے پاس جا کے پناہ لی اور ترکوں کی پشت گرمی سے لشکر آراستہ کر کے دوبارہ ہرثمہ کے مقابلہ پر آیا ہرثمہ کی حکمت عملی سے ترکوں اور رافع میں چح چل گئی ترک رافع سے علیحدہ ہو کے واپس گئے جس سے رافع کے کاموں میں صنعت پیدا ہو گیا اس اثنار میں مامون کے حالات سے اسکو آگاہی ہوئی امان طلب کر کے حاضر دربار ہوا مامون کمال احترام سے پیش آیا بہت بڑی عزت کی۔ بعد اسکے ہرثمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے اسکو اپنے باڈی گاڈ کی افسری مرحمت فرمائی مگر خلیفہ امین کو یہ سب کارروائیاں پسند نہ آئیں۔

اسی سنہ میں اپنی حکومت کے ساتویں برس نقفور بادشاہ روم جنگ

برجان میں مارا گیا بجائے اسکے اسکے بیٹا استبراق جانشین کیا گیا یہ بہت بڑا جری اور بہادر تھا دو مہینہ حکومت کر کے مر گیا بعد ازاں اسکے بہن کا داماد میخائیل بن جرجیس تخت نشین ہوا اسکی حکومت کے دوسرے سال ۱۹۴ھ میں رومیوں نے بغاوت کر دی میخائیل دارالسلطنت چھوڑ کے بھاگ گیا اور رہبانیت اختیار کر لی۔ تب رومیوں نے میخائیل کے بعد ایون سپہ سالار کو تخت نشین کیا۔

امین اور نامون کی مخالفت جس وقت فضل بن ربیع مامون کی نقض بیعت اور مخالفت کر کے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت اس کو عواقب امور کے خطرات پیدا ہوئے بنظر انجام بینی مامون سے اپنے کل تعلقات قطع کر کے خلیفہ امین کو دم پٹی دینے لگا رفتہ رفتہ اسکو اس امر پر طیار کر لیا کہ مامون کو ولیعہدی سے معزول کر کے موسیٰ بن امین کی ولیعہدی کی بیعت لیلی جائے۔ علی بن عیسیٰ بن ماہان اور سند ہی وغیرہ اور نیز ان لوگوں نے جو مامون سے اپنی مخالفت کی وجہ سے ڈرتے تھے اس رائے سے موافقت کی مگر خرمہ بن خازم اور اسکے بہائی عبد اللہ نے اس سے مخالفت کی اور خلیفہ امین کو قسم دلا کے اس فعل سے باز رہنے اور لوگوں کو نقض عہد کرانے اور نکت بیعت سے مصیبت میں ڈالنے سے منع کیا لیکن خلیفہ امین اس امر پر برابر اصرار کر رہا تھا۔ اس اشار میں یہ خبریں پھونچیں کہ مامون نے عباس بن عبد اللہ بن مالک کو حکومت رے سے معزول کر دیا ہے، ہرثمہ بن اعین کو باڈی گارڈ کی افسری پر مامور کیا ہے رافع بن لیث نے امن کی درخواست کی تھی مامون نے اسکو امن دیدی چنانچہ رافع اسکے ہوا خواہوں میں داخل ہو گیا ہے۔ پس خلیفہ امین نے بے سمجھے بوجھے اپنے عمال کے نام ایک گشتی فرمان اس مضمون کا روانہ کیا کہ ”خطبوں میں مامون اور موتمن کے بعد میرے بیٹے موسیٰ کے لئے دعا کی جائے“ مامون کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے امین کے نام کو سرنامہ سے نکال دیا اور خط و کتابت بند کر دی بعد اسکے

خليفة امين نے عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن جعفر بن المنصور صلح والی
 موصل اور محمد بن عیسیٰ بن نسیک کو مامون کے پاس یہ پیام لیکے روانہ کیا کہ میرے
 بیٹے موسیٰ بن امین کی ولیعهدی کو اپنی ولیعهدی پر مقدم کر دو اور مجمع عام میں اسکا
 اظہار کر دو۔ جسوقت یہ لوگ مامون کے پاس پہنچے مامون نے اہل خراسان کو مجمع
 کر کے اس بابت مشورہ کیا ان لوگوں نے ایک زبان ہو کے عرض کیا ”ہم لوگوں
 نے آپ کی بیعت اس شرط سے کی تھی کہ آپ خراسان سے باہر تشریف نہ لیجائیں گے“
 مامون نے خلیفہ کے وفود طلب کر کے اُس درخواست کی منظوری سے
 انکار کر دیا جو وہ لیکے آئے تھے۔ فضل بن سهل اس موقع پر ایک یہ چال اور چل گیا
 کہ عباس بن موسیٰ کو دم پٹی دے کے اپنا جاسوس و مخبر بنا لیا جو وقتاً فوقتاً
 خلیفہ امین اور اُس کے دربار کی کیفیت لکھتا رہتا تھا۔

واپسی وفود کے بعد خلیفہ امین نے مامون سے خراسان کے بعض بلاد کی
 درخواست کی اور یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ خراسان میں مابدولت و اقبال
 کے افسر سررشتہ ڈاک کے قیام کی اجازت دی جائے مامون نے ان میں
 سے ایک کو بھی منظور کیا اور ساتھ ہی اسکے بنظر احتیاط سے اور سرحدی
 بلاد پر اپنے معتمد علیہ اور خاص امیروں کو نگرانی و محافظت کی غرض سے متعین
 فرمایا تاکہ کوئی اجنبی شخص بلا اجازت خراسان میں نہ آسکے باوجود اس احتیاط کے
 مامون عواقب مخالفت سے خائف تھا انھیں دنوں خاقان بادشاہ تبت نے اپنے
 ملک مقبوضہ کے سرحدی بلاد پر شیخون مارنے کا قصد کیا تھا، حیفونہ باغی ہو گیا تھا
 اور ملوک ترک نے خراج دینا بند کر دیا تھا مامون کو اس سے اور زیادہ خطرہ پیدا
 ہوا فضل بن سهل نے مشورہ دیا کہ اپنے کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے
 خاقان و حیفونہ کو خود مختار حکمران کر دیجئے اور بادشاہ کابل سے دوستانہ مراسم قائم

کرنے کے خیال سے خراسان کے مخالفین کے باقی اور لوگ ترک کا خراج معاف
 کر دیجئے اس انتظام کے بعد سوار اور پیادوں کا لشکر مرتب کر کے برسرِ مقابلہ آئے
 اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو تور علی نور و رتہ خاقان کے پاس پناہ گزین ہو جائیگا
 مامون نے اس رائے کو استحسان کی نظر سے دیکھنے کے ایسا ہی کیا اور خلیفہ امین کو جواب
 اسکے خط کے ارادتمندانہ اس مضمون کی عرضی بھیجی امیر المومنین آپکا فرمان عالیشان
 مجھے ملا میں آپ کا اس سرحد پر ایک ادنیٰ گورنر ہوں چونکہ مجھے خلیفہ ہارون نے اس
 سرحد پر قیام کرنے کی ہدایت کی تھی اور اسی کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا اور میرے
 یہاں قیام پذیر رہنے سے ہزاروں فائدے ہیں اسوجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکتا
 میری اس غیر حاضری کو معاف فرمائیگی میں آپ کا حاضر و غائب مطیع ہوں خلیفہ امین
 کے خیالات اس خط کے پڑھنے سے تبدیل ہو گئے یہ امر اسکے ذہن نشین ہو گیا کہ مامون
 میری مخالفت نہ کرے گا چنانچہ اسی بنا پر اوایل ۱۹۵ھ میں مامون کو ولیعہدی سے
 معزول کر کے اپنے بیٹے موسیٰ کی ولیعہدی کی بیعت لے لی اور انناطق بالحق
 کے لقب سے لقب کیا اسی تاریخ سے مامون اور مومنین کے نام خطبہ سے نکال
 ڈالے گئے اور منابر پر انکا ذکر متروک ہو گیا۔

خلیفہ امین نے اپنے بیٹے موسیٰ کو ولیعہد مقرر کرنے کے بعد علی بن عیسیٰ کی آنحوش
 تربیت میں دیا اور محمد بن عیسیٰ بن نہیک اسکی پولیس پر عثمان بن عیسیٰ بن نہیک کے
 اسکی باڈی گارڈ پر اور علی بن صالح صاحب المصلیٰ کو اسکے دفتر انشار پر مامور کیا۔
 اس کارروائی کے بعد خلیفہ نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی بعد موسیٰ کے ولیعہد
 بنا یا چنانچہ خطبوں میں پہلے خلیفہ امین کا نام لیا جاتا تھا بعد ازاں موسیٰ اور عبداللہ
 کے لئے دعا کی جاتی تھی اور اسکو اقامت بالحق کا لقب دیا تھا خانہ کعبہ سے وہ
 عہد نامہ بھی طلب کر کے چاک کر ڈالا۔ جو امین و مامون کی ولیعہدی کا تھا اور جسکو

خلیفہ ہارون نے خانہ کعبہ میں آدھریاں کرادیا تھا مامون کے جاسوسوں نے جو بغداد میں تھے ان کل واقعات سے مامون کو مطلع کیا مامون نے گوش ہوش سے ستر ارشاد کیا ”جن امور کی اطلاع مجھوں نے دی ہے اس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری حق رسی کے لئے کافی ہونگے“ اور انتظاماً فضل بن سہل کو لشکر کے پاس انعامات و طائف اور رسد و غلہ تقسیم کرنے کو روانہ کیا فضل بن سہل نے اپنی خوشنظامی سے فوج نظامی کے علاوہ اطراف رے میں جس قدر جنگ آزمودہ سپاہی تھے سمجھوں کو مجتمع کر لیا بعد ازاں طاہر بن حسین بن مصعب بن زریق بن اسعد خزاعی نے ابو العباس خزاعی کو امیر لشکر مقرر کر کے لشکر کے کی طرف روانہ کیا اور اسکے اسٹات میں نامور نامور سپہ سالاروں اور نفرت مآب فوجوں کو بھیجا ابو العباس نے رے میں پہنچنے لشکر کو از سر نو مرتب کر کے مسالح اور مراد مقرر اور متعین کئے خلیفہ امین نے بھی عصمت بن حماد بن سالم کو ایک ہزار پیادوں کی جمعیت سے ہمدان کی طرف روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ تم ہمدان میں مقیم رہنا اور اپنے مقدمتہ الجیش کو سادہ بھیج دینا۔

جنگ ابن
ماہان و طاہر

ان واقعات کے بعد خلیفہ امین نے علی بن عیسیٰ بن ماہان کو خراسان کی جانب مامون سے جنگ کر نیو روانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فضل بن ربیع کو فضل بن سہل کے جاسوس نے علی بن عیسیٰ بن ماہان کی روانگی پر اسوجہ سے آمادہ کیا تھا کہ اہل خراسان کو اس سے دلی نفرت تھی یہی وجہ تھی کہ اہل خراسان اسکے مقابلہ میں جی توڑ کے لڑے تھے بعضوں کا یہ بیان ہے کہ اہل خراسان نے براہ مکر و فریب علی بن عیسیٰ بن ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کے بھیجے تھے کہ ”اگر آپ امیر لشکر ہو کے آئیے تو ہلوگ فوراً آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے“ خلیفہ امین نے اس بنا پر ابن ماہان

۱۵۰۰ھ واقعہ ۱۹۵ھ کا ہے تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۰۳۔

کوروانگی کا حکم صادر کیا اور بطور جاگیر نہاوند، ہمدان، قم، اصفہان اور کل بلاذریل
 کو حریا و حرا جا مرتحت فرمایا خزانہ ستا ہی سے خاطر خواہ روپے لیکھانیکا اختیار دیا
 ساہان سیفرو اسباب جنگ ضرورت سے بدرجہا زیادہ عنایت کیا، پچاس ہزار
 سوار ہمراہ رکاب کر دیا۔ اور ابو دلف قاسم بن عیسیٰ بن ادریس عجمی اور ہلال بن عبد اللہ
 حضرتی کے نام فرمان اس مضمون کا روانہ کیا کہ بوقت ضرورت جنگ ابن ماہان
 کی مدد کرنا۔ علی بن عیسیٰ بن ماہان خلیفہ امین سے رخصت ہونے کے زبیدہ (اور امین)
 کے محاسن کے دروازہ پر رخصت ہونے کی عرض سے حاضر ہوا زبیدہ نے مامون
 کے معاملہ میں جیسا کہ وصیت کرنے کا حق تھا بجد وصیت کی اور چاند کی ہتکری
 و بٹری دیکے یہ سمجھایا کہ میں اسکو محبت و شفقت میں اپنے بیٹے امین کے برابر سمجھتے
 ہوں اگر تمھو فتحیابی حاصل ہو جائے تو نہایت ادب و امتیاز سے اسھیں اسکو قید
 کر کے لانا خبردار مامون کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی نہ کرنا، عرض علی بن عیسیٰ ابن
 ماہان بغداد سے شعبان میں روانہ ہوا خلیفہ امین معہ اپنے سپہ سالاروں اور لشکر
 کے مشایعت کے خیال سے سوار ہوا مشایعین بغداد کا بیان ہے کہ اس شان و
 شکوہ اور سامان و اسباب کا لشکر اس سے پیشتر نہیں دیکھا گیا۔ سابلہ میں پہنچا
 تو آئندگان رے نے بیان کیا کہ طاہر رے میں ٹھہرا ہوا لشکر مرتب کر رہا ہے اور ہمدان
 جنگ پر آمادہ ہے ابن ماہان نے یہ سُنکے ملوک دیلم اور طبرستان کے پاس خطوط
 روانہ کئے مراسم اتحاد پڑھانے، انعامات و جاگیرات دینے کا وعدہ کیا اور قیمتی قیمتی
 زیورات تحایف میں بھیجے اس معاوضہ میں کہ خراسان کی ناکہ بندی کر لیں چنانچہ
 ملوک دیلم اور طبرستان نے اسکو منظور کر لیا۔ بعد ازاں ابن ماہان سابلہ سے روانہ
 ہو کے رے کے پہلے صوبہ میں خیمہ زن ہوا اسکے مشیروں اور ہمراہیوں نے
 جاسوسوں ہراول اور مورچے قائم کرنے کی راے دی ابن ماہان نے کہا

”ظاہر جیسے شخص کے مقابلہ کے لئے اسقدر طیاری کی ضرورت نہیں ہے“ وہ رے میں قلعہ بند ہو کے لڑے گا یا سواروں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنکے بہاگ جا بیٹھا صورت اول میں اہالیان رے ہی اسکا قلعہ و قمع کر دیں گے اور صورت ثانی میں ہم کو کسی طیاری کی ضرورت نہیں ہے رفتہ رفتہ جب ابن ماہان رے سے دس فرسنگ کے فاصلہ پر پہنچا تو ظاہر کے ہمراہی ابن ماہان سے جنگ کرنے کے معاملہ میں غور و فکر کرنے لگے آخر الامر اسپر متفق ہوئے کہ رے میں قلعہ بند ہو کے لڑنا چاہئے۔ مگر ظاہر نے یہ رائے ظاہر کی کہ رے میں قلعہ بند ہو کے لڑنا خطرہ سے خالی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اہل رے فریق مخالف سے بلجائیں اور ہمپر حالت ثقلت میں شیخون ماریں بہتر یہ ہے کہ رے سے باہر نکل کے جنگ کرنا چاہئے“ حاضرین نے یہ رائے پسند کی اور اسکے مطابق رے سے نکل کے پانچ فرسنگ کے فاصلہ پر صفت آرائی کی جنگی تعداد چار ہزار سواروں سے کم تھی۔ احمد بن ہشام نے جو لشکر خراسان کا افسر علی تھا یہ رائے دی کہ لشکر گاہ میں امین کی معزولی اور مامون کی خلافت کی منادی کر دینا چاہئے تاکہ علی بن عیسیٰ یہ ظاہر کر کے کہ میں امین کا عامل ہوں اہل خراسان کو امین کی اطاعت کا دھوکا نہ دیتے پائے“ ظاہر نے ایسا ہی کیا علی بن عیسیٰ نے ظاہر کی قلت جماعت کا احساس کر کے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہو کے کہا ”ولا اور و! کیا دیکھتے ہو بات کی بات میں انکو لیلو یہ لوگ اسقدر قلیل ہیں کہ انپر تلواروں کا دار کرنا یا نوک دار نیزوں سے انکے سینوں کو چیدنا فضول ہے بہتر یہ ہے کہ انکو چاروں طرف سے گیر کے گرفتار کر لو، ان فقر و ننگے سنتے سے سپاہیوں کے دل بڑھ گئے علی نے اپنے لشکر کو ہمینہ و میرہ سے مرتب کر کے دس پہریے قائم کئے اور ہر پہریہ کے ساتھ ایک ایک ہزار فوج رکھی اور ایک پہریہ کو دوسرے پہریہ سے ایک تیر کے فاصلہ پر رکھا اور یہ حکم دیا کہ باری باری جنگ کریں ظاہر نے بھی اپنی فوج کو متعدد کالموں پر تقسیم کر کے جنگ

کی ترغیب دی صبر و استقامت سے لڑنے کی ہدایت کی اتفاق سے صف آرائی کی وقت
 طاہر کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ علی بن عیسیٰ کے پاس چلا گیا علی بن عیسیٰ نے
 بعضوں کو ڈرے پڑے اور بعضوں کی تشہیر کرائی۔ علی بن عیسیٰ کے اس فعل سے طاہر
 کے باقی ہمراہی رُک رہے اور جنگ میں جی توڑ کے کوشش کی پھر احمد بن ہشام کے
 مشورہ سے طاہر نے قبل آواز جنگ علی بن عیسیٰ کے لشکر میں اس سے اور بیدلی
 پہلا دی کہ عہد نامہ کو جس میں مامون کی بیعت کا تذکرہ تھا دونوں لشکروں کے
 درمیان نیزہ پراؤنیاں کر کے علی بن عیسیٰ اور اسکے ہمراہیوں کو مامون کے عہد و پیمان
 کو یاد دلایا اور عواقب بد عہدی و نکت بیعت سے ڈرایا، بعد اسکے لڑائی چہرے گئی
 پہلے علی کے میمنہ نے طاہر کے میسرہ پر حملہ کیا جس سے طاہر کے میسرہ کو ہزیمت ہو گئی
 پھر دوبارہ علی کا میسرہ طاہر کے میمنہ پر حملہ آور ہوا اور اسکو بھی اس نے مورچہ سے
 ہٹا دیا طاہر نے اپنے رکاب کی فوج اور ہمراہیوں کو اپنے پر جوش تقریر سے ابھار
 کے علی کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا پہلے ہی حملہ میں علی کے قلب کو ہزیمت ہو گئی طاہر کا
 میمنہ و میسرہ اپنے ہمراہیوں کو کامیاب دیکھ کے لوٹ پڑا جس سے طاہر کے ہمراہیوں کی قوت
 بڑھ گئی اور ہمراہیان علی شکست کھا کے بھاگ کھڑے ہوئے علی ان کو آواز بلند سے
 واپس بلانے لگا، اس اثناء میں طاہر کے ہمراہیوں میں سے کسی نے ایک تیرا ایسا
 مارا کہ علی کے گلے میں جا کے ترازو ہو گیا علی نے زمین پر گر کر دم توڑ دیا اس شخص نے
 پونچکے سراوتار لیا اور لاشہ کو ایک لکڑی پر لٹکا کے طاہر کے پاس لایا اور اسکے
 حکم سے ایک کنوئیں میں پھینک دیا۔ کامیابی کے بعد طاہر نے باری تعالیٰ کی
 سپاس گزاری میں علی کے کل غلاموں کو آزاد کر دیا اور اسکے ہمراہیوں نے علی کے
 لشکر کا دو فرسنگ تک تعاقب کیا اس تعاقب میں بار بار لڑائی ہوئی ہر لڑائی میں
 طاہر کے ہمراہی انکو قتل و قید کرتے تھے تا آنکہ فتح مند و منہزم گروہ میں رات حایل ہو گئی

جس سے فتح مند گروہ تعاقب سے رُک رہا اور منہزمن قتل و قید ہونے سے بچ گئے۔
خاتمہ جنگ اور فتحیابی کے بعد طاہر رے میں واپس آیا اور نامہ بشارت فتح
بتوسط فضل بن سہل مامون کی خدمت میں روانہ کیا جسکی یہ عبارت تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابی الے
امیر المؤمنین وراسا علی بیت
یلدی و خاتمہ فی ۱ صبحی
وجند لا متصرفون تحت امری
والسلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عریضہ امیر المؤمنین
کے نام روانہ کرتا ہوں وراخا لیکہ علی کا
سر میرے روبرو ہے اور اس کی انگوٹھی
میری ادنگلی میں ہے اور اسکا لشکر میری
مانحتی میں ہے والسلام۔

تین دن کے عرصہ میں یہ خط ڈاک کے ذریعہ سے خراسان پہنچا فضل بن سہل
خط لے ہوئے مامون کی خدمت میں حاضر ہوا کامیابی کی خوشخبری سنائی مبارکیا
دی بعد ازاں اور اراکین دولت حاضر ہوئے اور شاہی سلام کیا اسکے دو دن کے
بعد علی کا سر بھی آیا تمام خراسان میں پہرایا گیا۔

امین کو بھی علی بن عیسیٰ کے مارے جانے اور لشکر کی ہزیمت کے حال سے
آگاہی ہوئی فضل بن ربیع نے مامون کے وکیل (نوفل خادم) کو طلب کر کے جو کچھ
اسکے قبضہ میں مال و اسباب تھا ضبط کر لیا جسکی قیمت پانچ لاکھ تھی اور خلیفہ ہارون
کی وصیت کی مطابقت دیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے امین کو خود کردہ پریشانی ہوئی۔
لشکریوں اور سپاہیوں نے اپنی اپنی تنخواہوں اور روزینہ کا شور و غل مچایا۔
عبداللہ بن حاتم نے بزور تیغ انکو خاموش کر نیکا قصد کیا لیکن امین نے عبداللہ کو
منع کر کے ان لوگوں کی تنخواہیں اور روزینے تقسیم کر دیئے۔

ابن جبلیہ کی روانگی | علی بن عیسیٰ کے قتل کے بعد امین نے عبدالرحمن بن
جبلیہ انباری کو بیس ہزار سواروں کی جمیعت سے طاہر سے جنگ کرنے کو ہدایا

کی طرف روانہ کیا۔ ہمدان اور کل بلاد خراسان کی جن کو ابن جبیلہ فتح کر کے
 ان کی سند گورنری مرحمت فرمائی۔ علاوہ اس کے مال و اسباب و رہت سا
 سامان جنگ بھی دیا غرض ابن جبیلہ دار الخلافت بغداد سے روانہ ہو کے ہمدان
 پہنچا اور اسکی قلعہ بندی کر لی طاہر یہ خبر پا کے اپنا لشکر تظہر پیکر لئے ہوئے
 ہمدان پر آیا پہنچا ابن جبیلہ نے ہمدان سے نکل کے مقابلہ کیا مگر طاہر نے اسکو
 پہلے ہی حملہ میں شہر کی طرف پسپا کر دیا پھر دوبارہ عبدالرحمن ابن جبیلہ اپنی فوج
 کو مرتب کر کے میدان جنگ میں آیا اور طاہر سے شکست کھا کے شہر کی طرف
 بھاگا طاہر نے شہر ہمدان پر محاصرہ ڈال دیا اہل شہر کو طول حصار سے ہر طرح کی
 تکلیفیں ہونے لگیں عبدالرحمن نے اس خوف سے کہ میاں اہل شہر طول حصار
 کی وجہ سے باغی نہ ہو جائیں طاہر سے امان طلب کر کے ہمدان چھوڑ دیا طاہر نے
 اس واقعہ کے پہلے بوقت محاصرہ ہمدان اس خطرہ کو پیش نظر کر کے کہ والی قزوین
 دوسری جانب سے حملہ نہ کر دے ایک ہزار سواروں کو لیکے قزوین پر دھاوا کر دیا
 تھا عال قزوین اس خبر سے مطلع ہو کے بھاگ گیا تھا اور طاہر نے اس پر قبضہ کر لیا تھا
 بعد اسکے طاہر نے ہمدان اور کل بلاد جبل پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ ایک
 مدت تک عبدالرحمن بن جبیلہ بے خوف و خطر جہاں چاہتا تھا آتا جاتا تھا طاہر کے
 امان دیدینے کی وجہ سے کوئی شخص معترض نہ ہوتا تھا جب اسکو طاہر اور اسکے ہمراہوں
 کی طرف سے اطمینان کامل ہو گیا تو ایک روز اپنے ہمراہیوں کو مجتمع کر کے بحالت غفلت
 دھاوا کر دیا طاہر کی فوج کمال عجلت سے طیار ہو کے مقابلہ پر آگئی جنگ کا بازار گرم
 ہو گیا فریقین جی توڑ توڑ کر ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے بالآخر عبدالرحمن کے
 ہمراہی میدان جنگ سے منہ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے عبدالرحمن مارا گیا اسکے
 ہمراہی ہمراہی بھاگ کے عبداللہ و احمد پسران حریشی کے پاس پہنچے جس کو امین نے

بسر افسری ایک عظیم لشکر کے عبدالرحمن کی کمک پر روانہ کیا تھا مگر طاہر کا خوف انکے دلوں پر ایسا مستولی ہوا کہ بلا کسی جنگ و جدال کے بغداد کی طرف ہٹا گئے طاہر کے بعد دیگرے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا حلوان پہنچا اور حلوان کے چاروں طرف خندق کھدوا کے مورچے قائم کئے اور از سر نو اپنی فوج کو مرتب و جمع کرنے میں مصروف ہوا۔

مامون کی بیعت | اس واقعہ کے بعد ہی مامون نے ممبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور امیر المومنین کے لقب سے مخاطب کئے جانیکا حکم صادر کیا اور فضل بن سهل کو کل ممالک شرقی جبل ہمدان سے تبت تک طولا اور بحر فارس سے بحر دلم و جرجان تک عرضا کے سیاہ و سفید کرنیکا اختیار دیدیا اور ایک نیزہ پر جسکی دو شاخیں تھیں فضل کے لئے ایک لوا منعقد کیا اور ذوالریاستین (یعنی صاحب سیف و قلم) کا مبارک لقب دیا اور حرب کا منصرم علی بن ہشام بنا یا گیا اور نعیم بن حازم کے سپرد قلمدان کیا گیا۔ اور اسکے بہائی حسن بن سهل کو دیوان الخراج کی افسری دی گئی۔

سفیانی کا ظہور | سفیانی کا نام علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ تھا۔ نسیہ بنت عبید اللہ بن عیاس بن علی بن ابی طالب اس کی ماں تھیں ابوالعیتر اسکی کنیت تھی کیونکہ اسکا یہ خیال تھا کہ یہ کنیت حرذون کی ہے لوگوں نے اسکو اسی لقب سے یاد کرنا شروع کر دیا یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں شیخین صفین (یعنی علی و معاویہ) کا بیٹا ہوں ہمزمن شام میں ہی ایک شخص خاندان بنو امیہ کا باقی رہ گیا تھا ذی علم اور صاحب روایت تھا اخیر ۹۵ھ میں خلافت و سلطنت کا دعویٰ کیا تھا بنو العلس نے (بنو امیہ کا ازاد غلام تھا) جو صیدا پر متصرف تھا اسکی حمایت کی جس سے سفیانی کی قوت بڑھ گئی اور اس نے

سلیمان بن منصور کے قبضہ سے دمشق کو نکال لیا۔ اسکے اکثر ہمراہی قبیلہ کلب کے
 تھے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد سفیانی نے محمد بن صالح بن بہس کلابی کے پاس
 ایک خط روانہ کیا جس میں بصورت اطاعت قبول کرنے کے انعامات و صلے دینے
 کا وعدہ کیا اور بحالت سرکشی و انحراف قتل و غارت کی دہلی دی تھی محمد بن صالح
 نے اسکا کچھ جواب نہ دیا سفیانی نے قسیہ کا قصد کیا قسیہ نے محمد بن صالح سے
 اعانت طلب کی چنانچہ محمد بن صالح تین سو سواروں سے آہونچا جس میں اکثر و بیشتر
 اسکے موالی اور احباب تھے سفیانی نے یزید بن ہشام کو بارہ ہزار کی جمعیت سے
 اسکے مقابلہ پر روانہ کیا فریقین میں لڑائی ہوئی یزید کی فوج میدان جنگ سے
 گھونگھٹ کھا گئی تقریباً دو ہزار آدمی مار ڈالے گئے اور تین ہزار گرفتار کر لئے گئے
 جنکو ابن بہس نے سر و ڈارھی منڈوا کے رہا کر دیا بعد اسکے سفیانی نے ایک لشکر
 مرتب کر کے اپنے بیٹے قاسم کے ہمراہ ابن بہس کے مقابلہ پر روانہ کیا اس معرکہ میں
 بھی سفیانی کے ہمراہیوں کو ہزیمت ہوئی اتنا جنگ میں قاسم کام آگیا سرتار کے
 امین کی خدمت میں بھیجا گیا سفیانی کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے پھر لشکر
 فراہم کر کے بسرگروہی اپنے آزاد قلام معتمر کے میدان جنگ میں بھیجا اس مرتبہ
 بھی سفیانی کے ہمراہیوں کو ہزیمت ہوئی معتمر مار ڈالا گیا ان واقعات سے سفیانی
 کے کاموں میں صنعت آگیا قسیہ نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا بعد ازاں ابن بہس
 بیچارہ ہو گیا و ساری بنی نمیر کو مجتمع کیے یہ وصیت کی کہ "تم لوگ مسلمہ بن یعقوب بن علی
 بن محمد بن سعد بن مسلمہ بن عبد الملک کی خلافت کی بیعت کر لو اور اس ذریعہ سے
 سفیانی پر کامیابی حاصل کرو کیونکہ بغیر اس حیلہ کے تم سرسبز نہو سکو گے" بنو نمیر نے
 اس وصیت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ابن بہس ان لوگوں سے رخصت ہو کے حوران
 چلا آیا اور بنو نمیر نے مجتمع ہو کے مسلمہ بن یعقوب کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلمہ بن

یعقوب بنونمیر کی بیعت کرنے سے باغ باغ ہو گیا اپنے خاندان اور موالی کو مجتمع کر کے سفیانی کے مکان پر آیا اور اسکو معہ اور روسا زبوا میہ کے قید کر لیا اور قیسیہ کو اپنے مقربین اور معتد مشیروں میں داخل کر لیا اس اثنا میں ابن بہس نے شفا پائی لشکر مرتب کر کے دمشق کا محاصرہ کر لیا قیسیہ نے محرم ۱۹۸ھ میں دمشق کو ابن بہس کے حوالہ کر دیا مسلمہ و سفیانی عورتوں کا لباس پہن کے مرہ کی جانب ہماگ گئے اس وقت سے ابن بہس دمشق پر متصرف اور قابض ہو گیا تا آنکہ عبداللہ بن طاہر دمشق کی طرف آیا مصر گیا پھر مصر سے واپس ہو کے دمشق آیا اور ابن بہس کو اپنے ہمراہ عراق لیگیا پس ابن بہس نے وہیں وفات پائی۔

لشکر کی روانگی اور عبدالرحمن بن جبلة کے قتل ہونے پر دارالخلافہ بغداد بغیر جنگ کے واپسی میں ایک تہلکہ پڑ گیا فضل بن ربیع نے اسد بن زید بن مزید کو طلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کی استدعا کی اسد حیرت زدہ ہو کے فضل بن ربیع کا منہ دیکھنے لگا فضل بن ربیع نے تشفی دی اسکی حسد مات اور کارگزار یوں کا ذکر کر کے بہادری، مردانگی اور فرمانبرداری کی تعریف کی اسد نے کہا ”مجھے جنگ طاہر پر جانے میں کچھ عذر نہیں ہے میں آپکا اور امیر المؤمنین کا مطیع ہوں مگر لڑائی بغیر لشکر کے نہیں ہو سکتی اور لشکر بغیر سامان اور روزینہ کے نہیں لڑ سکتا آپ میرے لشکریوں کے لئے ایک سال کا روزینہ مرحمت فرمائیے نا تو ان اور ضعیفوں کو چھانٹ دیجئے تو انا، جنگ آزمودہ اور بہادر سپاہیوں کو میرے ہمراہ کیجئے علی الخصوص میرے ہمراہیوں میں سے ایک تزار سپاہی ہو تو مال و زر دیکے ان کی بیماری اقل اس کو دور کر دیجئے اور ہاں یہ ایک شرط اور ہے کہ جتنے شہر میں فتح کروں انکا کچھ حساب و کتاب مجھ سے نہ طلب کیجئے گا، فضل بن ربیع بولا ”تمہاری شرطیں بیڈ ہیں میں بغیر استمراج امیر المؤمنین انکا

جواب نہیں دے سکتا، فضل بن ربیع اس قدر کہہ کے امین کی خدمت میں حاضر ہوا
 کل حالات عرض کئے امین نے جملہ کے اسد بن مزید کو جیل میں بھیجا بعضوں
 کا یہ بیان ہے کہ اسد نے مامون کے دونوں لڑکوں کو جو بغداد میں اپنی ماں
 دختر ہادی کے پاس تھے طلب کیا تھا کہ میں انکو اپنے ساتھ خراسان لیجاؤنگا اور
 یہ وہی دو بچے ہیں جو تم نے اطاعت کی تو قبہا تمہارے لڑکے تکو مبارک ورنہ میں
 ان کو قتل کر ڈالوں گا، امین نے غضبناک ہو کے قید کر دیا۔ عبداللہ بن حمید
 بن قحطبہ کو طلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کا حکم دیا اس نے بھی اسد کی طرح
 شرطیں پیش کیں تب احمد بن مزید کو طلب کر کے اسد کو جیل بھیجنے کی معذرت
 کی اور جنگ طاہر پر روانہ ہونے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ فضل بن ربیع نے
 حسب حکم خلیفہ امین بیس ہزار سواروں کی جمعیت سے احمد بن مزید کو روانہ کیا
 روانگی کے وقت احمد نے اسد کی سفارش کی خلیفہ امین نے رہا کر دیا۔ احمد
 بن مزید کی دیکھا دیکھی عبداللہ بن حمید بھی اجازت حاصل کر کے دوسری بیس ہزار
 فوج کے ہمراہ مگر احمد ہی کے ساتھ روانہ ہو گیا رفتہ رفتہ یہ دونوں حلوان پہنچے
 اور خانقین میں پڑاؤ ڈال دیا طاہر بھی یہ خبر پا کے ان کے مقابلہ پر آ گیا اور
 جاسوسوں اور مخبروں کو احمد و عبداللہ کے لشکر میں تبدیل لباس پھیلا دیا
 ان لوگوں نے ان کے لشکر گاہ میں داخل ہو کے یہ خبر اور اٹا نا شروع کیا کہ خزانہ
 بغداد خالی ہو گیا ہے لشکریوں کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں لشکری پریشان
 رہے ہیں جہاں جو پاتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس خبر کے پہلنے سے
 احمد و عبداللہ کے لشکر گاہ میں ایک تشویش پھیل گئی کوئی اس خبر کی
 موافقت کرتا تھا اور کوئی مخالفت عرض رفتہ رفتہ آجس میں اسکی بکثرت اسد وجہ

۱۔ یہ نام میں نے تاریخ کامل صفحہ ۱۰۳ جلد ششم سے لکھا ہے ابن خلدون میں جگہ خالی ہے۔ مترجم

بڑھی کہ باخود ہاتھ گئے اور بلا جدال و قتال بغداد کو واپس گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کے حلوان پر جاؤترا اس اثنار میں ہر شہر سے ایک لشکر جرار کے مامون کا فرمان لئے ہوئے آپہنچا طاہر نے فرمان کو آنکھوں سے لگا کے بوسہ دیا اور مطابق اسکے اپنے کل مفتوحہ بلاد ہر شہر کے سپرد کر کے اہواز کی طرف چلا گیا۔

عبدالملک بن صالح کی وفات ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ خلیفہ ہارون نے عبدالملک

بن صالح کو جیل میں بھیجا تھا پس یہ اس زمانہ سے جیل ہی میں رہا تا آنکہ خلیفہ ہارون کی وفات ہوئی اور امین تخت خلافت پر رونق افروز ہوا۔ امین نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی عبدالملک کو رہا کر دیا۔ جس وقت طاہر کا معاملہ پیش آیا عبدالملک نے دربار میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ امیر المؤمنین اہل شام کو جنگ طاہر پر مامور فرمائیے یہ لوگ اہل عراق سے زیادہ جری اور دشمنان خلافت پناہی کے حق میں ستم قائل ہیں اور میں انکی اطاعت کا ذمہ دار ہوتا ہوں، امین نے اس بنا پر عبدالملک کو شام و جزیرہ کی سند گورنری مرحمت فرمائی اور بہت سامان و سامان جنگ عنایت کر کے رخصت کیا۔ عبدالملک دربار خلافت سے روانہ ہو کے رقبہ پہنچا اور روسا شام سے خط و کتابت شروع کی روسا شام یکے بعد دیگرے ایک ایک دو دو کر کے عبدالملک کے پاس آئے اور بطیب خاطر فوجی خدمت قبول کرتے گئے عبدالملک نے بھی ان لوگوں کو انعامات، صلے اور خلعتیں دینا شروع کیا تھوڑے ہی دنوں میں شامیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اسکے پاس مجتمع و مرتب ہو گیا ہنوز روانگی کی نوبت نہ آئی تھی کہ عبدالملک علیل ہو گیا اور روز بروز مرنے بڑھتا گیا اسی اثنار میں اسکے لشکر میں ماہن خراسانیوں اور اہل شام کے اس سبب سے نزاع پیدا ہو گئی کہ واقعہ سلیمان بن ابی جعفر میں شامیوں نے

۱۰۳۰ء واقعہ ذیقعدہ ۳۰۰ھ کا ہے تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۱۰۳۔

خراسانیوں کا ایک جانور پکڑ لیا تھا اتفاق وہی جانور ان شامیوں میں سے ایک شخص کے پاس نظر آ گیا خراسانیوں نے شامیوں سے چہر چہار شروع کی باتوں باتوں جنگ و جدال کی نوبت پہنچ گئی عبد الملک نے فریقین کو جنگ سے روکا مگر دونوں نہ رُس کے برابر لڑتے رہے کشتوں کے پستے لگ گئے بالآخر اہل حمص و قبائل کلب اپنے اپنے شہروں کو لوٹ کھڑے ہوئے جس سے اہل شام کو ہریمت ہوئی اور حسین بن علی خراسانیوں کو لئے ہوئے ٹھہرا ہاتا آنکہ عبد الملک بن صالح کا رقبہ ہی میں انتقال ہو گیا۔

امین کی معزولی
و بحالی

عبد الملک بن صالح کے مرنے کے بعد حسین بن علی نے لشکر میں بغداد کی طرف کوچ کرنے کی نڈا کر کے کوچ کر دیا

بغداد پہنچا رؤسار و اعرار بغداد اور سپہ سالاران لشکر ملنے کو آئے تقریباً نصف شب گذر جانے پر امین نے طلب کیا حسین بن علی نے جانے سے انکار کر دیا صبح ہوتے ہی بغداد کے پل پر اپنے ہمراہیوں کو لئے ہوئے پہنچا اور ان لوگوں کو سمجھا بوجھا کے امین کے معزول اور نقصن بیعت کرنے پر آمادہ کر لیا بعد ازاں پل عبور کرنے کا حکم دیا امین کے لشکر سے ڈبہ بڑھ گئی مگر پہلے ہی حملہ میں امین کی فوج گھونگھٹا کھا گئی یہ واقعہ پندرھویں رجب ۱۹۶ء کا ہے۔

اس واقعہ کے دوسرے روز حسین بن علی نے مامون کی خلافت کی بیعت لی عباس بن عیسیٰ بن موسیٰ نے قصر خلافت پر دھاوا کر دیا اور امین کو قصر خلد سے نکال کے قصر منصور میں لاکے قید کر دیا اسکے ساتھ اسکی ماں زبیدہ بھی تھی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لوگوں نے حسین بن علی سے اپنے اپنے روزیئے طلب کئے حسب خواہش نہ پانے پر سرگوشیاں کرنے لگے محمد بن ابی خالد نے کھڑے ہوئے ”حسین کے حسب و نسب، سرداری، اور امین کی معزولی پر اعتراض کیا

اسد حرثی بولا "اے سپاہیو! کیا دیکھتے ہو لوگ امین کے معزول کر نیو گئے ہیں تم بھی انکی روک تھام کو چلو" اس فقرہ کے سننے سے لوگوں کو خود کردہ پریشیانی ہوئی ایک زبان ہو کے بولے "بیشک جو گروہ اپنے خلیفہ کو قتل کرتا ہے اور سپر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل فرماتا ہے اور اپنے قتل و خونریزی کا دروازہ کھول دیتا ہے" سب کے سب یہ سنتے ہی بھڑا اٹھے شور و غل مچاتے ہوئے حسین کی طرف چلے اہل ارباض انکے ہمراہ ہوئے حسین بھی سینہ سپر ہو کے ان کے مقابلہ پر آیا ایک سخت و خونریز جنگ کے بعد حسین کو گرفتار کر لیا۔ اسد حرثی نے قہر منظر میں پہنچنے امین کو قید و تنہائی کی مصیبت سے رہائی دی۔ اور تخت خلافت پر بٹھلایا امین نے مسلح ہونے کا حکم دیا بلوایوں کا مجمع بات کی بات میں منتشر ہو گیا حسین پابزنجیر دربار خلافت میں لایا گیا امین نے سخت ملامت کی حسین نے اپنی بے اعتدالیوں کی معذرت کی امین نے حسین کو رہا کر کے لشکر فراہم کرنے اور جنگ طاہر پر جانے کا حکم دیا ساتھ ہی اسکے ایک گراں بہا خلعت حرمت فرما کے دارالخلافت کے علاوہ اپنے کل ممالک محروسہ کا گورنر مقرر کر کے کمال احترام سے رخصت کیا لوگ مبارکباد دیتے ہوئے پل تک آئے جب لوگوں کا مجمع کم ہو گیا تو حسین پل کو عبور کر کے بہاگ کھڑا ہوا امین نے حسین کے تعاقب پر سواران لشکر کو متعین کیا چنانچہ بغداد سے ڈیڑھ کوس کے فاصلہ پر یہ لوگ حسین سے جا ملے ایک خفیف سی لڑائی ہوئی حسین مارا گیا سر اوتار کے امین کے پاس لائے۔ اسی واقعہ کے بعد فضل بن ربیع ایسار و پوش ہو گیا کہ اسکی اطلاع کسی کو کانوں کان نہ ہوئی۔

طاہر کی جس وقت مامون کا فرمان والا نشان مشعر وانگی اہواز طاہر کے کارگزاریاں پاس صادر ہوا طاہر نے حسین بن عمر ستمی کو اہواز کی جانب

لے یہ واقعہ پندرہویں رجب ۱۹۶ھ کا ہے۔ تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۱۰۵ مطبوعہ مصر۔

روانہ کیا اور خود بھی اسکے بعد ہی ابواز کی طرف کوچ کر دیا اس اثنا میں اسکے مخبروں نے آکے یہ خبر دی کہ خلیفہ امین کی طرف سے محمد بن یزید بن حاتم ایک عظیم لشکر لے ہوئے طاہر اور اسکے ہمراہیوں کے پیچھے غنم سے ابواز کے پچانے کو آ رہا ہے۔ طاہر نے اپنے ہمراہیوں میں سے محمد بن طالت، محمد بن علار اور عباس بن بخار کو چند دستہ فوج کے ساتھ رستی کے لٹک پر روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ نہایت تیزی سے طے مسافت کر کے رستی کے لشکر سے جا ملو اور پھر ان لوگوں کی حمایت و امداد پر قریش بن شیل کو بھیجا بعد ازاں خود بھی کوچ کر کے ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا محمد بن یزید کا لشکر مکرم میں پڑا ہوا تھا طاہر کے لشکر قریب آ جانے سے محمد بن یزید کے ہمراہیوں نے یہ دیکھ لیا کہ کھلے میدان لڑنے سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ ابواز واپس چلے اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ کیجئے تا آنکہ بصرہ سے آپکی قوم (ازد) آجائے۔ محمد بن یزید نے اس مشورہ کے مطابق ابواز کی جانب مراجعت کی اور طاہر نے قریش بن شیل کو محمد بن یزید کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ حکم دیا کہ ابواز کی قلعہ بندی کے پیشتر محمد بن یزید کو مدد اسکے ہمراہیوں کے گرفتار کر لو مگر اس میں قریش کو کامیابی نہ ہوئی محمد بن یزید قریش کے پہنچنے سے کئی روز پہلے ابواز پہنچ گیا اور جب قریش ابواز کے قریب پہنچا تو محمد بن یزید لشکر آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور نہایت سخت لڑائی ہوئی محمد بن یزید کے ہمراہیوں کے قدم میدان جنگ سے اٹھ گئے لیکن محمد اور اسکے جاں نثار غلاموں نے مرنے پر کمر باندھ لیا اور داد مردانگی دیکے میدان جنگ میں تلواروں کے سایہ کے نیچے جان بحق تسلیم کر دی۔

فاتحہ جنگ کے بعد طاہر نے ابواز پر قبضہ کر کے یمامہ، بکرین اور عمان پر اپنی طرف سے والی مقرر کئے بعد ازاں واسط کا قصد کیا ان دنوں واسط میں سدی بن یحییٰ قریشی اور ہشتم بن سعید (خرمیر بن خازم کا نائب) تہا یہ دونوں طاہر کی آمد کی خبر سننے کے بہاگ گئے طاہر نے واسط پر بھی بلا فراحت و محاسنت احدے قبضہ کر کے

اپنے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کوفہ کی گورنری پر عباس بن ہادی تھا اس نے فوراً خلیفہ امین کی معزولی کا اعلان کر کے مامون کی خلافت کی بیعت کر لی اور طاہر کے پاس ایک اطلاعی خط مشعربا میں خبر پہنچا دیا۔ منصور بن ہدی گورنر بصرہ اور مطلب بن عبداللہ بن مالک گورنر موصل نے بھی بصرہ اور موصل میں ایسا ہی کیا طاہر نے ان سبھوں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ حرث بن ہشام اور داؤد بن موسیٰ کو قصر ابن ہبیرہ کی جانب روانگی کا حکم دیا اور خود جرجرایا میں خیمہ زن رہا۔

ان واقعات کی خبریں خلیفہ امین کو پہنچیں اس نے اپنے نامور سپہ سالاروں محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد بربری کو قصر ابن ہبیرہ کی طرف روانہ کیا حرث اور داؤد تم ٹھونک ٹھونک کے میدان جنگ میں آئے اور نہایت سختی سے لڑ کر محمد بن سلیمان اور محمد بن حماد کو بغداد کی جانب پسپا کر دیا۔ انھیں دونوں خلیفہ امین نے فضل بن موسیٰ کو کوفہ بھیجا تھا طاہر نے اس سے مطلع ہو کے محمد بن عمار کو ایک لشکر جرار کے ساتھ فہتل کے مقابلہ پر مامور کیا اتنا راہ میں محمد و فضل سے ملاقات ہوئی فضل بن موسیٰ نے یہ فقرہ دیا کہ میں مامون کا مطیع ہو کے آیا ہوں تم ناحق میرے مقابلہ پر لشکر لیکے آئے ہو، مگر محمد اس چکے کو تاڑ گیا جو وقت فضل نے محمد کے لشکر پر شیخون مارا محمد نے سینہ سپر ہو کے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر فضل اور اسکا لشکر بغداد کی جانب بہاگ کھڑا ہوا۔ بعد اسکے طاہر نے مدائن کا رخ کیا ان دونوں مدائن کا گورنر بربری تھا اس نے مدائن کی حفاظت کا پورا پورا انتظام کر لیا تھا علاوہ پرین دارا خلافت بغداد سے برابر امدادی فوجیں اور رسد آرہی تھیں طاہر نے مدائن کے مصافقات میں پہنچنے کے قریش بن شبل کو بڑھنے کا حکم دیا جو اسے

۱۷ یہ واقعات رجب ۱۹۶ھ کے ہیں۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ششم صفحہ ۱۰۶ مطبوعہ مصر۔

قریش حملہ کے زور آیا برملی نے حملہ کی تیاری کر دی صفوف لشکر درست کرنے میں مصروف ہوا مگر شیرازہ لشکر درہم و برہم ہوا جاتا تھا جب ایک صف کو درست کر کے دوسری صف کی درستی کی طرف مصروف ہوتا تو درست و مرتب صف منتشر ہو جاتی تھی برملی نے گھبراہٹ کے سناقہ کو راستہ دیدینے کا حکم دیا پھر کیا تھا لشکریوں نے بغداد کا راستہ پکڑا۔ اور طاہر مداین اور اطراف مدائن پر قبضہ کر کے صرصر پر جا اترے اور وہیں ایک پل بند ہو گیا۔

حجاز میں جس وقت امین نے بیت اللہ شریف سے خلیفہ ہارون کا عہد نامہ منگوا کے چاک کر ڈالا اور داؤد بن عیسیٰ گورنر حجاز کو مامون کی معزولی کے ظاہر کرنے کا حکم دیا داؤد بن عیسیٰ کو امین کی یہ حرکتیں پسند نہ آئیں لوگوں کو مجتمع کر کے کہا "کیا تم لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ خلیفہ ہارون نے اپنے تینوں شہزادوں کی ولیعدی کی بیعت مسجد حرام میں لی تھی اور کیا تم لوگوں سے یہ اقرار نہیں لیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ظالم سے لڑنا دیکھو محمد امین نے ظلم و تعدی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور دونوں بھائیوں (مامون و موتمن) کو خلافت سے محروم کر کے اپنے ایک چھوٹے لڑکے کو جو دودھ پی رہا ہے اپنا ولیعہد بنا دیا ہے اور اسکی بیعت لی ہے اور خلیفہ ہارون کے لکھے ہوئے عہد نامہ کو خانہ کعبہ سے نکلوا کے ظلماً چاک و تلف کر ڈالا ہے میں تمکو یقین دلاتا ہوں کہ امین کی نقض بیعت اور مامون کی بیعت خلافت سے تمپر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوگا بلکہ تم لوگوں سے راضی و خوش ہوگا کیونکہ تم اس اقرار و عہد کو پورا کرتے ہو جو اس سے پیشتر خلیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر چکے تھے" حاضرین نے بطیب خاطر داؤد بن عیسیٰ کی اس تقریر سے متاثر ہو کے مامون کی خلافت کی بیعت کر لی داؤد نے مکہ معظمہ کے اطراف و جوانب میں اسکی منادی کرادی خطبہ میں

مامون کا نام پڑھا اور اپنے لڑکے سلیمان کو جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا لکھ بھیجا اسنے بھی ایسا ہی کیا یہ واقعہ جب ۱۹۶ھ کا ہے۔

اس واقعہ کے بعد داؤد نے مکہ سے براہ بصرہ و فارس و کرمان مرو کی طرف کوچ کیا اور مامون کی خدمت میں حاضر ہو کے کل واقعات عرض کئے مامون نے خوش ہو کے اُسکے عہدہ پر اُسکو بحال رکھا علاوہ بریں صوبہ حک کو بھی اسکے صوبجات مقبوضہ سے ملحق کر دیا اور زہتی کے وقت پانچ لاکھ درہم بطور انعام مرحمت فرمائے اور اپنے برادر زادہ عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ کو موسم حج کا امیر مقرر کر کے اسکے ہمراہ روانہ کیا اور یزید بن جریر بن مزید بن خالد قسری کو لیس افسری ایک لشکر جرار مین کی سند گورنری عنایت کر کے مین کی جانب روانہ کیا۔ یہ لوگ طاہر کی طرف سے اُسوقت ہو کے گذرے تھے جبکہ طاہر بغداد کا محاصرہ کئے ہوئے تھا طاہر نے ان لوگوں کو کمال احترام و توقیر سے ٹھہرایا دعوت کی بعد ازاں یزید طاہر سے رخصت ہو کے مین پہنچا اور اہل مین کو جمع کر کے مامون کی بیعت اور امین کی معزولی کا خطبہ دیا حاضرین اور کل اہل مین نے مامون کی خلافت کی بیعت کر لی اور فرمانبرداری اور اطاعت کی گردنیں جھکا دیں۔

بغداد میں طاہر کا جس وقت امین کو حسین بن علی بن عیسیٰ کے مارے جانے کی خبر پہنچی اور اس نے اپنی آنکھوں سے طاہر کے فتوحات کا سیلاب بڑھتا ہوا دیکھ لیا اُسوقت خواب غفلت سے بیدار ہو کے جنگ طاہر پر کمر باندھ کے اٹھ کھڑا ہوا چنانچہ ماہ شعبان ۱۹۶ھ میں چار سو پیرے

۱۰ اصل کتاب میں اس پر سادہ جگہ ہے میں نے تاریخ کامل ابن اثیر جلد ششم مطبوعہ مصر سے لکھا ہے۔ مترجم۔

چنڈسپہ سالاروں کے لئے منعقد کئے اور پھر ان سبھوں پر علی بن محمد بن عیسیٰ
 بن نسیک کو امیر بنا کے ہرثمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا اس لشکر نے نروان
 کے قریب ماہ رمضان سنہ مذکور میں ہرثمہ سے جنگ کیا مگر اتفاقاً ایسا
 پیش آیا کہ پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اسکا نامی سپہ سالار علی بن محمد
 گرفتار کر لیا گیا ہرثمہ نے اسکو مامون کی خدمت میں بھیجا اور خود نروان
 جا کے مقیم ہو گیا۔ ان دنوں طاہر صرصر میں مورچہ قائم کئے تھا خلیفہ امین کی
 طرف سے پے درپے فوجیں آرہی تھیں۔ اور طاہران کو شکست پر شکست
 دیتا جاتا تھا خلیفہ امین نے عنوان جنگ بگڑتا ہوا دیکھ کے طاہر کے
 لشکریوں کو مال و اسباب دے کے ملانا شروع کیا تقریباً پانچ ہزار فوج
 طاہر کے لشکر گاہ سے نکل کے امین کے پاس چلی گئی امین نے ان لوگوں کو مال
 و اسباب سے مالا مال کر دیا۔ اس میں امین کو ایک گونہ کامیابی ہو گئی،
 تو سرداران لشکر کو بلائے لگا رفته رفته انکا گروہ کثیر بھی امین سے جا ملا امین و
 نے ان لوگوں کو حسب لیاقت و حیثیت انعامات دئے اور اپنے جنگی سرداروں
 میں داخل کر کے ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ صرصر کی طرف روانہ کیا
 طاہر نے بھی اپنے لشکر کو طیاری کا حکم دیا اور اپنے دوستوں اور ہمراہوں کو علیحدہ
 علیحدہ فوج کے کالموں پر مامور کر کے جنگ کی ترغیب دی اور بصورت کامیابی
 و مستعدی انعامات اور صلے دینے کا وعدہ کر کے میدان جنگ میں آیا لڑائی
 ہوائی تمام دن لڑائی ہوتی رہی شام ہوتے ہوتے امین کے لشکر کو ہزیمت
 ہوئی طاہر کے فوج نے امین کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا جب یہ ہزیمت یافتہ فوج
 امین کے پاس پہنچی تو امین نے ایک دوسرا لشکر مرتب کر کے لشکریوں کو
 بہت سامان و اسباب دیا اس لشکر میں منہزمین میں سے ایک شخص کو بھی

شریک نہ کیا اور جنگ آزمودہ سپہ سالاروں کو فوج کے جدا جدا دستوں کا افسر مقرر کر کے طاہر کے مقابلہ پر روانہ کیا طاہر نے اپنی حکمت عملیوں سے اس لشکر کو ملامت لاشکر می بجائے طاہر سے جنگ کرنے کے امین ہی کی طرف شور و غل مچاتے ہوئے لوٹ پڑے امین نے اُس جدید فوج کو ان سے جنگ کر نیکا حکم دیا جو حال ہی میں بازار یوں اور پناہ گیروں سے مرتب کی گئی تھی طاہر نے ان سے بھی سازش کر لی اور بہت سامان و اسباب دے کے ان میں سے چند آدمیوں کو بطور ضمانت کے اپنے یہاں نظر بند لیا بعد ازاں معہ اپنے ہمراہیوں اور سپہ سالاروں کے صرصر سے کوچ کر کے باب انبار پر جا اتر اور اپنی چالوں اور عاملانہ تدابیر سے امین کے لشکر سے ایک گروہ کثیر کو ٹوڑ لیا عوام الناس میں ایک تہلکہ سا مچ گیا قیدی جیل کے دروازے توڑ توڑ کے نکل آئے بد معاشوں، بازار یوں اور اوباشوں نے لوٹ مار شروع کر دی غریبوں اور بیکیوں پر ٹوٹ پڑے زمین مسیب ضعیف نے ایک طرف اپنا مورچہ قائم کیا، خندقیں کھدوائیں اور مخفیتیں نصب کیں ہر شہ نے دوسری طرف بھی اہتمام و انتظام کیا عبید اللہ بن وضاح نے شماسیہ میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا اپنا مورچہ قائم کر کے محاصرہ کر لیا امین کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی باوجود وسیع ہونے کے اسپر اسکا مجلس اتنگ ہو گیا رسد و غلہ کے بند ہو جانے سے مصیبت پر مصیبت طاری ہو گئی مجبوراً توشہ خانہ کے مال و اسباب اور محل سرا کے سامان و ظروف تقری و طلائی کو فروخت کر کے لشکریوں کو دینے لگا اور اپنے ہمراہیوں کو طاہر کے لشکر پر اتشباری کرنے اور روغن لفظ کے پینکنے کا حکم دیا جس سے ایک گروہ کثیر اس واقعہ میں کام آ گیا سعید بن مالک بن قادم امن حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا طاہر نے اسکو بازاروں اور دریائے دجلہ کا والی مقرر کر کے ان مقامات اور سرحدوں میں خندقوں

کے کھودنے اور دندلوں کے باندھنے کا حکم دیا اور اس مہم کے انجام دہی کی غرض
 سے بہت سا اسباب و سامان دیا اور ایک دستہ فوج کو اسکے ہمراہ کر دیا امین
 کی طرف سے قصر صالح اور قصر سلیمان بن منصور میں جو کنارہ و جلہ پر تھے چند
 سپاہی متعین تھے ان لوگوں نے اپنے محاصرے کے دندلوں اور مورچوں کے توڑنے
 میں آتشباری سے کام لیا اور مخنیقوں سے بید سنگباری کی جسکا جواب ترکی بہ ترکی
 طاہر کا لشکر دے رہا تھا اسوجہ سے بغداد کا اکثر حصہ خراب ہو گیا مگر جن حصہ پر طاہر
 کا قبضہ ہو جاتا تھا حتی الامکان اسمین خندق کھود کے مورچہ قائم کر لیتا تھا اور جو
 شخص اس فعل سے مزاحمت کرتا تھا اس سے لڑتا تھا اس جنگ کے اثنار میں
 خلیفہ امین نے اُن رؤسایہ ہاشم اور سرداران لشکر کے مال و اسباب کو ضبط کر لیا
 جو کھلے میدان طاہر کے مقابلہ پر نہ آئے تھے اس سے بغداد کی ریزرو فوج میں اور
 بیدلی پیدا ہو گئی اور میدان جنگ میں جو فوج لڑ رہی تھی وہ روزانہ جنگ سے
 تھک کے بیٹھ گئی سوائے بازار یوں اور رنگروٹوں کے اور کوئی کارا آزمودہ شخص
 میدان جنگ میں امین کی طرف سے لڑتا نظر نہ آتا تھا او باشوں اور جرایم پیشہ
 لوگوں نے شہر کا میدان خالی دیکھ کے ٹوٹ مار شروع کر دی ہنوز جنگ کا کوئی
 نتیجہ نہیں پیدا ہوا تھا کہ امین کے اس سپہ سالار نے جو قصر صالح کے مورچہ پر مامور
 تھا طاہر کی خدمت میں امین کی درخواست پیش کی طاہر نے اسکو امان دی
 چنانچہ اُس نے جمادی الثانی ۱۹۷ھ میں قصر صالح کے مورچہ کو طاہر کے حوالہ
 کر دیا اسکے بعد محمد بن عیسیٰ (امین کے افسر اعلیٰ پولیس) نے بھی طاہر سے خط و
 کتابت کر کے امن حاصل کر لی بازار یوں اور متطوعہ (والنظیر) نے مجمع ہوں کے
 قصر صالح میں طاہر سے دوبارہ مقابلہ کیا مگر اس بسعلا نہ حرکت سے کوئی فائدہ
 مترتب نہ ہوا ایک گروہ کثیر اس واقعہ میں کام آ گیا طاہر نے قصر صالح پر قبضہ کرنے

کے بعد امین کے سپہ سالاروں سے خط و کتابت شروع کی اور بشرط بیعت امان دینے کا
 وعدہ کیا ان لوگوں نے بکمال خوشی منظور کر لیا سب کے پہلے کل بنو قحطبہ نے بعدہ یحییٰ
 بن علی بن ماہان اور محمد بن ابی عباس طائی وغیرہم نے بیعت کی اس سے امین کے
 کاموں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا گھبرا گیا جنگ کے کل کاموں کو محمد بن عیسیٰ
 بن نسیک اور حسن ہرث کے سپرد کر دیا ان لوگوں کے ساتھ غوغائیوں اور بازار بوبکا
 ایک جم غفیر تھا اور وہی معرکہ جنگ کے سیاہ و سفید کرنے کے مختار تھے امر اور وسار
 بغداد شہر چھوڑ چھوڑ کے بہاگ گئے تھے چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ طاہر نے
 قصر صالح پر قابض ہو کے بغداد کے شہر پناہ کے توڑے جانے کا حکم دیار سد کی
 آمد بند کر دی کشتیوں کو براہ فرات بغداد میں جانے سے روک دیا جس سے غلہ بچد
 گراں ہو گیا طول حصار کی سختی، غلہ کی کمیابی اور اسپر و زانہ جنگ ایک قیامت خیز
 مصیبت تھی جسکا برداشت کرنا انسانی قوت سے باہر تھا مگر بائیمہ نہایت استقلال سے
 اہل بغداد لڑ رہے تھے عبداللہ بن وضاح کو اس توڑ مودہ فوج نے ہزیمت دیکے
 شماسیہ پر قبضہ کر لیا ہر تمہ یہ خبر پا کے اسکی اعانت کر آیا اس نے بھی منہ کی کھائی
 ہزیمت کھا کے بھاگا گرفتار کر لیا گیا ہزار خرابی اسکے ہمراہیوں نے اپنی حکمت
 عملیوں سے رہا کر لیا طاہر نے عنوان جنگ بدلتا ہوا دیکھے کے شماسیہ میں ایک پل
 بند ہوا کے مجبور کیا اور کمال مردانگی سے امین کے لشکر پر پونچھے اس شدت کا حملہ
 کیا کہ امین کے لشکر کو شکست ہوئی مجبوراً پیچھے کو ہٹا عبداللہ بن وضاح پھر اپنے
 مورچہ پر بدستور سابق قابض ہو گیا ایک گروہ کثیر اس معرکہ میں کام آ گیا خلیفہ امین
 کے مکانات شاہی جو خیز رانیہ میں تھے جلادئے گئے جسکی تیاری میں بیس لاکھ
 درہم صرف ہوئے تھے خلیفہ امین کو اپنے قتل کا یقین اور اپنے ناکامی کا وتوق
 ہو گیا عبداللہ بن فازم بن خرمیہ امین کے خوف سے مدائن بہاگ گیا کیونکہ امین

اسکی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اور اسکی ایذا رسانی پر بازاریوں اور کمپنیوں کو مامور
 کر دیا تھا بعضوں کا یہ بیان ہے کہ طاہر نے اس سے خط و کتابت کی تھی اور
 بصورت سرکشی مال و اسباب کے ضبط کر لینے کی دہلی دی تھی اسوجہ سے اسنے
 خلیفہ امین کی رفاقت ترک کر دی تھی۔ بعد اس کے ہر شمع اپنے ہمراہیوں کے
 بغداد سے بکھل کے جزیرہ عباس (مصافقات بغداد) کی طرف کوچ کیا طاہر کے
 لشکریوں نے چیر چھاڑ کی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر دریا میں ڈوب کر مر گیا
 باقی ماندہ تیغ اجل کے نذر ہو گئے ان واقعات سے خلیفہ امین کو سخت صدمہ
 پہنچا کل کاموں میں ضعف آ گیا اس اثنا میں موتمن ابن رشید اپنے بہائی مامون
 کی خدمت میں حاضر ہوا مامون نے جرجان کی گورنری پر بھیجا۔ طاہر نے خزیہ بن
 خازم اور محمد بن علی بن موسیٰ بن ماہان کو کہ سن کے امین کے معزول کرنے پر
 طیار کر لیا چنانچہ ان دونوں نے آخر محرم ۱۴۸ھ کو دجلہ کے پُل کو عبور کیا اور امین
 کی معزولی کا اعلان کر دیا اور ہر شمع کو جو ان کے مقابلہ پر تھا بلا بھیجا ہر شمع نے بلا
 فراحت و محاسنت مدی کے لشکر گاہ میں داخل ہو کے قبضہ کر لیا اگلے دن
 طاہر شہر اور گرج کی طرف بڑھا اہل شہر و گرج نے فراحت کی لڑائی ہوئی طاہر نے
 ان کو ہریمیت دیکے قبضہ کر لیا امان کی منادی کرادی اور لشکریوں کو بازار گرج اور
 قصر و صاخ میں ٹھیرا کے مدینۃ المنصور، قصر زبیدہ اور قصر خلد کے دروازہ پُل سے
 باب بصرہ تک اور شط صراہ سے دجلہ کے اس کنارہ تک جہاں پر دجلہ میں یہ نہر
 گری تھی اپنے لشکر کو پھیلا دیا۔ اور موقع موقع سے مخنیقوں کو نصب کر کے سنگباری
 کا حکم دیدیا خلیفہ امین معہ اپنی ماں اور لڑکوں کے شہر مدینۃ المنصور میں پناہ گزین
 رہا اور نہایت استقلال و صبر سے حصار کی سختیوں کو برداشت کرنے لگا اس کے
 اراکین سلطنت سے صرف حاتم بن صقر اور خریشی اسکے ساتھ رہ گئے اور باقی

کیا لشکری اور کیا لونڈی علام اس سے علحدہ ہو گئے کوئی کسی کا پر سناں حال
 نہ تھا محمد بن حاتم بن صفراور محمد بن ابراہیم بن اغلب افریقی نے امین کی خدمت
 میں حاضر ہو کے عرض کیا "اس گئی گذری حالت میں بھی اس وقت سات ہزار
 سوار امیر المومنین کے حکم کے منتظر ہیں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں
 امرا، رؤسا اور اراکین دولت کے لڑکوں کو منتخب کر کے انکا افسر مقرر کریں
 اور کسی دروازہ سے بحالت غفلت تکلکے جزیرہ و شام کی طرف چلے جائیں اور ایک
 جدید سلطنت کی بنا ڈالیں عجب نہیں کہ اسمیں لوگوں کا میلان طبع آپ کی
 جانب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی بات پیدا کر دے"
 خلیفہ امین نے اس رائے کو پسند کیا اور بغداد سے جزیرہ و شام کی طرف
 چلے جائیکہ قصد مصمم کر لیا ظاہر کو اس کی اطلاع ہو گئی اس نے سلیمان
 بن منصور، محمد بن عیسیٰ بن نسیک اور سندی بن شاہک کو خط لکھا دہمکی دی کہ
 اگر تم لوگ امین کو اس قصد سے باز نہ رکھو گے تو تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا
 ان لوگوں نے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہو کے جنگ زد گری شروع
 کر دی اور یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے کو
 ابن اغلب اور ابن صفراور کے قبضہ میں دیدیں یہ لوگ خائن اور غیر معتبر ہیں بہتر
 یہ ہوگا کہ آپ ہرثمہ بن اعین سے امن طلب کیجئے اور اسکے پاس چلے چلئے ابن
 صفراور سے مخالفت کر کے بولا "اگر امیر المومنین امان ہی طلب فرما رہے ہیں
 تو بہتر یہ ہے کہ ظاہر سے امان طلب کیجئے اور اسکے پاس جائیے" امین نے اس سے
 انکار کیا اور ظاہر کے پاس جانے اور امان طلب کرنے کو شکون بد تصور کر کے
 ہرثمہ کے پاس امان کا پیام بھیجا ہرثمہ نے اس درخواست کو منظور کر کے کہلا بھیجا
 کہ میں باستثنا آپ کے اور لوگوں سے لڑوں گا اور اگر وہ بھی امان کے

خواستگار ہوں گے تو ان کو بھی امان دیدو گنا۔ طاہر کو اسکی اطلاع ہوئی اسکو یہ
 امر شاق گذرا کہ فتویٰ کا تاج ہرثمہ کے سر پر رکھا جائے اور خلیفہ امین امان حاصل
 کر کے ہرثمہ کے پاس آئے۔ ہرثمہ نے طاہر کے ظاہری طور و طریقہ سے اس خیال کو
 تاڑ کے اپنے ہمراہیوں کو خزیمہ بن خازم کے خیمہ میں جمع کر کے یہ رائے قائم کی کہ طاہر
 سے بظہر حالت موجودہ شکر رنجی پیدا کرنا خوب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ طاہر سے اس
 معاملہ کی صفائی کر لیا جائے چنانچہ ہرثمہ معہ اپنے ہمراہیوں اور سلیمان، سندی
 اور ابن نسیک وغیرہم کے طاہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ طاہر کیا کہ خلیفہ
 امین بذاتہ سوائے ہرثمہ اور کسی کے پاس نہ جائے گا مگر ہاں خاتم خلافت معصا،
 اور چادر جو در حقیقت شعار خلافت سے ہے آپ کے حوالہ کر دیگا، طاہر اس امر پر
 راضی ہو گیا جوں ہی یہ لوگ طاہر سے رخصت ہوئے ہرثمہ پہنچا اور طاہر کے
 کان میں یہ پونک دیا کہ یہ لوگ آپ کو فقرہ دے گئے ہیں خلیفہ امین اپنے
 ہمراہ خاتم خلافت، معصا اور چادر ہرثمہ کے پاس لیجا بیگا، طاہر یہ سُنکے غصہ سے
 کانپ اٹھا اسی وقت چند لوگوں کو امین کے مجلس کے محاصرہ پر متعین کر دیا۔
 پچیسویں محرم ۱۹۸ھ کو ہرثمہ نے امین کے پاس کہلا بھیجا کہ آجکی شب اور صبر فرمائیے
 کیونکہ آج صبح کنارہ دریا پر کچھ ایسی باتیں مجھے نظر آئیں ہیں جن سے مجھے خطرہ پیدا
 ہوتا ہے، امین نے جواب دیا ”میرے جسد راجباب اور ہوا تو اہتھے وہ سب کے سب
 مجھ سے جدا ہو گئے ہیں میں یہاں اب ایک ساعت بھی قیام نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو
 کہ طاہر کو اسکی اطلاع ہو جائے اور وہ مجھے گرفتار کر کے قتل کر ڈالے بعد اسکے امین نے اپنے دونوں
 لڑکوں کو گلے لگایا پیر کیا اور ان دونوں سے رخصت ہو کے روتا ہوا کنارہ دریا پر آیا۔ حرمہ کے حراق پر
 اسے حراق اس جنگی کشتی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دشمنوں پر دریا میں آگ برسائی جاتی ہے اور
 اس میں آگ کے پھینکنے کے مقامات بنے ہوتے ہیں۔ اقرب الموارد صفحہ ۱۸۳ جلد اول۔

سوار ہو گیا ہرثمہ نے اسکے ہاتھ و پاؤں پر بوسے دئے اور حراقہ کے کپتان کو یہ حکم دیا کہ جو شخص فراحت کرے اسپر بے تامل آتشباری کرنا۔ جوں ہی حراقہ آگے بڑھا طاہر کے جنگی کشتیوں کا بیڑہ سامنے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیرباری کی کہ حراقہ کو بیکار کر دیا۔ غوطہ زنوں نے حراقہ میں سوراخ کر دیا دم کے دم میں حراقہ پانی سے لبریز ہو کے ڈوب گیا احمد بن سالم ناظم فوجداری کہتا ہے کہ حراقہ کے ڈوبنے پر امین ہرثمہ اور میں دریا میں گر پڑا ملاح نے ہرثمہ کے بال پکڑ کے نکال لیا اور سطح آب پر گرتے ہی امین کے کپڑے پھٹ گئے اور میں تیر کر کنارہ پر پہنچا لوگوں نے گرفتار کر لیا طاہر کے پاس لے گئے میرا حال دریافت کیا میں نے اپنا نام و نسب بتلایا پھر امین کا حال استفسار کیا میں نے جواب دیا ”کہ وہ گرتے ہی ڈوب گیا تھا“ بعد اسکے طاہر کے حکم سے میں ایک مکان میں قید کر دیا گیا قید ہی کی مصیبت مجھ شامت زدہ کے لئے کچھ کم نہ تھی کہ دفعۃً یہ سننے میں آیا کہ طاہر نے میرے قتل کا حکم صادر کر دیا ہے اس خبر کے سننے سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے مجبوراً جو کچھ میرے قبضہ میں مال و اسباب تھا اسکو میں نے دیکے اپنی جان بچانی مگر قید سے رہائی نہ پائی توڑی رات گذری ہوگی کہ چند لوگوں نے یکا یک دروازہ کھولا اور امین کو اندر کر کے پھر دروازہ بند کر لیا اسوقت امین صرف ایک پاجامہ پہنے ہوئے تھا سر پر عمامہ اور شانوں پر ایک بوسیدہ کپڑا تھا میں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کے رونے لگا امین نے مجھے پہچان کے کہا ”تم مجھے اپنے گلے لگا لو میری طبیعت سخت متوحش ہو رہی ہے میں نے امین کو گلے سے لگا لیا اسوقت اسکے قلب کی عجیب حرکت تھی معلوم ہوٹا تھا کہ فرط خون سے سمٹا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اسکے ذرا ہوش درست ہوئے تو مجھ سے مامون کا حال دریافت کیا میں نے عرض کیا ”وہ ہنوز

زندہ ہے، امین نے کہا "اللہ تعالیٰ اسکے وکیل سے سمجھے مجھ سے وہ کہتا تھا
 کہ مامون مر گیا غالباً اس سے اُسکا مقصود یہ تھا کہ میں اسکے جنگ سے غافل
 ہو جاؤں،" امین نے کہا "بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے وزیروں سے سمجھے کہ انہوں نے
 آپ کو دھوکھا دیا،" امین نے آہ سرد کھینچنے کہا "کیوں بہائی کیا وہ لوگ وعدہ
 امان کو پورا نہ کریں گے،" میں نے کہا "ہاں حضور انشاء اللہ تعالیٰ،" ہلوگ یہی باتیں
 کر رہے تھے کہ محمد بن حمید طاہری آپ کو نچا دور سے کھڑا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ
 امین کو پہچان کے واپس چلا گیا بعد اسکے تقریباً نصف شب کو ایک گروہ عجیبوگیا
 چمکتی ہوئی برہنہ تلواریں لئے ہوئے آیا امین ان لوگوں کو دیکھ کے آہستہ آہستہ
 پیچھے ہٹنے لگا ان میں سے ایک نے لپک کے امین کو پکڑ کے زمین پر گرا دیا۔ فرج
 کے سراوتار لیا اور طاہر کے روبرو لیجا کے رکھ دیا صبح ہوئی تو لاشہ کو بھی اٹھا
 لے گئے طاہر نے امین کا سر شارح عام پر آویزاں کر دیا جب اکثر آدمیوں نے
 دیکھ لیا تو اپنے ابن عم محمد بن حسن بن مصعب کی معرفت نامہ بشارت فتح
 مامون کی خدمت میں روانہ کیا اور اسی کے ساتھ امین کا سر خاتم خلافت،
 عصا اور چادر بھی بھیج دی مامون نے ان سب کو دیکھ کے سجدہ شکر ادا کیا۔
 طاہر نے امین کے قتل ہونیکے بعد امان کی منادی کرادی اور جمعہ کے دن
 شہر بغداد میں اپنی کامیابی کا پریرہ اڑاتا ہوا داخل ہوا جامع مسجد میں نماز
 جمعہ ادا کی مامون کے نام کا خطبہ پڑھا، امین کی بُرائیاں بیان کیں۔ شاہی
 مجلسراؤں کی حفاظت پر لوگوں کو متعین کیا اور زبیدہ مادر امین اور امین کے
 دونوں لڑکوں موسیٰ و عبداللہ کو بالائی زاب کے شہروں کی طرف شہر بدر
 کر کے بھیج دیا پھر بعد چند دنوں کے موسیٰ و عبداللہ کو مامون کے پاس بھیج دیا۔
 امین کے قتل ہو جانے پر بغداد میں لشکر اور نیز طاہر کی فوج کو خود گردہ پر

پشیمانی ہوئی مگر اس تدامت سے کیا حاصل تھا طاہر سے روزینہ طلب کیا وہاں کیا تھا
 حیلہ و حوالہ سے خالد یا لشکریوں میں سرگوشی ہونے لگی رفتہ رفتہ اشتعال اسقدر
 بڑھا کہ امین کے قتل کے پانچویں روز لشکریوں نے بلوہ کر دیا طاہر مع اپنے ایک
 گروہ سپہ سالاروں کے عفرقو باہاگ گیا اور وہاں سے انکی سرکوبی کے لئے
 ایک لشکر مرتب کر کے بغداد کی طرف ٹوٹا۔ بلوائیوں نے معذرت کی اور بغاوت
 کا سارا الزام پولیس والوں اور بازار یوں کے سر منڈھ دیا طاہر نے ان کی
 خطائیں اس شرط سے کہ وہ حسب دستور سابق مطیع و فرمانبردار ہو جائیں معاف
 کر دیں اور چار مہینے کا روزینہ تقسیم کر دیا۔ رؤسا و مشائخین بغداد نے اہل بغداد
 کی صفائی دی بیچھا ہونے کی قسمیں کھائیں تب طاہر کا غصہ فرو ہوا اور لڑائی
 کا بازار ٹھنڈا ہو گیا مشرق سے مغرب تک کل صوبجات اور ممالک میں مامون کی
 حکومت کا سکہ چل گیا۔

اسی سلسلہ میں حسن ہرشی نے علم بغاوت بلند کیا ایک گروہ بازار یوں کا
 اسکے ساتھ ہو گیا اور بہت سے بدویوں نے اسکی اتباع کی حسن ہرشی یہ کہتا
 ہوا کہ لوگو آل محمد کی اطاعت کرو اور انہیں کی حمایت کرو۔ نیل کی طرف آیا
 رعایا سے جبراً خراج وصول کیا جس نے ذرا سی مخالفت کی اسکو ٹوٹ لیا۔
 خلیفہ مامون نے بغداد کے مفتوح ہونے کے بعد حسن بن سہل برادر فضل بن سہل
 کو طاہر کے کل مفتوحات جبل، عراق، فارس، ابواز، حجاز اور یمن کی سند گورنری
 مرحمت کی پس حسن نے سلسلہ میں اپنے صوبجات میں پہنچنے کی طرف سے
 اپنے عمال کو پھیلا دیا اور طاہر کو جزیرہ، موصل، شام اور مغرب کا گورنر مقرر کر کے
 نصربن شیب کی جنگ پر جانے کا حکم دیا اور حسد ثمہ کو خراسان کی
 جانب روانہ کیا۔

نصر کی بغاوت نصر بن شیبہ بن عقیل بن کعب بن ربیعہ بن عامر کے خاندان سے

تھا مقام کیسوم شمالی حلب میں رہتا تھا ابتدائی ہی سے امین کی طرف اسکا میلان طبع
 تھا چنانچہ امین کے قتل ہونے کے بعد امین کی بیعت کے ایثار کا اظہار کیا اور اپنے
 گرد و نواح کے شہروں پر قبضہ کر کے سیساط پر بھی متصرف ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں
 عرب کے بادیہ نشینوں کا ایک گروہ عظیم اسکے پاس مجتمع ہو گیا سامان جنگ درست
 کر کے فرات کے جانب شرقی عراق کی طرف عبور کیا اور حران پر پہنچنے کے محاصرہ ڈال دیا
 اس اثنا میں آل طالب کے ہوا خواہوں میں سے چند لوگوں نے نصر سے مل کے
 آل علی میں سے کسی ایک کی بیعت کرنے کی درخواست کی کیونکہ آئے دن بنو عباس
 اور ان کے عمال طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے تھے نصر نے جواب دیا "میں سیاہ
 پیرہ والوں کی اولاد کی بیعت نہ کروں گا ورنہ وہ کہیں گے میری ذات سے نصر
 سربر آوردہ ہوا ہے" حاضرین بولے "اچھا بنو امیہ میں سے کسی کی بیعت کر لیجئے"
 جواب دیا یہ لوگ پامال ہو گئے ہیں اور پامال گروہ ترقی نہیں کر سکتا اگر مجھے کوئی
 پامال شخص سلام بھی کرے تو مجھے یہ اندیشہ ہو گا کہ اسکی پامالی سے مجھے کچھ نقصان
 نہ پہنچے۔ اصل یہ ہے کہ میرا میلان بنو عباس کی طرف ہے مگر ان سے میں اسوجہ سے
 مخالفت کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے عجم کو عرب پر مقدم کر دیا ہے" بعد اسکے طاہر
 نے اسکے مقابلہ پر پہنچنے کے رقبہ میں قیام کیا اور اس مضمون کا خط لکھ بھیجا کہ تم
 امیر المؤمنین کی اطاعت قبول کرو یا غیابہ خیال چھوڑ کے مطیع بن جاؤ" اس نے
 کچھ جواب نہ دیا اس اثنا میں طاہر کو اپنے باپ حسین بن زریق بن مصعب کی
 خراسان میں انتقال کرنے کی خبر پہنچی اور یہ کہ خلیفہ مامون جازہ پر آئے تھے اور
 فضل نے قبضہ اتارا تھا اسکے بعد ہی خلیفہ مامون کا نامہ تعزیت صادر ہوا۔
 بعد قتل امین موصل میں مابین یمامہ و نزاریہ لڑائی ہو گئی اسوجہ سے کہ علی بن

حسن ہمدانی جو موصل پر متصرف تھا اس نے نزاریہ پر جبر و تعدی شروع کر دی تھی جو وقت عثمان بن نعیم برجمی دیار مصر میں وارد ہوا نزاریہ کے اعزاء و اقارب اور ان کے سرداروں سے اس واقعہ کو بیان کر کے غیرت دلائی اور نزاریہ کی حمایت پر او بہارا چنانچہ تیس ہزار آدمی مصر سے عثمان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے علی بن حسن کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے اتلوگوں کو واپس چلے جانے کو کہا مگر عثمان نے کچھ سماعت نہ کی مجبوراً علی بن حسن نے بھی چار ہزار فوج کو مرتب کر کے میدان جنگ کا راستہ لیا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر نزاریہ شکست کھا کے ہراگ گئے ہزار ہا آدمی کام آئے اعلیٰ اپنے دارالحکومت میں واپس آیا۔

ابن طباطبائی | جو وقت خلیفہ مامون نے حسن بن سہل کو کل مفتوحات ظاہر
علوی کا ظہور | کا گورنر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کیا لوگوں نے آپس میں
کنا شروع کر دیا کہ فضل بن سہل نے خلیفہ مامون کو اپنے قبضہ میں کر رکھا ہے
مامون کوئی کام خلافت عرضی فضل کے نہیں کر سکتا کل خاندان خلافت، اراکین
سلطنت اور سپہ سالاران لشکر کو اس نے دبا لیا ہے بنو ہاشم اور امراء شہر کو اس سے ناراضگی
پیدا ہوئی حسن بن سہل کی شکایتیں کرنے لگے رفتہ رفتہ ایک فتنہ برپا ہو گیا۔

ابو السرا یا سری بن منصور نے جسکے نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو شیبان
اولاد ہانی بن قبیلہ بن ہانی بن سعود سے تھا بنو تمیم کے ایک شخص کو جزیرہ میں
قتل کر ڈالا والی جزیرہ نے قصاص کے غرض سے ابو السرا یا کی گرفتاری کا حکم دیا
ابو السرا یا کو خیر لگ گئی فرات کو عبور کر کے جانب شرقی فرات چلا آیا اور ہزنی کر نیلکا بعد چند
تیس سو اونکی جمعیت سے یزید بن مزید کے پاس رمنیہ چلا گیا یزید بن مزید نے اس کو اپنی
لشکر کی سپہ سالاری دیدی۔ چنانچہ یزید بن مزید کے ہمراہ حزمیہ سے معرکہ آرا
ہوا اور انہیں سے کثیر التعداد آدمیوں کو گرفتار کر لیا انہیں ابو شوک (ابن کا غلام)

تھا اور جب مزید بن مزید مر گیا تو اسکے لڑکے اسد کے ساتھ رہنے لگا اور جب اسد
 حکومت ارمینیا سے معزول کر دیا گیا تو احمد بن مزید کے پاس چلا گیا اس اثنا میں
 امین و مامون میں آن بن ہو گئی امین نے احمد بن مزید کو جنگ ہرثمہ پر مامور کیا
 اس وقت احمد بن مزید نے ابوالسرایا کو اپنے لشکر کے ہراول کا سردار مقرر کیا ہرثمہ
 نے اس سے سازش کرنے کی کوشش کی اس نے سازش کر لی اور اس کے
 پاس چلا گیا بنو شیبان یہ خبر باہ کے جزیہ سے جوق جوق آنے لگے چند دنوں میں
 دو ہزار شیبانی مجتمع ہو گئے اس نے ہرثمہ سے کہہ سکے ان لوگوں کے بڑے
 بڑے و طاقت اور روزیہ مقرر کرانے پس جب امین مار ڈالا گیا تو ہرثمہ نے
 انکے و طاقت دینے سے انکار کر دیا ابوالسرایا جل بن کے خاک ہو گیا حج کی اجازت
 چاہی ہرثمہ نے اجازت دیدی اور ساتھ ہی اسکے بیس ہزار درہم سفر خرچ مرمت کیا
 ابوالسرایا نے اسکو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور پورا وقت روانگی یہ ہدایت کر دی
 کہ تم لوگ ایک ایک دو دو کر کے میرے بعد ہی میرے پاس چلے آنا ان لوگوں نے
 ایسا ہی کیا تقریباً دو سو آدمی مجتمع ہو گئے ابوالسرایا نے ان لوگوں کو مرتب کر کے
 عین التمر پر دھاوا کر دیا اور اسکے عامل کو گرفتار کر کے عین التمر کو لوٹ لیا مال غنیمت
 جو کچھ ہاتھ آیا اپنے ہمراہیوں پر تقسیم کر دیا بعد اسکے اتفاقاً ایک دوسرے عامل سے
 ملاقات ہو گئی جو بہت سا مال و اسباب تین خچروں پر بار کئے ہوئے لئے جا رہا تھا
 ابوالسرایا نے اسکو بھی لوٹ کے تقسیم کر دیا اس عرصہ میں ہرثمہ کا لشکر آپونجا جسکو
 اس نے اسکی سرکوبی پر مامور کیا تھا ابوالسرایا اس لشکر کو ہزیمت دیکے بیابان
 میں گھس گیا بعد ازاں اسکے بقیہ ہمراہی بھی اُس سے آٹے جس سے اسکی
 جمعیت بڑھ گئی و قوا کی طرف قدم بڑھائے ابو فرغانہ نے سات سو سوار و تکی
 جمعیت سے مقابلہ کیا مگر پہلے حملہ میں شکست کھا کر قصر میں جا چھپا ابوالسرایا نے

پہونچنے کے محاصرہ کر لیا تا آنکہ امن حاصل کر کے دروازہ کھول دیا ابو السرایا نے اسکا بھی مال
 و اسباب لے کے انبار کا قصد کر دیا انبار میں ابراہیم شروی (خلیفہ منصور کا آزاد غلام)
 مامور تھا ابو السرایا نے اسکو بھی قتل کر کے انبار کو لوٹ لیا اور اپنے ہمراہیوں کو تقسیم
 کر کے چل کھڑا ہوا کچھ دور جا کے پھر انبار کی جانب واپس آیا بعد ازاں بقصد
 رقبہ خروج کیا طوق بن مالک تغلبی کی طرف ہو کے گذرا اور اس نے قیس کے
 خلاف اسکی امداد کی چار مہینے تک ٹھہرا رہا رابعہ کی بھنبہ واری کی وجہ سے قیس سے
 لڑتا رہا۔ یہاں تک کہ قیس نے طوق کی اطاعت قبول کر لی اور ابو السرایا رقبہ
 کی جانب چلا گیا وہاں پر محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن مشنی
 بن حسین بن علی سے ملاقات ہو گئی اسکا باپ ابراہیم طباطبائی کے لقب سے یاد کیا
 جاتا تھا۔ ابو السرایا نے ابن طباطبائی کی بیعت کر لی ابن طباطبائی نے ابو السرایا کو براہ
 دریا کو روانہ کیا اور خود خشکی کا راستہ اختیار کیا پتا نچ ایک مقرر اور معین وقت پر
 ابو السرایا اور ابن طباطبائی کو فہ میں داخل ہوئے ابن طباطبائی نے اہل کوفہ سے آل محمد
 کی حمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابو السرایا نے قصر عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ کا
 رخ کیا اور اسکے مال و اسباب اور جواہرات کو جو غیر محدود و لا متناہی تھے لوٹ لیا
 یہ واقعہ پندرھویں جمادی الثانی ۱۹۹ھ کا ہے۔

بعضوں کا یہ بیان ہے کہ ابو السرایا ہرمزہ کے منتخب آدمیوں میں سے تھا مگر
 تنخواہ بند کر دینے سے ناراض ہو کے کوفہ چلا گیا۔ ابن طباطبائی کی بیعت کر لی اور
 جب کوفہ پر متصرف ہو گیا تو اطراف و جوارب کے رہنے والوں نے جوق جوق
 حاضر ہو کے بیعت کی ان دنوں کوفہ کی گورنری پر حسن بن سہل کی جانب سے
 سلیمان بن منصور تھا حسن بن سہل نے یہ خبر پانے کے نہیر بن مسیب حلبی کو لبر افسری
 دس ہزار سواروں کے کوفہ روانہ کیا ابن طباطبائی اور ابو السرایا نے کوفہ سے

نکلنے قرین شاہی میں مقابلہ کیا اور کمال مردانگی سے لڑنے کے زمیر کے لشکر کو لپکا کر دیا
 لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ اگلے دن صبح کو محمد بن طباطبایا مردہ پایا گیا ابو السرایا نے
 بجائے اسکے ایک نو عمر علوی محمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن حسین کو برائے
 نام جانشین بنایا اور خود کل کاموں کا انصرام و انتظام کرنے لگا جنگ کے ختم ہونے
 پر زمیر قہر ابن ہبیرہ میں واپس آیا اور وہیں ٹھہر گیا حسن بن سہل نے عبد وکس
 بن محمد بن خالد مروری کو بسرافسری چار ہزار فوج کے زمیر کی ملک کو روانہ کیا
 ابو السرایا نے اسکو بھی نصیب ۱۹۹ میں شکست دیدی یہ اور اسکے اکثر
 ہمراہی اس معرکہ میں کام آگئے۔ جو باقی رہے وہ قید کر دئے گئے۔ اس واقعہ کے
 بعد ابو السرایا نے کوفہ میں اپنے نام کا سکہ بنوایا اور متعدد فوجیں اور عمال بصرہ اور
 واسط کی جانب روانہ کیا۔ بصرہ کی گورنری عباس بن محمد بن عیسیٰ بن محمد جعفری کو،
 مکہ کی حسین بن حسن بن علی زین العابدین معروف بہ افضس کو راتھیں کو موسم کا بھی
 امیر مقرر کیا تھا، یمن کی ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو، فارس کی اسماعیل
 بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو اور ابوزکریٰ زید بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو مرحمت
 کی چنانچہ عباس نے بصرہ میں پہنچنے کے عباس بن محمد بن داؤد بن حسن شنی کو مدائن کی
 طرف نکال باہر کیا ابو السرایا نے اسکو یہ حکم دیا کہ بغداد پر جانب شرقی سے دھاوا
 کر دو عباس نے ایسا ہی کیا۔ واسط میں حسن بن سہل کی جانب سے عبداللہ بن
 سعد حریشی تھا اس نے ابو السرایا کے سپہ سالاروں کی آمد سننے واسط چھوڑ دیا
 حسن بن سہل نے اپنے ہمراہیوں کا یہ رنگ دیکھ کے ہرثمہ سے جنگ ابو السرایا پر
 جانے کی درخواست کی۔

ہرثمہ حسن سے ناراض ہو کے خراسان چلا گیا تھا مگر بعد اصرار بسیار واپس آیا
 اور ایک لشکر آراستہ کر کے ماہ شعبان میں کوفہ کی طرف روانہ ہوا اسی زمانہ میں

حسن نے مدین اور واسط کی حفاظت کی غرض سے علی بن ابی سعید کو مدین کی جانب روانہ کیا تھا اتفاق یہ کہ ابو السرایا کو اس کی خبر لگ گئی اس وقت یہ قصر بن ہبیرہ میں تھا جہاں ایک لشکر مرتب کر کے مدین بھیجا جسے ماہ رمضان المبارک میں مدین پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اور خود قصر بن ہبیرہ سے کوچ کر کے نہر صرصر پر اٹھیرا ہتھ میں ہرثمہ بھی اپنا لشکر لئے ہوئے اسکے مقابلہ پر آؤترا اور علی بن ابی سعید نے شوال میں مدین پہنچ کر ابو السرایا کے ہمراہیوں پر محاصرہ ڈال دیا ابو السرایا نے اس واقعہ کو سُنکے نہر صرصر سے قصر بن ہبیرہ کی جانب مراجعت کی ہرثمہ نے اسکے روانگی کے بعد ہی کوچ کر دیا اثناء راہ میں ابو السرایا کے ہمراہیوں کا ایک گروہ مل گیا ہرثمہ نے انکو گھیر کے مار ڈالا بعدہ نہایت تیزی سے ابو السرایا کو جا گھیرا ہرثمہ اور ابو السرایا سے متعدد لڑائیاں ہوئیں ایک گروہ کثیر ابو السرایا کے ہمراہیوں کا قتل کر ڈالا گیا بالآخر جان بچا کے کوفہ کی جانب بہا کا طالبین بنو عباس اور ان کے ہواخوہوں کے مکانات پر ٹوٹ پڑے جو کچھ پاپا لوٹ لیا مکانات دیران و سمار کر کے ان لوگوں کو نکال دیا اور جو امانتیں انکی اور لوگوں کے پاس تھیں اوٹکو جبراً لے لیا۔

مکہ کی گورنری پر داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی تھا جو وقت اس کو حسین فطس کے آمد کی خبر معلوم ہوئی ہواخواہان بنو عباس کو جمع کیا اتفاقات سے ان دنوں مسرور الکبیر وہاں موجود تھا ایک سو سواروں کے ساتھ حج کر نکو گیا تھا مسرور الکبیر نے بقصد جنگ طیارمی کر دی اور داؤد کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی داؤد نے جواب دیا "میں قتل و خونریزی کو حرم شریف میں پسند نہیں کرتا اگر وہ لوگ ایک راستہ سے مکہ میں داخل ہونگے تو میں دوسرے راستہ سے نکل جاؤں گا" مسرور الکبیر یہ سُنکے خاموش ہو گیا اور داؤد نے مکہ سے عراق کی طرف کوچ کر دیا اسکے بعد ہی مسرور الکبیر بھی عراق کی جانب روانہ ہو گیا اس وقت

حسین اقطس اس خوف سے کہ مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا جب اسکو یہ خبر لگی کہ بنو عباس سے مکہ معظمہ خالی ہو گیا ہے تو دس آدمیوں کو ہمراہ لئے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوا اطراف کیا مابین صفا و مروہ سعی کی عرف میں ایک شب قیام کیا غرض جملہ مناسک حج ادا کئے اور ہرثمہ اطراف کوفہ میں ڈھرا ہوا کوفہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اسی اثناء میں منصور بن ہدی کو بلا بھیجا اور رؤساء کوفہ سے خط و کتابت کی اور علی بن سعید مدائن سے واسطہ کی طرف آیا اور اسپر قبضہ حاصل کر کے بصرہ کا رخ کیا۔

انہیں واقعات پر ۱۹۹ھ کا دور تمام ہو جاتا ہے اور ۲۰۰ھ کا سکہ تمام عالم میں چلنے لگتا ہے ہرثمہ جیسا کہ تم اوپر پڑھ آئے ہو کوفہ کا حصار کئے ہوئے تھا شدت حصار کی جب بڑھتی ہوئی نظر آئی تو ابوالسرایا آٹھ سو سواروں کی جمعیت سے مع محمد بن جعفر بن محمد کے کوفہ چھوڑ کر بہاگ نکلا۔ ہرثمہ نے پندرہویں محرم ۲۰۰ھ کو کوفہ میں داخل ہوئے قبضہ کر لیا۔ غسان کو درجن انسان کی فوج باڈی گارڈ کا افسر تھا کوفہ کی امارت دی اور ایک روز قیام کر کے لوٹ کھڑا ہوا۔

ابوالسرایا نے کوفہ سے نکلنے کا قصد کیا اور پھر قادسیہ سے سوس کی جانب روانہ ہوا مقام خورستان میں ایک قافلہ مل گیا جو ابواز سے بہت سا مال و اسباب لئے جا رہا تھا ابوالسرایا نے اسکو لوٹ لیا اور اپنے ہمراہیوں پر تقسیم کر دیا ان دنوں حسن بن علی مامون ابواز کا گورنر تھا یہ خبر پا کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی حسن بن علی نے ابوالسرایا کو ہزیمت دی ابوالسرایا کے ہمراہی متفرق و منتشر ہوئے بہاگ گئے حسین بن علی مع محمد اور اپنے غلام ابوالشوک کے ابوالسرایا کے فرودگاہ مقام راس عین (مضافات جلولا) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا حماد کنذ غوش نے نہایت مردانگی سے ابوالسرایا وغیرہ کو گرفتار کر لیا

اور پانچ ہجرت حسن بن سہل کے پاس مقام نروان میں لاس کے حاضر کیا حسن بن سہل نے
 ابوالسرا یا کو قتل کر کے سر کو معہ محمد بن محمد کے خلیفہ مامون کی خدمت میں بھیجا اور
 لاشہ کو بغداد کے پل پر لٹکا دیا بعد اسکے علی بن سعید بصرہ کی جانب روانہ ہوا اور اسکو
 زید بن موسیٰ بن جعفر الصادق کے قبضہ سے نکال لیا اسکو زید النار کے نام سے بھی
 موسوم کرتے تھے اسوجہ سے کہ اسے عباسیوں اور ہواخواہان دولت عباسیہ کے
 مکانات بصرہ میں بکثرت جلوادئے تھے زید نے علی بن سعید سے امن کی درخواست کی
 علی بن سعید نے امن دی مگر ساتھ ہی اسکے خوف و خطرہ آئندہ نظر بند کر لیا۔
 اس خدا داد کامیابی کے بعد علی بن سعید نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور یمن کی
 طرف علویین سے جنگ کر نیکو فوجیں روانہ کیں مکہ معظمہ میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر
 تہاجب اسکو ابوالسرا یا کے قتل کئے جانے کی خبر پھونچی تو اس نے مکہ معظمہ پر سیکو اپنی طرف
 سے مقرر کر کے یمن کی جانب کوچ کر دیا یمن کی گورنری پر اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ
 خلیفہ مامون کی جانب سے مامور تھا اس پر ابراہیم کا خوف اسقدر طاری ہوا کہ یہ یمن کو چھوڑ کر
 مکہ کی جانب ہٹا گیا تھا ابراہیم نے یمن میں پہنچنے کے قبضہ کر لیا چونکہ اس نے
 یمن میں قتل و خونریزی حد سے زیادہ کی تھی اسوجہ سے یہ ہزار کے لقب سے ملقب
 کیا جاتا تھا بعد اسکے ابراہیم ہزار نے عقیل بن ابیطالب کی اولاد سے ایک شخص کو
 مکہ کی جانب لوگوں کو حج کرانے کی غرض سے روانہ کیا مگر اس عقیلی کے مکہ معظمہ پہنچنے
 سے پیشتر ابوالحسن مجتہم معہ ایک جماعت سپہ سالاروں کے جس میں حمدویہ بن علی
 بن عیسیٰ بن ماہان بھی تھا پہنچ گیا تھا اور حمدویہ کو حسن بن سہل نے یمن کی سند
 گورنری دی تھی عقیلی نے یہ خیال کر کے کہ مجھ میں ان لوگوں سے لڑنے کی طاقت
 نہیں ہے بستان ابن عامر میں قیام کیا اتفاق سے ایک قافلہ مکہ معظمہ سے آ رہا
 تھا اسی قافلہ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھا عقیلی نے قافلہ پر شیون مار کے اہل قافلہ

کے کل مال و اسباب تجارت اور نیز خانہ کعبہ کے غلاف کو لوٹ لیا اہل قافلہ بجال
پریشان کمال بے سرو سامانی سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے معصم نے جلودی کو ایک
مختب آدمیوں کے ساتھ عقیلی کی سرکوبی کو روانہ کیا جلودی شبائشب عقیلی کے سر پر
پہنچ گیا صبح ہوتے ہی نقارہ جنگ بجا دیا لڑائی ہوئی عقیلی میدان جنگ سے بہاگ
کھڑا ہوا بہت سے ہمراہی اسکے گرفتار کر لئے گئے جس قدر مال و اسباب تجارت ان
لوگوں نے قافلہ کالوٹ لیا تھا سب کا سب اور نیز خانہ کعبہ کا غلاف مل گیا معصم نے
قیدیوں کو دس دس ڈرے پٹو کے رہا کر دیا اور حجاج کے ساتھ باطمینان
تمام مناسک حج ادا کئے۔

محمد بن جعفر | محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین ملقب بہ
کی بیعت | دیباچہ عالم، زاہد اور نیک سیرت تھے اپنے باپ جعفر الصادق
سے حدیث کی روایت کرتے تھے اور لوگ آپ سے علم دین سیکھنے کو آتے تھے۔
پس جب حسین فطس نے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا
اور خانہ کعبہ کا غلاف اوتار کے دوسرا غلاف چڑھایا جس کو ابوالسرایا نے کوفہ سے
روانہ کیا تھا اور بنو عباس کی امانتوں کے پیچھے پڑ گئے اور لوگوں کے مال و اسباب
کو بکیر و تعدی چہین لینے لگے تب اکثر اہل مکہ بخوف جان و مال مکہ چھوڑ کر بہاگ گئے
اور اسکے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو توڑ ڈالا خود فطس نے بھی کعبہ شریف
کے ستونوں پر جس قدر سونا چڑھا ہوا تھا اوتار لیا اور جس قدر نقد و عین خانہ کعبہ
کے خزانہ میں تھا نکال کے اپنے ہمراہیوں پر تقسیم کر دیا اس سے اہل مکہ کے دلوں پر
بہت برا اثر پڑا اسی اثنا میں ابوالسرایا کے مارے جانے کی خبر مشہور ہوئی اہل مکہ
نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں اس وقت حسین فطس کو اپنی جان کا خطرہ
پیدا ہوا۔ گھبرا یا ہوا محمد بن جعفر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی دینہ

موقع مناسب ہے لوگوں کے قلوب آپکی طرف مایل ہیں آئیے میں آپکی بیعت کئے لیتا ہوں کوئی شخص آپ سے مخالفت نہیں کریگا محمد بن جعفر الصادق نے اس درخواست کی منظور کرنے سے انکار کیا مگر یہ اور انکار کا لڑکا علی برابر اسی امر پر اصرار کرتا رہا بالآخر محمد بن جعفر الصادق ان لوگوں کے کہنے سننے میں آگئے طوعاً و کرہاً بیعت خلافت لینے پر آمادہ ہو گئے لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امیر المؤمنین کے لقب سے پکارنے لگے بعد چندے آپ کے لڑکے علی اور ابن فطس نے ہاتھ پانوں نکالے طرح طرح کی بد اعمالیاں کرنے لگے زنا، اعلام سربازار عورتوں کو بیعت عزت کرنا شروع کر دیا۔ حسین عورتوں کو اپنی عصمت کا بچانا دشوار ہو گیا جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈا نظر آتا یا لڑکے اسپر ٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کر بیگی غرض سے جبراً بیکڑ لجاتے تھے لوگوں نے یہ رنگ ہٹانے کے ایک جلسہ کیا اور محمد بن جعفر الصادق کے معزول کرنے، قاضی مکہ کے لڑکے کے واپس لینے پر متفق ہو گئے۔ قاضی مکہ کا لڑکا محمد بن جعفر الصادق کے بیٹے کے مکان میں مقید تھا پس جب اہل مکہ نے محمد بن جعفر الصادق کا مکان شور و غل مچاتے ہوئے جا کر گھیر لیا محمد بن جعفر الصادق ان لوگوں سے امن حاصل کر کے اپنے مکان پر گئے اور قاضی کے لڑکے کو اپنے بیٹے سے لیکے ان لوگوں کے حوالہ کر دیا اس واقعہ کے چند دنوں بعد اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ ایک لشکر لئے ہوئے یمن سے آپہنچا طابلسیوں نے مجتمع ہو کے مکہ معظمہ کے ارد گرد خندقیں کھودیں اطراف و جوانب کے بددیوں کو یکجا کر کے مقابلہ پر

لے لڑکے کا نام اسحاق اور قاضی مکہ کا نام محمد تھا اسحاق ایک نوعمہ حسین لڑکا تھا ایک روز بازار مکہ میں جا رہا تھا اتفاق سے علی بن محمد بن جعفر الصادق کی نظر پڑ گئی دیکھتے ہی رال ٹپک پڑی جھٹ پٹ اپنے دو چار ہم خیالوں کو بلا کے اسحاق کو پکڑ لیا اور اپنا منہ کالا کرنے کو اپنے مکان میں پاد بست دگرے دست بدست دگرے اوٹھا لیا نعوذ باللہ۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۶ صفحہ ۲۸

آسے اسحاق نے بھی صف آرائی کی گر پھر کچھ سوچ سمجھ کے جنگ سے دست کش ہو کے
 عراق کی جانب کوچ کر دیا اشارہ راہ میں اُس لشکر سے ملاقات ہو گئی جسکو ہرثمہ نے جلودوی اور
 رجا بن جمیل کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا تھا (یہہ حسین بن سہل کا چچا زاد بہائی تھا)
 چنانچہ اسحاق ان لوگوں کے ہمراہ پھر مکہ معظمہ واپس آیا طالبیوں نے جی توڑ کے
 مقابلہ کیا چونکہ عباسیوں کا ستارہ اقبال عروج پر تھا طالبیوں کو ہزیمت ہوئی محمد
 بن جعفر الصادق نے امان کی درخواست پیش کی امان دید گئی عباسیوں نے مکہ
 معظمہ پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کر لیا اور محمد بن جعفر الصادق مکہ معظمہ سے حنفہ کی جانب
 اور پھر حنفہ سے بلاد جہینہ چلے گئے بلاد جہینہ میں پہونچکے اطمینان کے ساتھ پھر لشکر مرتب
 کرنے لگے رفتہ رفتہ جب خاطر خواہ لشکر مجتمع و مرتب ہو گیا تو ہارون بن مسیب والی مدینہ
 سے جنگ کرنیکو نکلے متعدد لڑائیاں ہوئیں آخر الام محمد بن جعفر الصادق شکست فاش
 کھا کے واپس آئے انھیں واقعات میں ایک آنکھ جاتی رہی ایک گروہ کثیر ان کے
 ہمراہیوں کا کام آگیا۔ اگلے سال موسم حج میں جلودوی اور رجا بن جمیل سے امن حاصل
 کر کے مکہ معظمہ میں آئے اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور ان امور و افعال کی جو اس سے
 پیشتر آپ سے سرزد ہوئے تھے معذرت کی چونکہ مجھے یہ خبر ملی تھی کہ مامون کا انتقال
 ہو گیا ہے اور اسوقت تمام عالم میں فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا اسوجہ سے میں نے لوگوں
 سے بیعت لیلی تھی اور اُس بیعت کا ایفاء کر رہا تھا بعد ازاں اب مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے
 کہ مامون زندہ ہے نظر برائیں میں اپنے آپ کو معزول کر کے تلوگوں کو اپنی بیعت سے
 سبکدوش کرتا ہوں اسقدر معذرت کر کے میرے اوتر آئے اور بعد ادا سے حج ۲۰۳ھ
 میں عراق چلے گئے حسن بن سہل نے انکو خلیفہ مامون کے پاس بھیجا پس یہہ اُس
 زمانہ سے خلیفہ مامون کی خدمت میں رہے تا آنکہ خلیفہ مامون عراق کو روانہ ہوا

تو انھوں نے اثنار راہ مقام جرجان میں پہنچنے کے وقت پائی۔

ہرثمہ کا قتل جس وقت ہرثمہ مہم ابوالسرایا سے فارغ ہو کے واپس ہوا اس وقت

حسن بن سہل مدائن میں تھا اس سے بغیر ملے ہوئے براہ عقربا نہ روانہ کیا جب ان کا بقصد خراسان روانہ ہوا اثنار راہ میں خلیفہ مامون کے فرامین مشعر بایں مضمون صادر ہوئے کہ ”تم بجائے خراسان آنے کے شام و حجاز کی طرف واپس جاؤ مگر ہرثمہ اس پر ملتفت نہ ہوا خلیفہ مامون سے ملنے کے شوق میں اور نیز اس خیال سے کہ میرے آباء و اجداد ہمیشہ دولت عباسیہ کے ہوا خواہ تھے اور میں بھی اب اور اس سے پیشتر برابر ہی خواہ دولت علیہ رہا ہوں غنیمت خراسان نہ کی اور فضل بن سہل کے ان حالات سے خلیفہ کو مطلع کرنے کی غرض سے کہ وہ خلافت پناہی سے ملکی حالات چھپاتا ہے لوگوں کو ہر طرح سے مجبور اور انہر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے خراسان کی طرف بڑھتا چلا گیا اتفاق یہ کہ ہرثمہ کے ان خیالات سے فضل بن سہل مطلع ہو گیا موقع پانے کے خلیفہ مامون سے جڑو پانے کہ ”ابوالسرایا کا فتنہ درحقیقت اسی کا اٹھایا ہوا تھا اسکی جسارت اور عدول حکمی کی کوئی انتہا نہیں رہ گئی خلافت پناہی کے فرامین کی تعمیل اس نے مطلق نہیں کی جان پناہ نے تو شام و حجاز کی طرف واپس جانا کا حکم صادر فرمایا تھا اور ہرثمہ خراسان چلا آ رہا ہے اس معاملہ میں اگر چشم پوشی کی جائے گی تو اوروں کو عدول حکمی اور خلاف ورزی کی جزا ت پیدا ہوگی“ خلیفہ مامون کے خیالات ان فقروں سے تبدیل ہو گئے اپنے غصہ کو ضبط کئے ہوئے ہرثمہ کے آنیکا انتظار کرتے لگا تا آنکہ ہرثمہ مرو میں وارد ہوا اور اس خیال سے کہ خلیفہ مامون سے میرے آنے کی خبر مخفی نہ رہے گی نقارہ بجائیکا حکم دیدیا خلیفہ مامون کے کانوں تک طبلوں کی آواز پہنچی دریافت کیا ”کون آتا ہے“ گذارش کی گئی ”ہرثمہ آپہونچا وہی گرجتا اور تڑپتا ہے“ خلیفہ مامون نے اس وقت ہرثمہ کو بلا بھیجا اور معترضانہ استفسار کیا ”تو نے ابوالسرایا

کو مقرر کر کے کوفہ کے علویوں کو کیوں تباہ و ہلاک کیا اگر تو بدعتی کو دخل نہ دیتا تو انلوگوں کو زندہ گرفتار کر سکتا تھا" ہرثمہ معذرت کرنے لگا خلیفہ مامون نے اسکی ایک بھی زبانی بیٹ پر ایک لاکھ رسید کی، ناک توڑ ڈالی اور کشاں کشاں جیل بھیج دیا اسپر بھی صبر نہ آیا تو ایک شخص کو اسکے قتل پر مامور کر دیا جس نے اسکو جیل کی تکلیف سے نجات ابدی دیدی۔

اہل بغداد | جب ہرثمہ کی یہ خبر عراق میں مشہور ہوئی تو حسن بن سہل نے علی کی شورش

بن ہشام والی بغداد کو اپنی طرف سے لکھ بھیجا کہ جند حریہ کو ایک حینہ ند و حیلہ و حوالہ سے ٹالتے رہو حسن نے یہ حکم اسوجہ سے دیا تھا کہ انہوں نے قبل روانگی ہرثمہ اسکے معزول کرنے اور اسکے عمال کے نکال دینے کا قصد کیا تھا چنانچہ

اسکے مقرر کئے ہوئے عامل کو بغداد سے نکال کے اسحاق بن ہادی خلیفہ مامون

کے نائب کو اپنا امیر بنا لیا تھا۔ حسن بن سہل انکی ان زیادتیوں کو برداشت کرتا

اور بہ لطائف التحیل ٹالتا جاتا تھا تا آنکہ اس نے اپنے عاملانہ تدابیر سے انلوگوں میں

اختلاف ڈال دیا اور اسی کے اشارہ سے علی بن ہشام اور محمد بن ابی خالد ایک جانب سے

اور زہیر بن مسیب دوسری طرف سے رات کی وقت بغداد میں گھس پڑے تین روز

تاک جند حریہ سے جنگ ہوتی رہی بالآخر و طائف اور روزینہ دینے پر مصالحت

ہو گئی ہنوز لشکریوں کے و طائف اور روزینہ تقسیم نہ ہونے پائے تھے کہ زید بن

موسیٰ بن جعفر الصادق معہ ابوالسرایا کے بھائی کے جسکو علی ابن سعید نے بصرہ

میں گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں قید خانہ سے

بھاگ گیا اور اطراف انبار میں خروج کر دیا اراکین دولت عباسیہ نے زید بن موسیٰ

کی گرفتاری پر فوجیں متعین کر دیں جنہوں نے نہایت کم مدت میں اسکو گرفتار

کر کے علی بن ہشام کے پاس لا کے حاضر کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہرثمہ کی خبر

پہنچی محمد بن ابی خالد نے علی بن ہشام سے مخالفت کا اعلان کر دیا کیونکہ علی بن ہشام
 اکثر بلکہ ہمیشہ محمد بن ابی خالد کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا اسی وجہ سے محمد بن
 ابی خالد اس سے بگڑنے لگا اور لڑائی شروع کر دی علی بن ہشام ہزیمت
 اٹھا کے مصر کی جانب بھاگ گیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ علی بن ہشام نے عبد اللہ
 بن علی بن عیسیٰ پر ہرجاری کی تھی اسوجہ سے حرابیہ کو اشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں
 نے مجتمع ہو کر اسکو نکال دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع حسن بن سہل کو مدائن میں ہوئی
 جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں تو وہ شروع ۲۰ھ میں مدائن سے واسط کی جانب
 چلا آیا افضل بن ربیع جو زمانہ خلیفہ امین سے خلیفہ مامون کی مخالفت کی وجہ سے
 واسط میں روپوش تھا۔ روپوش رہا اس عرصہ میں عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد رقمہ سے
 طاہر کے پاس آ پہنچا اس نے اور اس کے باپ نے مشورہ کر کے جنگ حسن پر کمر
 ہمت چست باندھ لی اور لشکر مرتب کر کے بقصد واسط تکل کھڑے ہوئے اثناء راہ میں
 حسن کے ہمراہیوں میں سے جو مقابلہ پر آیا اسکو نیچا دکھاتے گئے زہیر بن مسیب کو جو
 حسن کی جانب سے خوخی (اطراف سواد) کا عامل اور سپہ سالاران بعد اوستے
 خط و کتابت کیا کرتا تھا محمد بن ابی خالد نے جا کے گرفتار کر لیا مال و اسباب جو کچھ
 پایا لوٹ کے اپنے بیٹے جعفر کے پاس بغداد میں قید کر دیا بعد ازاں واسط کی طرف
 بڑھا اور اپنے لڑکے ہارون کو نیل کی جانب روانہ کیا حسن کا نائب یہ خیر پا کے کوفہ
 کی طرف بھاگ آیا اور کوفہ سے واسط چلا گیا ہارون نے میدان خالی پا کے نیل پر
 قبضہ کر کے اپنے باپ کی جانب مراجعت کر دی محمد و ہارون نے واسط کا قصد
 کیا حسن بن سہل نے اس خبر سے مطلع ہو کر واسط سے کوچ کر دیا مگر افضل بن ربیع
 جو ایک زمانہ دراز سے واسط میں روپوش تھا ٹھہرا ہا محمد و ہارون کے داخل ہونے
 کے بعد محمد سے امن کا خواستگار ہوا محمد نے نہایت خوشی سے فضل کو امن دیکے

بغداد کی جانب روانہ کر دیا اور خود بقیہ لشکر کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے حسن بن سہل کے تعاقب پر نکل کھڑا ہوا چنانچہ حسن کے عساکر اور سپہ سالاروں سے مذہبیٹھ ہونی متعدد لڑائیوں کے بعد مجاور اسکے ہمراہیوں کو ہریمت ہونی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کیا محمد نے جرجا بامیں پہنچنے کے قیام کر دیا اور اپنے لڑکے ہارون کو عنایا کی جانب بھیج دیا چونکہ محمد ان لڑائیوں میں زخمی ہو گیا تھا بتری کی صورت جب نظر نہ آئی تو ابو زبیل (محمد کا دوسرا لڑکا) محمد کو بغداد اوٹھا لایا بغداد پہنچنے کے بعد دم توڑ دیا شب کی وقت خفیہ طور سے اپنے ہی مکان میں دفن کر دیا گیا اسی شب میں ابو زبیل نے زہیر بن مسیب کو قتل کر ڈالا۔ زہیر بن خازم نے بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیلی اور عیسیٰ بن محمد کے پاس یہ حکم بھیج دیا کہ تم بجائے اپنے باپ کے جنگ حسن کے کمانڈر انچیف مقرر کئے گئے۔ حسن بن سہل کو محمد کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے لشکر کو ہارون کی جانب نیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اس لشکر نے نیل پر پہنچنے کے بعد ہارون کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور نیل پر قبضہ کر لیا ہارون نیل سے براہین بھاگ آیا اس واقعہ کے بعد اہل بغداد نے ایک جلسہ کر کے منصور بن مہدی کو سریر خلافت پر بیٹھانے کا قصد کیا منصور بن مہدی نے انکار کیا تب ان لوگوں نے حسن بن سہل سے مخالفت ہو کے اسکو خلیفہ ناموں کا نائب بغداد و عراق مقرر کیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اہل بغداد نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد سے حسن سے جنگ کرنے پر موافقت اور سازش کر لی تو حسن یہ خیال کر کے کہ مجھ میں اہل بغداد کی مقاومت و مخالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عیسیٰ بن محمد سے تعلق و چاچا پوسی کی باتیں کرنے لگا۔ رشتہ داری و قرابت کرنے کا وعدہ کیا علاوہ ازیں ایک لاکھ دینار اور اسکو مع اسکے خاندان اور اہل بغداد کو امان دینے اور صوبجات کی گورنریوں پر تعین کرنے کا اقرار کیا عیسیٰ نے ادھر ان سب امور کو منظور کر کے خلیفہ ناموں کا دستخطی فرمان

طلب کیا اور اوہ ہل بغداد کو لکھ بیجا کہ تملوگ نہ گھبرانا میں خراج کی کمی کیوجہ سے
 لڑ رہا ہوں تملوگ کسی شخص کو بنو ہاشم میں سے اپنا سردار بنا لو چنانچہ اہل بغداد نے
 منصور بن ہمدی کو اپنا والی مقرر کیا بعد اسکے عیسیٰ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو تعداد
 میں ایک لاکھ پچیس ہزار نکلا۔ منصور بن ہمدی نے غسان بن عباد بن ابی الفرج کو
 اطراف کو قہ کی طرف مامور کیا اس نے حمیہ طوسی سے جو حسن بن سہل کی طرف سے
 کو قہ پر مامور تھا لڑائی کی حمید نے اسکو شکست دیکے گرفتار کر لیا یہ واقعہ ۲۴ رجب
 ۱۲۷ھ کا ہے۔ اور کامیابی کے بعد نیل میں پڑاؤ کر دیا۔ منصور کو اسکی خیر لگی تو اس نے
 محمد بن یقظین کو ایک کثیر التعداد فوج کے ساتھ حمید کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ مقام کوئی
 میں حمید سے ٹڈی پڑ ہو گئی حمید نے اسکو بھی نیچا دکھا کے اسکے اکثر ہراہیوں کو قتل کر ڈالا
 اطراف و جوانب کوئی کو لوٹ کے نیل کی طرف آیا اور ابن یقظین نے نہر صریر پر قیام کر دیا
 متطوعہ جسوقت بغداد میں اوباش مزاجوں کی کثرت ہو گئی ہر چار طرف سے
 بد معاشوں نے ظلم و تعدی کے ہاتھ لوگوں پر بڑھانے شروع کر دئے دن دھاڑے
 دوکانداروں اور مسافروں کو لوٹ لینے لگے۔ علانیہ اور مخفیہ منہیات شرعیہ کا ارتکاب
 کرنے لگے اور حکومت اندرونی جنگوں اور اعیان دولت کی کمزوری کیوجہ سے
 اسکے انداد سے محذور ہو گئی تو اوباش مزاجوں اور بد معاشوں نے اطراف و جوانب
 کے قضیات اور دنیاہات پر ہاتھ بڑھائے جو سامنے آیا مار ڈالا جو پایا لوٹ لیا۔ رعایا انکے
 تعدی و ظلم سے پریشان ہو ہو کے حکام کے پاس آتی مگر یہ انکی چارہ جوئی نہ کر سکتے تھے
 اسوقت مصلحین قوم و ملت اسکی مدافعت کی خیال سے ایک دوسرے سے ملنے لگے
 اور آپس میں ان منکرات کے قلع و قمع کرنے کی تذکرات کرنے لگے۔ اور یہ خیال کر کے کہ
 ہر حلقہ اور محلہ میں بہ نسبت اوباشوں اور راستہ مزاجوں کے نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے
 اصلاح قوم و ملک اور منکرات شرعیہ کی مدافعت کرنے کا قصد کر لیا۔ سب کے پہلے

خالد مدیوش نامی ایک شخص نے جو بغداد کے ممتاز باشندوں سے تھا اپنے ہمسایہ اور
 محلہ والوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دی اسطرح کہ شاہی جبروت
 و سطوت سے کسی قسم کا تعارض نہ ہونے پائے اہل محلہ و جوار نے آمادگی ظاہر کی چنانچہ
 اسکے محلہ میں حیدر اوباش خراج جرایم پیشہ لوگ تھے سبھوں کو گرفتار کر کے قید کر کے
 حکام وقت کو مطلع کیا بعد اسکے دوسرے محلہ کی طرف توجہ کی اسکی دیکھا دیکھی جند جزیہ
 سے سہل بن سلامہ انصاری نے بھی بواہل خراسان سے تھا اور اسکی کنیت ابو حاتم تھی
 لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور عمل کتاب و سنت کی ترغیب دی فرید برآں
 اپنے گلے میں قرآن کریم کو لٹکا کے خواص و عام اور اراکین دولت سے ملا اور ان
 لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی سبھوں نے بطیب خاطر اسکی اس امر پر اور نیز
 اسپر کہ جو شخص اسکا مخالف ہوگا اس سے ہم لڑینگے بیعت کر لی۔ رفتہ رفتہ منصور بن
 ہمدی اور عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد تک ان دونوں کی خبریں پہنچ گئیں منصور اور
 عیسیٰ کو اس خبر سے برہمی و ناراضی پیدا ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے اکثر فقار انھیں
 جرایم پیشہ اور آبرو باختہ لوگوں سے ملے جلتے رہتے تھے مگر چونکہ موقع مناسب نہ تھا
 خاموش رہے جب بعد چندے حسن بن سہل سے اپنے اور کل اہل بغداد کے لئے
 امن حاصل کر کے مصالحت کر لی تب باطمینان تمام بغداد میں داخل ہوئے اور خلیفہ
 فرمان عالی شان کا انتظار کر نیلگے۔ اہل بغداد کو اس مصالحت سے کمال مسرت ہوئی اور انکو کئی
 رضامندی سے خالد مدیوش اور سہل کے جہات میں بہت بڑی آسانی ہو گئی۔

علی رضا کی ولیعهدی اور جس وقت اہل بغداد کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ مامون نے علی

ابراہیم بن ہمدی کی بیعت

۱۳۳۳ء چوتھی رمضان ۱۳۳۳ء میں اسنے اپنے دعاوی کا اظہار کیا تھا اور

اس سے دو روز پیشتر خالد مدیوش نے لوگوں کو ترغیب دی تھی۔ تاریخ کامل جلد ۴ صفحہ ۱۳۳۔

۱۳۳۳ء خلیفہ مامون نے ۱۳۳۳ء میں علی بن موسیٰ رضا بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

کو جلسہ عام میں اپنا ولیعهد مقرر کیا تھا۔ تاریخ کامل جلد ۴ صفحہ ۱۳۳۔

بن موسیٰ کاظم کی ولیعہدی کی بیعت لی ہے۔ اور الرضا من آل محمد کا ان کو لقب مرحمت فرما کے لشکریوں کو سیاہ وردی کے پہننے کی ممانعت کر کے سبز وردی پہنائی ہے اور تمام ممالک میں ایک گشتی فرمان مشعر مضمون بالا روانہ کیا ہے اور حسن بن سہل نے بغداد سے مراجعت کر کے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو رمضان سنہ ۲۵۲ھ میں اس امر سے مطلع کر کے تحریر کیا کہ تم اپنے کل لشکریوں سے جو تمہارے پاس ہیں اور نیز بنو ہاشم سے علی رضا کی ولیعہدی کی بیعت اور بجائے سیاہ کپڑوں کے پہننے کے جامہ سبز کے استعمال کی بیعت لیلو اس وقت بعضوں نے تو اس حکم کی تعمیل کی اور بعضوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز اس امر پر راضی نہ ہوں گے کہ بنو عباس سے حکومت و خلافت کا اقتدار نکل کے آل علی میں چلا جائے اس مخالفت ویرہمی کے بانی مہبانی منصور و ابراہیم پسران ہمدی تھے اور جو کچھ ان دونوں میں خامی تھی اسکو مطلب بن عبداللہ بن مالک ہمدی، نصر و صیف اور صالح صاحب مصلیٰ نے پختہ کر دیا اور مصلحتاً جمعہ کے دن خلیفہ مامون کی معزولی اور ابراہیم بن ہمدی کی خلافت اور بعد ابراہیم کے اسحاق بن ہادی کے مالک تخت خلافت ہونے کے اعلان کرنے کو منع کر دیا مگر چند ہی دنوں بعد محرم سنہ ۲۵۲ھ میں نامبردگان اور کل اہل بغداد نے ابراہیم بن ہمدی کی خلافت کی بیعت

۱۵ پچیسویں ذی الحجہ سنہ ۲۵۲ھ کو ان وجوہات سے جسکا ذکر مورخ علامہ ابن خلدون نے کیا ہے اہل بغداد نے ابراہیم بن ہمدی کی بیعت کر لی اور ایک شخص کو یہ سکھلا رکھا کہ کل جمعہ کے دن مجمع عام میں کھڑے ہو کے کہدینا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے لئے دعا کی جائے اور بعد انکے ابراہیم کے حق میں جو بعد خلیفہ مامون وراثت تخت خلافت ہوگا اور دوسرے شخص کو یہ تعلیم کر دیا کہ تم یہ کہنا کہ ہم مامون کی خلافت سے راضی نہیں ہیں ہم اسکو معزول کر کے ابراہیم کی خلافت کی بیعت کرتے ہیں اور بعد اسکے اسحاق بن موسیٰ ہادی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۲۴۔

کر کے مبارک کے مبارک لقب سے موسوم کیا ابراہیم نے سریر خلافت پر قدم رکھتے ہی لشکریوں کو بطور انعام چہ چہ ماہ کی تنخواہوں کے دینے کا وعدہ کیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ کوفہ و سواد پر قبضہ حاصل کر کے آگے بڑھا مدین پہنچے لشکر کی آراستگی میں مصروف ہوا بغداد کی جانب غری پر عباس بن موسیٰ ہادی کو اور جانب شرقی پر اسحاق بن موسیٰ ہادی کو متعین کیا۔ اندلوں قصر ابن ہبیرہ میں حسن بن سہل کی طرف سے حمید بن عبد الحمید نامی ایک شخص رہتا تھا اسکے ہمراہ سپہ سالاروں میں سے سعید بن ساجور، ابوالبط، غسان بن ابی الفرج اور محمد بن ابراہیم بن غلبا فریقی وغیرہم تھے اتفاق یہ کہ ان لوگوں سے اور حمید سے کسی وجہ سے کشیدگی تھی ان لوگوں نے حمید کی عداوت کی نظر سے ابراہیم بن ہمدی سے سازش کر لی اور یہ اقرار کر لیا کہ ہم لوگ حمید کو قصر ابن ہبیرہ سے باہر قدم نہ رکھنے دینگے تم آگے کیمپ پر قبضہ کر لو بلکہ اسکو نظر احتیاطاً آئندہ مار ڈالیں گے۔ حسن بن سہل کو کسی ذریعہ سے اسکی خبر لگ گئی فوراً دربار خلافت میں حمید کو طلب کر لیا اور ان لوگوں کو قصر ابن ہبیرہ ہی میں رہنے دیا چنانچہ ابراہیم نے ان لوگوں کے لکھنے کے مطابق عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو بھیجے قصر ابن ابی ہبیرہ پر قبضہ کر لیا حمید کے لشکر گاہ میں جو کچھ پایا لوٹ لیا اور ابن حمید اپنے باپ کے حرموں کو لیکے اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد پھر حسن بن سہل نے کوفہ کی جانب توجہ کی عباس بن موسیٰ کاظم کو اس صوبہ کی سند گورنری مرحمت کیے یہ ہدایت کی کہ ہبیرہ پر کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ بعد خلیفہ مامون میرا بہائی علی بن موسیٰ کاظم سریر خلافت کا وارث ہو گا تم لوگ علم بعزوت بلند نہ کرو۔ مگر غالی شیعوں نے اس امر کو بھی منظور نہ کیا یہ کہہ کے کہ ”ہکو مامون سے کچھ سروکار نہیں ہے ہم تو تمہارے بہائی علی بن موسیٰ کاظم کے

ساتھی ہیں۔ گھڑ بٹھڑ ہے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس سے جنگ کرنے کو اپنے سپہ سالاروں میں سے سعید اور ابوالبط کو مامور کیا عباس نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن محمد بن جعفر معروف بہ دیباہ کو مقابلہ پر بھیجا لڑائی ہوئی علی بن محمد کو ہریت ہوئی سعید اور ابوالبط نے بڑھ کے خیرہ میں قیام کر دیا بعد ازاں اہل کوفہ پر حملہ کرنے کو نکلے اہل کوفہ اور ہواخواہان دولت عباسیہ بھی مستعد ہوئے میدان جنگ میں آئے متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر اہل کوفہ امن حاصل کر کے عباس کو مکان سے باہر لائے۔ لڑائی کا زور و شور فرو ہو گیا فتح مند گروہ جوش کامیابی میں فرحان و شادمان کوفہ میں داخل ہونے لگے عباس کے ہمراہیوں میں سے چند لوگوں کو یہ امر شاق گذرا پھر دوبارہ بھڑپڑے تلواریں نیام سے نکل آئیں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا سعید کے ہمراہیوں نے عباس کے ساتھیوں کو لڑ کر پسپا کر دیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کے مکانات میں آگ لگا دی جلکے خاک سیاہ ہو گیا۔ اس اثنار میں سعید تک خیرہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ عباس نے بد عہدی کی اور حاصل کئے ہوئے امان کی پروانہ کی سٹکے آگ بگولا ہو گیا جھٹ پٹ سوار ہوئے کوفہ آیا اور جس جس کو پایا قتل کرنا شروع کر دیا روضہ گہرائے ہوئے سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے معذرت کی اور قسمیں کھا کے یہ ظاہر کیا کہ یہ فعل بازاروں کا تھا عباس کو اس فتنہ و فساد سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے عہد و اقرار پر قائم ہے۔ سعید نے یہ سیکے لشکریوں کو قتل و غارت سے روک دیا اگلے دن سعید و ابوالبط نے بازار کوفہ میں امان کی عام منادی کرادی کسی شخص سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا اور اپنی طرف سے فضل بن محمد بن صباح کنڈی کو والی مقرر کیا بعد چندے اسکو معزول کر کے غسان بن ابی الفرج کو سند گورنری دی پھر جب اس نے ابوالسراہیہ کے بھائی کو مار ڈالا تو اسکو معزول کر کے ہول برادر زادہ سعید سپہ سالار کو متعین کیا بعد اسکے

حمید بن عبد الحمید لشکر آراستہ کر کے ان لوگوں سے لڑنے کو فہ کی طرف آیا۔ ہول پر حمید کا ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور ابراہیم بن ہمدی کے حکم سے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد حسن کے محاصرہ کرنے کو براہ نیل واسطہ کی جانب روانہ ہوا جس نے اندنوں شہر واسطہ میں ٹھہر کر قلعہ بندی کر لی تھی مگر عیسیٰ کی آمد سنکے باہر نکلکے لڑنے پر تیار ہو گیا چنانچہ اپنے ہمراہیوں میں سے چند جنگ آزمودہ و تجربہ کار سپہ سالاروں کو عیسیٰ سے جنگ کرنے کو روانہ کیا جنہوں نے کمال مردانگی سے عیسیٰ کو شکست فاش دیکے اس کے لشکر گاہ کو ٹوٹ لیا عیسیٰ اپنا سامنہ لیکے بغداد لوٹ آیا اور شہر واسطہ کی خجالت دور کرنے کے خیال سے سہل بن سلامہ متطوع سے بھڑ گیا اور اُسکے ہمراہیوں سے سازش کر کے اسپر فتنیابی حاصل کر لی۔ سہل بن سلامہ اپنے مکان کے ایک گوشہ میں چھپ رہا بعد چند شبوں کے گرفتار ہو کے اسحاق کے روبرو پیش کیا گیا باہم گفتگو ہونے لگی اسحاق نے کہا ”اچھا تم مجمع عام میں یہ کہہ دو کہ میں تم لوگوں کو راہ باطل کی طرف بلاتا ہوں تم کو رہا کر دوں گا“ سہل بن سلامہ نے اسکا کچھ جواب نہ دیا اسحاق یہ سمجھ کے کہ سہل نے میری بات منظور کر لی ہے مجمع عام میں لایا سہل نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ”ہائو! میں تم کو کتاب اللہ و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا تھا اور اسی امر کی اب بھی ہدایت کرتا ہوں“ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی اسحاق کے ہمراہی سہل بن سلامہ پر ٹوٹ پڑے خوب جی کھول کے مارا اور قید کر دیا اور دو چار روز کے بعد پابز بخر ابراہیم کی خدمت میں روانہ کیا ابراہیم نے بھی اسکو پٹوا کے جیل خانہ میں بھیج دیا اور پھر اس خیال سے کہ مبادا لوگوں میں اشتعال نہ پیدا ہو یہ ظاہر کر دیا کہ سہل بن سلامہ جیل میں مر گیا مگر درحقیقت اسکو رہا کر دیا اور وہ بخوف جان رو پوش ہو گیا تھا تا آنکہ ابراہیم کا دور دورہ تمام ہو گیا۔

سنہ ۲۰۳ میں حمید بن عبد الحمید نے بقصد جنگ ابراہیم بن ہمدی بغداد کا قصد کیا

عیسیٰ بن محمد بن ابی ابراہیم بن ہمدی کی جانب سے سپہ سالار جنگ تھا حمید نے اس سے سازش کر لی انعامات اور صلے دینے کا وعدہ کیا جسکی وجہ سے عیسیٰ نے حمید کی مدافعت نہ کی اور مقابلہ میں پہلو تھی کرتا تھا اور دھر ہارون بن محمد نے (یہ عیسیٰ کا بھائی تھا) ابراہیم بن ہمدی سے اسکی اطلاع کر دی ابراہیم کو اس خبر کے سننے سے سخت برہمی پیدا ہوئی ادھر عیسیٰ نے اپنی فوج میں یہ منادی کرادی کہ حمید سے اور ہم سے مصالحت ہو گئی ہے اسپر ابراہیم نے عیسیٰ کو طلب کر کے سخت وسست کلمات کہے عیسیٰ نے اس سے انکار کیا معذرت کی ابراہیم نے اسکی ایک بھی نہ سنی پٹو کے اسکو اور اسکے چند اور سپہ سالاروں کو قید کر دیا مگر اسکا نائب عباس نامی اس مصیبت سے بچکر ہٹا گیا۔ اس واقعہ سے لوگوں کے خیالات تبدیل ہو گئے ایک دوسرے سے ملنے جھلنے لگے اور عیسیٰ کی گرفتاری پر ناراضی ظاہر کرنے لگے بالآخر سبوں نے عباس کے پاس مجتمع ہو کے ابراہیم بن ہمدی کے معزول کرنے پر اتفاق کیا پھر کیا تھا ایک طوفان بے تمیزی اٹھ کھڑا ہوا ابراہیم کے گورنر کو جسرا اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کو لکھ بھیجا کہ دیکھتے ہی تحریر بذا تم چلے آؤ میں بغداد تمہارے حوالہ کر دوں گا حمید یہ خبر پانے کے صرصر میں آا اور عباس اور سپہ سالاران بغداد ملنے کو آئے اور اس شرط پر ابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا کہ ہر سپاہی کو پچاس پچاس درہم دئے جائیں ابراہیم کو اسکی خبر لگی تو اس نے عیسیٰ اور اسکے بھائیوں کو جیل سے نکلوانے کے حمید سے جنگ کرنے کا حکم دیا ان لوگوں نے انکار کر دیا جمعہ کے روز حمید بغداد میں داخل ہوا نماز ادا کی، خلیفہ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس سے فارغ ہو کے حسب اقرار انعام دینے میں مصروف ہوا حمید کے ہمراہیوں میں سے کوئی بولا "ان لوگوں کے انعام سے دس دس درہم وضع کر لینا چاہئے کیونکہ انھوں نے علی بن ہشام کے مقابلہ پر پہلو تھی کی تھی" لشکریوں کو اس سے برا فرود خستگی ہوئی حمید نے کہا "تم لوگ

نہ گبر او میں تم کو دس دس اور زیادہ دوں گا“ ابراہیم نے اس داد و دہش کو سُنکے عیسیٰ
 اور اسکے بھائیوں سے جنگ حمید کی پروردخواست کی اور درصورت نہ منظور کرنے کے
 قتل کی دیکھی وی عیسیٰ اور اسکے بھائیوں نے بخوف جان منظور و قبول کر لیا
 فوجین آراستہ کر کے میدان جنگ میں آئے توڑی دیر تک میدلی سے لڑتے رہے بعد ازاں
 اپنے آپ کو حمید کے آدمیوں کے حوالہ کر دیا لشکر شکست کھانے کے ابراہیم کے پاس
 واپس آیا اور حمید نے جا کے وسط شہر میں اپنا خیمہ نصب کر دیا ابراہیم کے اکثر ہمراہی
 بہاگ کے مدین پہنچے اور اُسپر قابض ہو گئے اور بقیہ ہمراہی حمید سے لڑتے رہے۔
 فضل بن ربیع ابراہیم کے ساتھ تھا بعد اس واقعہ کے حمید سے آ ملا اور مطلب بن
 عبداللہ بن مالک نے حمید کو لکھ بھیجا کہ اس سمت کو میرے حوالہ کر دو میں ابراہیم کو
 اس طرف سے نہ نکلنے دوں گا۔ سعید بن ساجور اور ابوالبطون غیر ہما اور سپہ سالاران
 لشکر نے بھی علی بن ہشام کو اسی مضمون کا خط تحریر کیا جب ابراہیم کو ان لوگوں کی
 اس سازش کا حال معلوم ہوا تب اونکی تالیف قلوب کرنے لگا یہاں تک کہ رات آگئی
 نصف ذی الحجہ ۲۰۳ھ کو اپنی تمناؤں کا خون کر کے ردپوش ہو گیا اس واقعہ کے
 بعد ہر چار طرف سے ناکہ بندی کر کے حمید و علی بن ہشام ابراہیم کے مکان پر آئے
 ایک ایک گوشہ کو ڈھونڈھا نہ پایا۔ یہ واقعہ ابراہیم کی بیعت کے دو برس بعد
 کا ہے علی بن ہشام نے بعد ادا کی شہر قی جانب اور حمید نے غزنی
 بغداد میں قیام کیا اور سہل بن سلامہ جیسا کہ اسکے پیشتر لوگوں کو ترغیب دیتا تھا
 دینے لگا حمید نے اوسکو اپنے تقرب کا اعزاز دیا اور جائزے و انعامات مرحمت فرمائے۔
 خلیفہ مامون | ہر گاہ آئے دن عراق میں حسن بن سہل کی وجہ سے فتنہ
 عراق میں | و فساد برپا ہونے لگا اور لوگوں کی نفرت یو بافیو ما اس سے
 اور بڑھنے لگی کہ یہ اور اسکا بھائی خلیفہ مامون کے مزاج میں بے حد خیل ہو گیا تھا

جس کام کو یہ دونوں چاہتے بلا اجازت خلیفہ کر گزرتے تھے اور جس امر کو چھپانا چاہتے تھے خلیفہ کے کانوں تک اوسکی آواز نہ پہنچتی تھی اراکین دولت سے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اشارہ و کنایہ اسکا تذکرہ لب تک لا سکتا۔ طرہ اسپر یہ ہوا کہ خلیفہ مامون نے علی رضا بن موسیٰ کاظم کو اپنا ولیعہد بنا یا اور اس پر یہ سے اقتدار خلافت کو بنو عباس سے آل علی میں منتقل کرنے کا قصد کیا اس سے عوام و خواص میں سخت برا فر و خستگی پیدا ہو گئی اور فضل بن سہل ان واقعات کو خلیفہ مامون سے ظاہر نہ کرتا تھا اور اس کے احتیاط میں حد درجہ کی احتیاط کرتا تھا اس خیال سے کہ مبادا خلیفہ مامون کے خیالات میرے اور میرے بہائی کی طرف سے متبدل و متغیر نہ ہو جائیں اور جب ہر شہ دربار خلافت میں حاضر ہونے اور ان واقعات کے عرض کرنی کو آیا تو فضل بن سہل نے اس سے مطلع ہو کے اور اس امر کا یقین کر کے کہ خلیفہ مامون اسکے کہنے کو سچ سمجھ لیکہ خلیفہ کے کان بھر دئے اور اس درجہ مشتعل کر دیا کہ خلیفہ نے ہر شہ کی ایک بھی سماعت نہ کی قتل ہی کر کے دم لیا ان وجوہات و اسباب سے ہوا خواہان دولت و اہل بغداد کی نفرت ترقی پذیر ہو گئی آئے دن فتنہ و فساد برپا ہونے لگا سپہ سالاران و سرداران لشکر اپنی اپنی فوجوں میں اس بابت سرگوشیاں کرنے لگے مگر بایں ہمہ فضل بن سہل کا وہ عیب و داب تھا کہ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان واقعات کو خلیفہ مامون کے کانوں تک پہنچا سکتا چند لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ آپ ان واقعات کو خلافت پناہی کے گوش گزار کر دیجئے۔ آپ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق دربار خلافت میں تشریف لیگئے اور ان فتنہ و فسادات سے جو آئے دن عراق میں ہو رہے تھے اور فضل بن سہل ان کو چھپا رہا تھا اور نیز اس سے کہ اہل بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کر لی ہے خلیفہ مامون کو آگاہ کیا خلیفہ مامون بولا اسکی خلافت کی بیعت نہیں کی گئی بلکہ اہل بغداد نے اسکو اپنا امیر بنا لیا ہے جو انکے امور

دینی دنیاوی کو انجام دیتا رہیگا، آپ نے جواب دیا ”آپ سے جس نے یہ بیان کیا، غلط اور سراسر کذب ہے اسوقت تک ابراہیم اور فضل ابن سہل میں جنگ ہو رہی ہے اور خواص و عوام آپ سے اسوجہ سے کشیدہ و متنفر ہو رہے ہیں کہ فضل و حسن اور میں آپ کے ہر کام میں پیش پیش ہو رہا ہوں اور آپ نے میری ولیعهدی کی ہجرت بھی لیلیٰ خلیفہ مامون نے کہا ”آپ کے علاوہ ان امور سے اور کوئی شخص بھی آگاہ ہے؟“ جو ابیریا ”یحییٰ بن معاویہ، عبدالعزیز بن عمران اور علاوہ ان کے اور سرداران لشکر“ خلیفہ مامون نے اسوقت ان لوگوں کو طلب کر کے ان واقعات کو دریافت کیا ان لوگوں نے فضل بن سہل کے خوف سے لاعلمی ظاہر کی مگر جب خلیفہ مامون نے اصرار کے ساتھ دریافت کیا اور ان لوگوں کی جان اور مال کی امن دی اور حفاظت کی ذمہ داری کی تب انہوں نے وہی واقعات اور حالات بیان کئے جیسا کہ علی رضانے کہے تھے اور یہ بھی گوش گزار کیا کہ ”اہل عراق آپ کو بوجہ ولیعهدی علی رضانے سے متہم کرتے ہیں اور فضل بن سہل نے طاہر بن حسین جیسے کار گزار شخص کو جسکی جاں نثاری اور ہوا خواہی سے امیر المومنین بھی واقف ہیں رقبہ میں بھیج دیا ہے جہاں پر اسکے قوائے حکمرانی کمزور اور ضعیف ہو گئے ہیں ممالک محروسہ میں ہر چار طرف بغاوت و فساد کی آگ مشتعل ہو رہی ہے اگر اسکا تدارک نہ کیا جائیگا تو تھوڑے ہی دنوں بعد یہ مرض لاعلاج ہو جائیگا اور دراز حال زمام خلافت ہاتھ سے نکل جائیگی“ خلیفہ مامون کو ان اراکین سلطنت کے کہنے سے یقین ہو گیا فوراً خراسان پر غسان بن عباد کو جو فضل بن سہل کا چچا زاد بھائی تھا اپنا نائب مقرر کر کے کوچ کر دیا۔ فضل بن سہل کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے ان اراکین سلطنت کو جنہوں نے یہ واقعات خلیفہ مامون کے گوش گزار کئے تھے ستانا شروع کیا مگر لاجہل تھا۔

جوں ہی خلیفہ مامون مقام سرخس میں وارد ہوا چار شخصوں نے حمام میں فضل

سہل پر حملہ کر کے مار ڈالا اور بھاگ گئے۔ خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو شخص قاتلین
 فضل بن سہل گرفتار کر لائیگا اوسکو دس ہزار دینار، انعام دیا جائیگا چنانچہ عباس
 بن ہشتم دینوری نے قاتلین کو گرفتار کر کے حاضر کیا قاتلین نے بیان کیا کہ آپ ہی
 نے تو ہم کو اُسکے قتل پر مامور فرمایا تھا، بعضے کہتے ہیں کہ ملزموں کے بیانات مختلف
 ہو گئے تھے بعضوں نے تو یہ بیان کیا کہ ہمکو فضل بن سہل کے برادر زادہ نے اُسکے
 قتل پر مقرر کیا تھا اور کسی نے کہا کہ ”عبدالعزیز بن عمران سپہ سالار اور علی و موسے
 وغیرہم نے“، خلیفہ مامون نے ان لوگوں کو طلب کر کے دریافت کیا ان لوگوں نے
 لاعلمی بیان کی خلیفہ مامون ان کے انکار پر ملتفت نہ ہوا سمجھوں کے قتل کا حکم دیدیا
 اور ان کے سروں کو حسن بن سہل کے پاس بھیجے عراق کی جانب روانہ ہو گیا اس کے
 بعد ہی خلیفہ مامون تک یہ خبر پہنچی کہ حسن بن سہل کو مایخو لیا ہو گیا ہے اور اُسکا دامع
 بیکار ہو گیا ہے۔ خلیفہ مامون نے اپنے خادم دینار کو حسن بن سہل کے پاس بھیجا اور
 کل لشکر کا انتظام اُسکے سپرد کر دیا۔ اسوقت ابراہیم بن مہدی اور عیسیٰ مداین میں تھا بلوالبطن
 اور سعید نیل میں۔ اور لڑائی مابین ان لوگوں کے برابر ہو رہی تھی اور مطلب بن عبداللہ
 بن مالک حیلہ کر کے مدائن سے بغداد واپس آیا تھا اور درپردہ لوگوں کو سمجھا بوجھا رہا تھا
 کہ تم لوگ مامون کی خلافت تسلیم کر لو ابراہیم بن مہدی کو معزول کر دو، خلیفہ مامون
 کے بعد تخت خلافت کا منصور بن مہدی وارث ہوگا۔ اس کہنے سننے سے خزیمہ بن
 فازم وغیرہ سپہ سالاران لشکر نے مطلب بن عبداللہ سے سازش کر لی تب مطلب
 نے علی بن ہشام اور حمید کو بغداد کی جانب بڑھنے کو لکھ بھیجا۔ حمید نے آگے بڑھ کے
 ترصر صر پڑاؤ کر دیا اور علی نے نہروان پر۔ ابراہیم بن مہدی نے یہ خبر پا کے نصرت
 صفر ۲۰۲ھ میں مدائن سے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ زند رود میں پہنچے منصور
 خزیمہ اور مطلب کو بلا بھیجا۔ ان لوگوں نے حیلہ و حوالہ کر کے مالد یا ابراہیم نے

ان لوگوں کے گرفتاری پر عیسیٰ کو مامور کیا منصور و خزیمہ تو گرفتار کر لئے گئے اور مطلب کے خادموں نے مطلب کو گرفتار نہ کرنے دیا۔ ابراہیم نے جملہ کے مطلب کے مکان لوٹ لینے کا حکم دینا مگر پھر بھی مطلب ہاتھ نہ آیا حمید و علی بن ہشام مدائن کو اس کے مددگاروں سے خالی پا کے مدائن جا پونچے قبضہ کر لیا اور وہیں قیام پذیر ہو گئے۔

اسی سنیہ کے دور اور اسی سفر کے دوران اور اثنار راہ میں خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی کا عقد علی رضی سے کر دیا تھا اور آپ کے بہائی ابراہیم بن موسیٰ کاظم کو امیر الحجاج مقرر کر کے حج کرنے کو بھیجا تھا اور یمن کی سند گورنری مرحمت فرمائی تھی ان دنوں یمن کی گورنری پر حمد وید بن علی بن عیسیٰ بن مابان تھا۔

جس وقت خلیفہ طوس میں پہنچا و لیعد خلافت علی رضا کا اخیر صفر ۲۰۳ھ میں انگوروں کے کہا لینے سے انتقال ہو گیا خلیفہ مامون نے حسن بن سہل کو اس قیامت خیز سانحہ سے مطلع کیا اور نیراہل بغداد اور اپنے گروہ والوں سے علی رضا کی ولیعهدی کی معذرت کی اور یہ بھی تحریر کیا کہ اپنے وفات پائی اب تم لوگ بدستور سابق ہمارے دائرہ اطاعت میں آ جاؤ۔

بعد اسکے خلیفہ مامون طوس سے روانہ ہو کے جرجان پہنچا تقریباً ایک ماہ مقیم رہا۔ زمانہ قیام میں رجاء بن ابی الصنحاک کو جرجان اور ماوراء النہر کی سپہ سالاری عطا کی پھر ۲۰۳ھ میں معزول کر دیا اور غسان بن عیاد کو بوجہ قرابت فضل بن سہل کے خراسان

۱۰۔ یہ واقعہ سترہویں صفر ۲۰۳ھ کا ہے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۴۳۔

۱۱۔ خلیفہ مامون نے اپنی ایک لڑکی ام حبیب کا عقد علی رضا سے اور دوسری بیٹی ام الفضل کا محمد بن علی رضا سے کیا تھا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۴۴۔

۱۲۔ بعضے کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون نے علی رضا کو انگوروں میں زہر ملا کے کھلا دیا تھا جس سے انکی موت واقعہ میں آئی اور یہ روایت میرے نزدیک دو راویوں و خلاف قیاس ہے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۴۴۔

جرجان، طبرستان، سجستان، کرمان، رومان، اور دھاریہ کی گورنری مرحمت فرمائے پھر بعد چندے معزول کر کے طاہر کو مقرر کیا جیسا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ الغرض جرجان سے روانہ ہونے کے نروان میں وارد ہوا اس کے اعزہ اقارب، ہوا خواہان دولت، سپہ سالاران لشکر اور رؤساء و عمائدین ملنے کو آئے چونکہ طاہر کو اس کے پیشتر نروان میں ملنے کو لکھ بھجایا تھا لہذا وہ بھی رقبہ سے نروان چلا آیا تھا آٹھ روز قیام کر کے بعد بغداد کی طرف کوچ کیا پندرہویں صفر ۲۰۲ھ میں بغداد پہنچے رصافہ میں قیام کیا پھر رصافہ سے نکل کے اپنے شاہی محل میں جو کنارہ دجلہ پر تھا اور ترا اور سپہ سالاران لشکر لشکر گاہ میں ٹھہرے رہے فتنہ و فساد فرود ہو گیا بغاوت کی شتعل آگ اسکے آتے ہی سرد ہو گئی مگر ہوا خواہان دولت عباسیہ لباس سبز کے پہننے کے بابت براہ معترض رہے تا آنکہ خلیفہ مامون نے ایک موقع خاص پر طاہر سے خوش ہو کے فرمایا "طاہر تیری جو تمنا ہو اسکو ظاہر کر میں اسکو ضرور پوری کروں گا" طاہر نے عرض کیا "دربار خلافت میں سیاہ کپڑوں کے پہننے کے انیکا حکم دیکھئے" خلیفہ مامون نے یہ درخواست منظور کر لی اور ایک دربار عام میں اسکو اور کل سپہ سالاران لشکر اور اعیان سلطنت کو سیاہ رنگ کی خلعتیں مرحمت فرمائیں۔ اس سے اہل بغداد اور کل اراکین دولت کو بید مسرت ہوئی اور بدستور قدیم سبوں نے اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لی۔

فتنہ رموصل | ان واقعات سے پیشتر ۲۰۲ھ میں مابین بنو اسامہ اور بنو ثعلبہ کے مقام موصل میں چلکی بنو ثعلبہ نے محمد بن حسن ہمدانی برادر علی بن حسن ہمدانی والی شہر کے دامانِ عاطفت میں جا کے پناہ لی علی بن حسن ہمدانی نے اپنے بہائی کے پناہ دینے کے لحاظ سے بنو ثعلبہ کو شہر سے نکلنے لشکر آرائی کا حکم دیا بنو اسامہ نے یہ خبر پا کے ایک ہزار پیادوں کی جمعیت سے بنو ثعلبہ کا تعاقب کیا اور مقام عوجار

۱۰۹ھ واقعہ تیسویں صفر ۲۰۲ھ کا ہے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۲۷۔

میں پونچکے بنو ثعلبہ پر محاصرہ ڈال دیا علی و محمد پسران حسن ہمدانی کو یہ خیر لگی تو انہوں نے بنو ثعلبہ کی لگاتار ایک فوج بھیجی لڑائی ہوئی ایک گروہ کثیر بنو اسامہ کا اور کچھ آدمی بنو ثعلبہ کے اس واقعہ میں کام آگئے اور بعض بنو اسامہ گرفتار کر لئے گئے اس واقعہ کے بعد احمد بن عمر بن خطاب ثعلبی علی بن حسن ہمدانی کے پاس گیا اور آئندہ جنگ و خونریزی نہ ہونے کی ذمہ داری کی علی نے فوج شاہی کو واپس بلا لیا فتنہ و فساد فرو ہو گیا۔

پھر ۲۰۲ھ میں علی بن حسن ہمدانی نے ازد پر جو اس وقت موصل میں تھے ظلم و ستم کرنا شروع کیا اسوجہ سے کہ انہوں نے حسن بن علی کے اس راز کو افشا کر دیا تھا کہ اسے اپنی قوم کو عثمان پر جا کر متصرف ہو جانے کی ہدایت کی تھی۔ ازد اس کے ظلم و تعدی سے پریشان ہو کے اپنے سردار قوم سید بن انس کے پاس گئے اور اسکے نابرداشتنی ظلم کی شکایت کی سید بن انس نے انکو تسلی و تشفی دیکے مسلح ہو نیرکا حکم دیا اور نہایت مردانگی سے علی بن حسن سے چابڑا علی بن حسن نے شکست کھا کے مہدی بن علوان خارجی کے پاس جا کے پناہ لی اور اسکی بیعت کر کے اسکو شہر میں لایا اور اسکے ساتھ نماز ادا کی پھر اسکی پشت گرمی و امداد سے لڑنے کو کھلا ازد سینہ سپر ہو کے مقابلہ پر آئے کمال شدت و تیزی سے لڑائی جاری رہی بالآخر ازد نے علی بن حسن اور اسکے کل ہمراہیوں کو شہر سے نکال باہر کیا اور انکا تعاقب کرتے ہوئے شہر کے باہر آئے اسی واقعہ میں علی اور اسکا بہائی احمد اور ایک گروہ اسکے خاندان کا مارا گیا محمد بن حسن ہناگ کر بغداد پہنچا۔ ازد اور سید بن انس نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور جب خلیفہ مامون وارد بغداد ہوا تو سید بن انس ایک وفد کیساتھ دربار خلافت میں حاضر ہوا محمد بن حسن بن صلح ہمدانی نے اسکی اور اس کے قوم ازد کی شکایت کی اور اپنے بہائیوں اور اہل بیت کے مارے جانیکا استغاثہ پیش کیا

خلیفہ مامون نے جواب لینے کی غرض سے سید بن انس کی طرف رخ کیا اس نے دست بستہ عرض کیا ”ہاں اے امیر المومنین میں نے اور میری قوم نے ایسا ہی کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے مالک محروسہ میں خارجی کو بلا لیا تھا اور آپ کے ممبر پر اسکو کھڑا کیا تھا اور آپ کی خلافت کی توہین کی تھی“ خلیفہ مامون نے یہ سننے کے انکی خطائیں معاف کر دیں اور اسکو موصل کی سند گورنری مرحمت فرمائی۔

طاہر کی گورنری | خلیفہ مامون نے عراق میں پہنچنے کے بعد طاہر بن حسین کو اور وفات | جزیرہ، شرقی و غربی بغداد اور سواد کی حکومت عطا کی بعد چنگ

ایک روز طاہر بن حسین خلیفہ مامون کی خدمت حاضر ہوا خلیفہ نے بیٹھنے کی اجازت دی اور روپڑا طاہر نے دست بستہ گزارش کی ”اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رکھے آپ کے رونے کا سبب مجھے نہ معلوم ہوا“ خلیفہ مامون نے جواب دیا ”میں ایک ایسی وجہ سے روتا ہوں جسکا ذکر کرنا ذلت ہے اور چپانا باعث حزن و کلفت ہے اور اصل تو یہ ہے کہ کوئی شخص حزن و کلفت سے خالی نہیں ہے“ طاہر کو جو کچھ عرض و معروض کرنا تھا عرض و معروض کر کے واپس آیا اس وقت حسین خادم بھی حاضر تھا طاہر نے اپنے مکان پہنچنے کے سکرٹری محمد بن ہارون کو بلا یا خلافت مآب کے یہاں جانے اور رونے کا حال بتلایا اور یہ کہا کہ اگر خلیفہ کے رونے کا سبب دریافت کر دو تو میں اس معاوضہ میں تنگو ایک لاکھ درہم اور اسی قدر حسین خادم کو نذر کرونگا۔ اگلے دن خلوت خاص میں حسین خادم نے دست بستہ کھڑے ہو کے عرض کیا ”امیر المومنین آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کل بوقت حاضری طاہر دشمنان خلافت کی آنکھیں کیوں پُراب ہو گئی تھیں؟“ خلیفہ مامون نے کہا ”تجھے آج یہ خیال کیونکر پیدا ہوا؟“ عرض کیا ”شب بھر اسی فکر و اندیشہ سے مجھے نیند نہیں آئی“ ارشاد کیا

اس وقت میرے دل میں کچھ ایسے ہی خیال آگئے تھے جس سے میرے آنسو ٹپک پڑنے
 دیکھ کر خیردار اگر سہواً بھی تیرے زبان پر وہ آگئے تو تیری خیر نہ ہوگی "حسین خادم نے
 دست بوسی کر کے عرض کیا "کیا مجال! بسلا میں نے کبھی حضور کے راز کو افشا کیا ہے"
 خلیفہ مامون نے کہا مجھے اس وقت اپنے بہائی محمد امین کا خیال آگیا تھا کہ کل اسکی
 اسی طاہر نے کیا کیا تذلیل و تحقیر کی تھی اور یہی طاہر آج میرے روبرو کوئی ایسے
 فعل کا ارتکاب نہیں کیا چاہتا جو شان خلافت کے خلاف ہو اس سے مجھے
 عبرت ہوئی اور میں رو پڑا "حسین نے طاہر سے اس واقعہ کو بیان کیا طاہر نے احمد
 بن ابی خالد سے کہا کہ "اب میری خیر نہیں ہے جس قدر جلد ممکن ہو مجھے خلیفہ کے
 آنکھوں سے دور پہنکائے" احمد بن ابی خالد اسی وقت خلیفہ مامون کی خدمت میں
 حاضر ہوا خلیفہ مامون نے اسے گھبرایا ہوا دیکھ کے بے وقت حاضر ہونے کا سبب
 دریافت کیا عرض کیا "تمام رات میری اسی تشویش میں گذر گئی کہ خراسان کا تختہ
 تباہ ہوا چاہتا ہے کیونکہ امیر المومنین نے غسان بن عباد کو والی مقرر کیا ہے اور وہ
 اس قابلیت کا نہیں ہے ایسا نہ کہ اتراک علم بغاوت پر بلند کریں اور ولایت
 خراسان معرض زوال میں پڑ جائے" خلیفہ مامون نے کہا "تمہاری یہ تشویش
 بجا ہے اچھا بتلاؤ خراسان کے والی ہونے کی قابلیت کس میں ہے؟" عرض کیا
 "طاہر بن حسین میں" ارشاد ہوا "اسپر ہر وہ نہیں ہو سکتا یہ بہت جلد بغاوت پر کمر بستہ
 ہو جاتا ہے" عرض کیا "میں اسکا ضامن ہوں وہ ہرگز سرتابی نہ کرے گا" خلیفہ مامون
 نے طاہر کو طلب کر کے مدینۃ السلام (بغداد) سے اقصائے مالک مشرقیہ تک حلوان
 سے خراسان تک کی سند گورنری مرحمت فرمائی طاہر اسی روز بغداد سے نکل کے ایک
 میدان میں لشکر اور سامان سفر مرتب کرنے میں مصروف ہوا تقریباً ایک ماہ ٹھہرا رہا
 اور آخر ذی قعدہ ۲۰۵ھ میں بغداد سے خراسان کی جانب روانہ ہوا وانگی کی وقت

خلیفہ مامون نے دس لاکھ درہم جو والی خراسان کی تنخواہ تھی مرحمت فرمائی اور بجائے اسکے جریرہ میں اسکے لڑکے عبداللہ کو متعین فرمایا جو سررشتہ پولیس میں اپنے باپ کا نائب تھا مگر طاہر نے اسکو اپنے چچا زاد بھائی اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کے پاس نصر بن شہب سے جنگ کرنے کو رقعہ بھیج دیا تھا۔

بعضوں نے طاہر کے گورنر خراسان ہونے کا سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عبدالرحمن متطوعی نے نیشاپور میں ایک عظیم الشان فوج حروریوں سے جنگ کرنے کے لئے بغیر اجازت والی خراسان عثمان بن عباد جمع کیا تھا لیکن اس خیال سے کہ یہ کام مبادا خلیفہ مامون کی خلاف مرضی نہ ہوڑک رہا اور حسن بن سہل سے انکو ایک خطومت سی پیدا ہو گئی خلیفہ مامون نے اہل خراسان کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کے طاہر کو سند گورنری مرحمت فرمائی چنانچہ طاہر خراسان گیا اور ۲۷ھ تک ٹھہرا رہا بعد ازاں خلافت سینہ کی مخالفت کی ہوا دماغ میں سمائی ایک روز خطبہ دینے کو کھڑا ہوا تو خلیفہ کے لئے دعا کی صلاح امت کی دعا کر کے میرے اتر آیا۔ پرچہ نویس نے خلیفہ مامون کو اس واقعہ سے مطلع کیا خلیفہ مامون نے احمد بن ابی خالد کو طلب کیے فرمایا ”چونکہ تم ہی اسکے ضامن ہوئے تھے اب جاؤ اور اسکو میرے پاس لاؤ“ ہنوز احمد بن ابی خالد کی روانگی کی نوبت نہ آئی تھی کہ اسکے اگلے دن طاہر کی موت کی خبر آگئی خلیفہ مامون نے یہ خبر سنے ارشاد کیا ”الحمد لله الذی قدمہ واخرنا“ اور بجائے اسکے اسکے بیٹے طلحہ کو مامور فرمایا اور احمد بن ابی خالد کو اسکے پاس اسکے کاموں کے انتظام و انصرام کے غرض سے روانہ کیا چنانچہ احمد بن ابی خالد نے ماوراء النہر کی جانب عبور کیا۔ اتر و سنہ کو فتح کر کے کاؤس ابن خالد اور اسکے بیٹے فضل کو قید کر لیا اور دونوں کو مقید کر کے دربار خلافت میں بھیج دیا۔ طلحہ نے تیس لاکھ درہم نقد اور تقریباً ایک لاکھ کے اسباب احمد بن ابی خالد کے تدرکے اور اسکے سکرٹری کو پانچ لاکھ درہم دئے بعد اسکے حسین

بن حسین بن مصعب نے کرمان میں علم بغاوت بلند کیا احمد بن ابی خالد اسکی سرکوبی کو گیا اور اسکو گرفتار کر کے خلیفہ مامون کی خدمت میں پیش کیا خلیفہ مامون نے عفو تقصیر کردی۔

عبداللہ بن طاہر
کی گورنری اور جنگ
نصر بن شہب

۲۲۵ھ میں دار الخلافت بغداد میں یہ خبر پہنچی کہ یحییٰ ابن معاذ
عالم جزیرہ نے وفات پائی ہے اور اپنے بیٹے احمد کو اپنا جانشین
کیا ہے خلیفہ مامون کو یہ تقرری پسند نہ آئی جزیرہ کی گورنری پر

عبداللہ بن طاہر کو مامور فرمایا اور مابین رقعہ و مصر کے قیام کر کے نصر بن شہب سے جنگ
کرنیکا حکم دیا اور بعد روانگی عبداللہ بن طاہر بغداد میں سرشتہ پولیس پر اسحاق بن ابراہیم
بن حسین بن مصعب (عبداللہ بن طاہر کے چچا زاد بھائی) کو مقرر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ

خلیفہ مامون نے عبداللہ بن طاہر کو ۲۲۵ھ میں مامور کیا تھا اور بروایت بعض ۲۲۵ھ میں
بہر کیف طاہر کو یہ خبر لگی تو ایک خط اپنے بیٹے عبداللہ کے نام لکھا جس میں محاسن آداب،

سیاست، مکارم اخلاق اور آئین ملکداری تحریر کئے تھے جسکو ہم نے مقدمہ کتاب میں ذکر
کیا ہے۔ الغرض عبداللہ بن طاہر نے مابین رقعہ و مصر پہنچ کے نصر بن شہب پر محاصرہ ڈالنے

کے غرض سے ہر چار طرف اپنی فوج کو پھیلا دیا اور ۲۲۹ھ میں مقام کیسوم میں خود جا کے
اسکو گھیر لیا خلیفہ مامون کو اسکی اطلاع ہوئی تو اس نے محمد بن جعفر عامری کو نصر بن شہب

کے پاس بشرط اطاعت امن دینے کا پیام لیکے بھیجا نصر نے اس شرط سے منظور کیا کہ میں
حاضر دربار نہ ہونگا خلیفہ مامون اس شرط کو سن کے تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر ہر سکوت

توڑ کے بولا "اللہ اکبر نصر کی یہ شان ہے کہ وہ میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہے" محمد
بن جعفر نے دست بوسی کر کے عرض کیا "سو مجھ سے وہ حاضری سے قاصر ہوتا ہے کہ اسنے

بہت بڑی تقصیر کی ہے" خلیفہ مامون نے جواب دیا کیا تو اسکی خطا کو فضل بن ربیع کی خطاؤں
سے زیادہ سمجھتا ہے اسے اس نے تو میرے ان مال و اسباب اور آلات حرب کو ضبط
کر لیا تھا جسکی خلیفہ رشید نے میرے حق میں وصیت کی تھی اور سپہ سالاران لشکر کو

اُہار کے میرے بہائی سے جا ملا تھا اور مجھے تن تنہا مرو میں چھوڑ کے دشمنوں کے حوالہ کر کے چلا گیا تھا اور خوب خوب فتنہ و فساد برپا کئے تھے تم نے بھی ان حالات اور واقعات کو دیکھے اور سنے ہیں جو اسے میرے ساتھ کئے اور کیا عیسیٰ بن ابی خالد سے اُسکی لغزش بڑھی ہوئی ہے اس ناحق شناسی نے میرے ہی شہر میں آتش بغاوت مشتعل کی تھی اور میرے دار الحکومت کو زیر و زبر کر دیا تھا طرہ اسپر یہ ہوا کہ میری بیعت توڑ کے ابراہیم کی خلافت تسلیم کر لی تھی محمد بن جعفر نے عرض کیا "امیر المؤمنین دولت علیہ پر ان لوگوں کے حقوق سابقہ تھے جسکی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہوا اور نصر کا کوئی حق اس دولت علیہ پر نہیں ہے یہ تو بنو امیہ کے لشکر کا آدمی ہے، خلیفہ مامون نے کہا "جو کچھ ہو میں نصر کی اس شرط کو منظور نہ کروں گا" نصر تک اس مباحثہ کی خبر پہنچی تو اس نے بھی اپنی پیش کردہ شرط پر اصرار کیا عبداللہ بن طاہر نے حصار میں سختی شروع کر دی مجبور ہو کے امن کی درخواست پیش کی عبداللہ بن طاہر نے منظور کر لیا چنانچہ ۲۱ھ میں نصر نے قلعہ کے دروازے کھول دیے اور عبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا عبداللہ بن طاہر نے اسکو دربار خلافت میں بیجدیا اور قلعہ کیسوم پر قبضہ حاصل کر کے پانچ برس کے محاصرہ و جنگ کے بعد اسکو ویران و مسمار کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن طاہر رقی جانب واپس آیا اور ۲۱ھ میں بغداد پہنچا عباس بن مامون، معتمد اور اراکین دولت سے ملاقات کی۔

ابراہیم بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بہ ابن عایشہ اور ابراہیم بن محمد بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بہ ابن عایشہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بڑی شد و مد سے

ابراہیم بن محمد بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بہ ابن عایشہ اور ابراہیم بن محمد بن محمد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بہ ابن عایشہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بڑی شد و مد سے

وغیرہ معہ اپنے چند ہمراہیوں کے جس دن نصر بغداد میں داخل ہوگا بلوہ کر نیو اسے ہیں پولیس بغداد نے ان لوگوں کو صفر سنہ ۱۲۷۰ء میں گرفتار کر لیا اور زرد کو بکر کے ان لوگوں سے ان کے ہمراہیوں کو دریافت کر لیا مگر خلیفہ مامون نے اور لوگوں سے تعرض نہ کیا اور ان لوگوں کو جیل بھیجا جیل میں ان لوگوں پر نہایت سختی کا برتاؤ کیا گیا ان لوگوں نے جیل میں نقب زنی کر کے بہاگ جانے کا مشورہ کیا خلیفہ مامون تک یہ خیر ہو چکی خود سوار ہو کے جیل میں گیا اور ان لوگوں کو قتل کر کے ابن عایشہ کو صلیب دیدی بعد ازاں صلیب سے اوتروا کے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔

اسی سنہ میں ابراہیم بن مہدی بھی گرفتار کیا گیا یہ عورت کا لباس پہنے ہوئے عورتوں میں ملا جلا ہوا جا رہا تھا کسی پولیس افسر کی نظر پڑ گئی چال ڈھال سے تار گیا لپک کے دریافت کیا "ایسے وقت میں کہاں جا رہی ہو؟" ابراہیم بیہوش کے سم گیا فوراً انگوٹھی یا قوت کی ہاتھ سے اوتار کے پیش کر دی افسر پولیس کا اس سے شبہ قوی ہو گیا گرفتار کر کے کو تو ال شہر کے پاس لایا کو تو ال شہر نے پابز بخیر دربار خلافت میں بھیجا خلیفہ مامون نے بنو ہاشم اور اراکین سلطنت کو دکھلانے کی غرض سے ابراہیم کو اسی صورت و حالت سے دربار میں پیش کئے جانیکا حکم یا بعد ازاں زیر نگرا نی احمد بن ابی خالد قید کر دیا بعد چندے جو وقت حسن بن سہل بغرض مصالحت روانہ ہوا اس وقت خلیفہ مامون نے حسن کی سفارش سے اسکو بھی رہا کر دیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اسکی بیٹی بوران نے سفارش رہائی کی کی تھی اور بعضے کہتے ہیں کہ ابراہیم جو وقت گرفتار کیا گیا ابواسحاق معصم کے مکان پر لایا گیا اتفاق سے معصم اس وقت دربار خلافت میں خلیفہ مامون کی خدمت میں تھا یہ خبر معلوم ہوئی تو بلا بھیجا اور جو جو خطائیں اس سے سرزد ہوئی تھیں ایک ایک اسکو یاد دلائیں۔ ابراہیم نے اپنے کلام منظوم و منثور سے معذرت کی جو فصیح و بلیغ تھا اور وہ کتب تواریخ میں مذکور ہے

ہم اُس کو نقل کر کے طول کلام نہیں کیا جاتے۔

بغاوت مصر | سری بن محمد بن حکم صوبہ مصر کا والی تھا سنہ ۳۰۰ھ میں جب یہ حرکت
وا سکندریہ | تو اسکالر کا عبید اللہ جانشین ہوا بعد چند سے اس نے علم بغاوت

بلند کر دیا اور خلافت ماب کی اطاعت سے منحرف ہو گیا انھیں دونوں اُنڈلس سے
ایک گروہ اسکندریہ میں آا اور ترا جکو خلیفہ حکم بن ہشام نے اطراف قرطبہ سے ممالک
مشرقیہ کی جانب جلا وطن کر دیا تھا جب یہ گروہ وارد اسکندریہ ہوا تو اس نے دفعۃً
بحالت غفلت والی اسکندریہ پر حملہ کر کے نکال دیا اور خود اسکندریہ پر قابض ہو سکے
ابو حفص عمر بلوخی کو اپنا امیر بنا لیا یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن طاہر جنگ نصر بن شیبہ
میں مصروف تھا اس مہم سے فارغ ہو کے مصر کی طرف بڑھا اور قریب مصر پہنچنے اپنے
ایک سپہ سالار کو بٹھانے کا حکم دیا عبداللہ بن سری نے مصر سے نکلنے کا مقابلہ کیا ہنوز
لڑائی کا کوئی آخری فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن طاہر نہایت تیزی سے مسافت
کر کے آپہنچا اور عبداللہ بن سری کے لشکر پر دوسرے جانب سے حملہ کر دیا عبداللہ بن
سری کو شکست ہوئی مصر میں جا کے پناہ گزین ہوا عبداللہ بن طاہر نے اس پر محاصرہ
ڈال دیا بالآخر عبداللہ بن سری نے طول و شدت حصار سے تنگ آ کے امان طلب کی
قرطبہ میں مصالحت ہو گئی یہ واقعہ سنہ ۳۰۰ھ کا ہے۔ بعد اسکے عبداللہ بن طاہر نے اُس
گروہ کی سرکوبی کی طرف رخ کیا جنھوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے
اسکی آمد کی خبر پانے کے امان کی درخواست پیش کی عبداللہ بن طاہر نے اس شرط سے
منظور کیا کہ اسکندریہ چورس کے بکر و م کے کسی جزیرہ میں جو اسکندریہ سے متصل ہو
پہلے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط کے مطابق اسکندریہ خالی کر دیا اور جزیرہ
اقریطیش پر جا کے قبضہ کر لیا اور وہیں مکانات بنائے اسی زمانہ سے یہ جزیرہ مسلمانوں
کے قبضہ میں آ گیا اور اسی گروہ کے اعقاب اسپر متصرف و قابض رہے تا آنکہ فریج

فرانس) نے اسکو ان کے قبضہ سے نکال لیا۔

عَمَّال اجنوت سنہ ۲۰۴ھ میں خلیفہ مامون وارد بغداد ہوا اور فتنہ و بغاوت کی مشتعل آگ خاموش ہو گئی اسوقت خلیفہ مامون نے انتظاماً عمال کا رد و بدل شروع کیا کوفہ پر اپنے بہائی ابو عیسیٰ کو، بصرہ پر اپنے دوسرے بہائی صالح کو، حرین پر عبداللہ بن حسین بن عبداللہ بن عباس بن علی بن ابیطالب کو، موصل پر سید بن انس ازدی کو، اور بغداد کے سررشتہ پولیس پر طاہر بن حسین کو مامور فرمایا یہ اندوں رقبہ میں تھا حسن بن سہل نے اسکو یہاں کا والی مقرر کیا تھا مگر خلیفہ مامون نے اسکو رقبہ سے طلب کر کے بغداد کے سررشتہ پولیس کی افسری مرحمت فرمائی تھی چنانچہ طاہر بن حسین رقبہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنا کے بغداد چلا آیا پھر بعد چندے خلیفہ مامون نے اسکو خراسان اور کل صوبجات مشرقیہ کی گورنری عنایت کی اور اسکے بیٹے عبداللہ کو طلب کر کے بجائے اسکے بغداد کے سررشتہ پولیس پر متعین کیا اور یحییٰ بن معاذ کو جزیرہ کی حکومت دی عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو ارمینیا، آذربایجان، کی گورنری اور جنگ بابک کا انتظام سپرد کیا اس اثناء میں سری بن محمد بن حکم والی مصر نے وفات پائی بجائے اسکے اسکے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا اور داؤد بن یزید گورنر سندھ کا بھی انتقال ہو گیا بجائے اسکے بشر بن داؤد مقرر کیا گیا اس شرط پر کہ دس ہزار درہم سالانہ دار الخلافت میں بھیجا کرے بعد اسکے یحییٰ بن معاذ سنہ ۲۰۴ھ میں اپنے بیٹے احمد کو اپنا جانشین بنا کے مقرر کیا خلیفہ مامون نے اسکو معزول کر کے عبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کی سند گورنری مرحمت فرمائی ساتھ ہی اسکے مصر کو بھی اسی کی گورنری سے ملحق کر کے جنگ نصر بن شیبہ پر جانیکا حکم دیدیا۔ عیسیٰ بن یزید جلود دی کو سنہ ۲۰۵ھ میں ہم زط پر مامور فرمایا بعد ازاں سنہ ۲۰۴ھ میں معزول کر کے داؤد بن منجور کو متعین کیا اور مصافات بصرہ، وجہ، یامہ اور بحرین کو بھی اسی کی گورنری میں شامل کر دیا۔

۲۰۰ھ میں محمد بن حفص کو طبرستان، رویان اور دنیاوند کی گورنری دی گئی۔ اسی سنہ میں سید بن انس نے عرب کے ایک گروہ بنوشیبان نامی پر خلیفہ مامون کے حکم کے مطابق حملہ کیا سو جو سنے کہ بنوشیبان آئے دن فتنہ و فساد برپا کرتے تھے مقام دسکرہ میں بنوشیبان سے معرکہ آرائی ہوئی اور نہایت پیرحمی سے پامال کئے گئے۔ ۲۰۵ھ میں علی بن صدوق معروف بزریق کو ارمینہ اور آذربایجان کی گورنری دی گئی اور جنگ باباک کا حکم دیا گیا اس نے اپنی طرف سے احمد بن حنید اسکانی کو مامور کیا جسکو باباک نے قید کر لیا پس ابراہیم بن لیث بن فضل آذربایجان کی گورنری پر بھیجا گیا اندنوں جبال طبرستان میں شہر یار بن شروین تھا جسکا سنہ ۲۱۰ھ میں انتقال ہوا بجائے اسکے اسکا بیٹا ساہور مقرر کیا گیا مازیار بن قارن نے اسپر فوجکشی کی لڑائی ہوئی ساہور گرفتار ہو کے قتل کر ڈالا گیا اور طبرستان وغیرہ پر مازیار بن قارن کا قبضہ ہو گیا۔ ۲۱۱ھ میں زریق نے سید بن انس والی موصل پر چڑھائی کی زریق وہ شخص ہے جس نے جبال پر مابین موصل و آذربایجان قبضہ کر لیا تھا اور جسکو خلیفہ مامون نے ۲۰۹ھ میں ارمینہ وغیرہ کی گورنری مرحمت فرمائی تھی چونکہ

اس سے اور سید بن انس سے متعدد لڑائیاں ہوئیں تھیں موقع پانکے ایک فوج کثر جمع کر کے بقصد جنگ سید بن انس موصل پر چڑھائی کر دی سید بن انس نے چار ہزار کی جمعیت سے مقابلہ کیا نہایت شدت سے لڑائی جاری ہوئی اثنار معرکہ میں سید بن انس کام آگیا۔ خلیفہ مامون کو اس خبر و حشت اثر کے سننے سے سخت برہمی پیدا ہوئی اور اہل ۲۱۲ھ میں محمد بن حمید طوسی کو موصل کی سند گورنری مرحمت فرما کے جنگ زریق و باباک خرمی کا حکم صادر فرمایا چنانچہ محمد بن حمید طوسی نے موصل پہنچکے زریق کو نیچا دکھایا موصل پر کمال خوش اسلوبی سے قبضہ حاصل کر لیا۔ انہیں ایام میں موسیٰ بن حفص گورنر

۲۱۲ھ واقعات ۲۱۱ھ کے ہیں۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۶ صفحہ ۱۶۶۔

طبرستان نے وفات پائی خلیفہ مامون نے اسکے بیٹے کو بجائے اسکے مقرر کیا اور حاجب بن صالح کو سندھ کی حکومت عنایت کی بشر بن داؤد سابق والی سندھ نے اسکو چارج دینے سے انکار کیا دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی آخر الامر بشر بن داؤد شکست کھانے کرمان کی طرف بھاگ گیا۔ ۱۲۷ھ کے دور میں محمد بن حمید طوسی بابک خرمی کی لڑائی میں مارا گیا۔ محمد کا واقعہ قتل یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مہم موصل سے فارغ ہو کے بابک خرمی پر چڑھائی کی اور نہایت مستوری و ہوشیاری سے اسکو ہزیمت دیتا ہوا اور مصافحہ مقبوضہ کا انتظام کرتا ہوا ایک پہاڑ کے دامن تک پہنچا بابک خرمی دامن کوہ میں تھوڑی دیر تک لڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا محمد بن حمید نے جوش کامیابی میں تعاقب کیا جب تقریباً تین کوس تک چڑھ گیا تب بابک کے ہمراہیوں نے کینگاہ سے نکل کے محمد بن حمید پر دفعۃً حملہ کیا ان لوگوں کے حملہ کرتے ہی بابک بھی لوٹ پڑا محمد بن حمید کے ہمراہی گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوئے مگر محمد بن حمید کے قدم کو جنبش نہ ہوئی اسکے ہمراہ صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا نہایت ثابت قدمی و استقلال سے اڑتا ہوا پیچھے کو ہٹا اتفاق سے بابک کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ نے محمد بن حمید کو چاروں طرف سے گھیر لیا جو منہزم گروہ کی ایک جماعت کو خاک و خون میں ملارہا تھا۔ محمد بن حمید نے خمی ہو کر گرا اور بات کی بات میں تڑپ کر دم توڑ دیا خلیفہ مامون کو اسکے قتل سے سخت صدمہ ہوا۔

اسی سنہ میں عبداللہ بن طاہر کو خراسان کی گورنری عنایت فرمائی گئی اسکا بھائی طلحہ بن طاہر مر گیا تھا، علی بن طاہر اپنے بھائی کی طرف سے خراسان کی حکومت پر حاکم تھا، عبداللہ بن طاہر مقام دینور میں بقصد جنگ بابک لشکر کی ورثگی و آراستگی میں مصروف تھا اور خوارج نے میدان خالی دیکھ کے قریہ مصافحہ نیشاپور میں بلوہ کر دیا تھا خلیفہ مامون نے یہ خبر پانے کے عبداللہ بن طاہر کو خراسان کی سند گورنری مرحمت فرمائے فوراً روانہ ہو گیا حکم دیدیا چنانچہ عبداللہ بن طاہر دینور سے روانہ ہو کے نیشاپور پہنچا اور اہل نیشاپور سے

والی نیشاپور کے خصایل و عادات دریافت کئے کسی نے کچھ جواب نہ دیا عبد اللہ بن
طاہر نے اسکو معزول کر دیا بلوہ فرو ہو گیا

۲۱۲ھ میں احمد بن محمد عمری معروف بہ احمد العین نے یمن میں برحسلاف
خلافت سنیہ علم بغاوت بلند کیا خلیفہ مامون نے انتظاما محمد بن عبد الحمید معروف بہ
ابو الرازی کو یمن پر مامور فرمایا اور ۲۱۳ھ میں اپنے بیٹے عباس کو جزیرہ، ثغور اور
عواصم پر اپنے بہائی ابواسحاق معتمد کو شام و مصر پر اور عبد اللہ بن طاہر کو خراسان پر
مقرر کر کے روانہ کیا اور ہر ایک کو پانچ پانچ لاکھ درہم بطور انعام کے مرحمت فرمائے
ابواسحاق معتمد نے اپنی جانب سے ابن عمیرہ باذغسی کو مصر کا والی مقرر کیا قیسہ
اور یمانیہ کے ایک گروہ نے ہنگامہ کر کے ۲۱۴ھ میں ابن عمیرہ کو مار ڈالا چارناچار ابواسحاق
معتمد خود مصر گیا اور بزور تیغ ان لوگوں کو زیر کیا اور وہیں قیام کر کے بلاد مصر پر اپنے
جانب سے عمال مقرر کئے توڑے ہی ذلوں میں فتنہ و فساد فرو ہو کے امن و امان قائم
ہو گیا ۲۱۳ھ میں چونکہ بشر بن داؤد نے دار الخلافت میں خراج بھیجا بند کر دیا تھا اور
اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اسوجہ سے خلافت پناہی نے غسان بن عباس کو
سندھ کی گورنری پر مامور فرمایا ۲۱۴ھ میں خلیفہ مامون نے ابودلف کو دربار خلافت
میں طلب کیا ابودلف خلیفہ محمد امین کے ہمراہیوں میں سے تھا اور علی بن عیسیٰ بن ماہان
کے ہمراہ طاہر بن حسین سے جنگ کرنے کو آیا تھا علی بن عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد
ہمدان میں واپس آیا طاہر بن حسین نے اس سے خط و کتابت شروع کی اور خلیفہ
مامون کی بیعت کرنے کو کہا ابودلف نے جواب دیا کہ میں ہر دست خلیفہ مامون
کی بیعت نہیں کروں گا ساتھ ہی اسکے فریقین میں سے میں کسی کا ساتھ بھی نہ دوں گا
طاہر نے اسکو غنیمت جاننے منظور کر لیا اور ابودلف نے کرخ مصافات ہمدان میں
پہنچنے کے قیام کر دیا اس زمانہ سے یہ کرخ ہی میں رہاتا آئے خلیفہ مامون نے بقصد

رے کوچ کیا اور اسکو بلا بھیجا چنانچہ ابو دلف باوجودیکہ اسکے ہمراہیوں اور اعزہ واقارب
 نے منع کیا ترساں و خالیف دربار خلافت کو روانہ ہوا خلیفہ مامون نے خلافت تو قریح
 اسکی عزت افزائی کی اور کمال توقیر سے اپنا عہمان بنایا۔ اسی سنہ میں ابو الرزازی
 والی یمن مارڈالا گیا اور خلیفہ مامون نے علی بن ہشام کو جیل، تم، اصفہان اور آذربایجان
 کی گورنری مرحمت فرمائی اسی اثنا میں اہل قم میں بغاوت پھوٹ نکلی اس وجہ سے
 کہ اہل قم نے خراج میں ایک لاکھ درہم کے کم کرنے کی درخواست دی تھی اس امید پر
 کہ خلیفہ مامون نے بزمانہ قیام عراق اہل عراق کا خراج کم کر دیا تھا مگر انکی درخواست
 مقرون اجابت نہ ہوئی تب ان لوگوں نے اداسے خراج سے انکار کر دیا خلیفہ مامون نے
 انکی سرکوبی پر علی بن ہشام اور عیث بن عتبہ کو مامور فرمایا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر
 ان لوگوں نے بلوایوں کو منتشر کر دیا یحییٰ بن عمران مارا گیا شہر پناہ کی فصیلیں منہدم
 کر دی گئیں اور سات لاکھ تاوان جنگ قم والوں سے وصول کیا گیا۔ ۲۱۴ھ میں
 عبیدوس فہری نامی ایک شخص نے مصر میں ہمدان شایا اور مقتدم کے بعض عمال کو قتل
 کر ڈالا خلیفہ مامون یہ خبر پانے دمشق سے مہر آیا اسکے آتے ہی بلوہ فرود ہو گیا لوگوں
 نے عبیدوس کو گرفتار کر کے خلیفہ مامون کے رو برو حاضر کیا خلیفہ مامون نے قتل کا
 حکم صادر کر دیا۔ اسی سنہ میں خلیفہ مامون کو علی بن ہشام سے ناراضی پیدا ہوئی
 اور یہ ناراضی اس درجہ بڑھی کہ عیث اور احمد بن ہشام کو اسکے مال و اسباب اور
 سلاح کے ضبط کر لینے پر مامور کیا علی بن ہشام نے یہ خبر پانے عیث کو قتل کر کے بابک
 کے پاس چلے جاتے کا قصد کیا مگر اس میں کامیاب نہ ہونے پایا عیث نے اسکو گرفتار
 کر کے دربار خلافت میں پیش کیا خلیفہ مامون نے اسکے قتل کا حکم صادر فرمایا اور اسکے
 سر کو شام، عراق، خراسان اور مصر میں نیزہ پر رکھ کے پھرا کے دیار میں ڈال دیا۔ اسی
 سنہ میں عثمان بن عباد سندھ سے مہر بشر بن داؤد کے وارد بغداد ہوا اور خلیفہ

مامون نے عمران بن موسیٰ علی کو سندھ کی گورنری مرحمت فرمائی اور جعفر بن داؤد قمی جیل مصر سے قم کی جانب ہٹا گیا اور عم پوچھنے کے علم بغاوت بلند کر دیا مگر علی بن عیسیٰ قمی کی حسن تدبیر سے بہت جلد گرفتار ہو کے دار الخلافت میں بھیجا گیا خلیفہ مامون نے قتل کا حکم دیدیا۔ یہ اس زمانہ سے جیل مصر میں مقید تھا جب سے کہ خلیفہ مامون نے اسکو حکومت قم سے معزول کیا تھا۔

صواعقت ۲۰۰ء میں رومیوں نے اپنے بادشاہ ایون کو جبکہ سات برس چھ مہینے حکومت کر چکا تھا قتل کر ڈالا اور میخائیل ابن جرجیس معزول بادشاہ کو دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھلایا تو برس تک اس نے اُن پر حکومت کر کے ۲۱۵ء میں انتقال کیا اس کے مرنے پر اسکالڑ کا نوقل تخت نشین ہوا۔ ۲۰۱ء میں عبدالعزیز خردازیہ والی طبرستان نے بلاذرا اور شیرز بلا دیلم سے اور جبال طبرستان کو فتح کیا، شہریار بن شروین جبال طبرستان سے باہر کر دیا گیا، مازیار بن قارن بقصد حاضری دربار خلافت بغداد کی طرف روانہ ہوا اور ابولیسالی نے والی دیلم کو گرفتار کر لیا اسی سنہ میں بابک خرمی جاویدانیہ میں ظاہر ہوا یہ جاویدان بن سہل کے ہمراہیوں سے تھا اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ روح جاویدان کی مجھ میں حلول کر گئی ہے جاویدان کے معنی دائم و باقی کے ہیں اور خرم کے معنی شادمانی کے ہیں یہ فرقہ معتقدات مجوس کا معتقد تھا۔ ۲۱۲ء میں ابوبلال صابی شاری نے خروج کیا۔ خلیفہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کو معہ ایک گروہ سپہ سالاران کارآزمودہ کے اسکی سرکوبی پر متعین فرمایا لڑائیاں ہوئیں ابوبلال انھیں لڑائیوں میں مارا گیا۔

۱۵ اس فرقہ کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ روح قالب عنقریب چوڑنے کے بعد دوسرے قالب میں جلی جاتی ہے۔ اور ماں، بہن، اور بیٹی کے ساتھ نکاح درست ہے۔ اسی اعتبار سے اس مذہب کو دین فرح کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ تاریخ کامل بن اثیر جلد ۶ صفحہ ۱۲۴۔

محرم ۲۱۵ھ میں خلیفہ مامون نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب (ظاہر کے چچا زاد بھائی) کو اپنا قائم مقام بنا کے لشکر صایفہ کے ساتھ بغرض جہاد بلاد روم میں داخل ہوا ساتھ ہی اسکے اسکو سواد، حلوان اور جبلہ کی گورنری بھی مرحمت فرمائی۔ جو وقت خلیفہ مامون مقام تکریت میں پہنچا محمد بن علی رضنا ملنے کو آئے خلیفہ مامون نے خوشنودی فراج کی خلعت مرحمت فرمائی اور اپنی بیٹی ام فضل سے (نکاح کے تیرھویں برس) خلوت صحیحہ کرادی بعد اسکے محمد بن علی رضنا مع اپنے اہل کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہوئے۔ خلیفہ مامون براہ موصل بیخ گیا اور بیخ سے رات ہی پھر انطاکیہ بعد ازاں مصیصہ و طرسوس ہوتا ہوا بلاد روم میں داخل ہوا اور قلعہ قرہ کو بزور تیغ فتح کر کے اسکے شہر سپاہ کو منہدم کر دیا بعضوں کا بیان ہے کہ یہ قلعہ صلح و امان مفتوح کیا گیا بہر کیف اس سے پیشتر اسی طرح قلعہ ماجدہ پر اپنی کامیابی کا پیر یہ اڑایا انھیں دنوں شناس کو قلعہ سندس کی جانب اور عجیف و جعفر کو قلعہ سنان کی طرف تھوڑی تھوڑی فوجوں کے ساتھ روانہ کیا چنانچہ والیان قلعہ سندس و سنان نے اطاعت قبول کر لی اسکا بیٹا عباس شہر ملطیہ میں بقصد جہاد داخل ہوا معصم مصر سے مراجعت کر کے موصل میں پہنچنے سے پہلے خلیفہ مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اس عین میں اسکا بیٹا عباس آ ملا خلیفہ مامون نے بلاد روم سے واپس ہو کے دمشق کی جانب کوچ کیا۔

پھر رومیوں نے خلیفہ مامون کے مراجعت کرنے کے بعد اپنی قوت کو سنبھالا اور اطراف و جوانب سے فوجیں مرتب و مہیا کر کے طرسوس و مصیصہ پر حملہ کر دیا اہل طرسوس و مصیصہ مصالحت کے خیال میں بجز بیٹھے ہوئے تھے نہایت بدیرجی سے قتل و غارت کئے گئے کھڑے اس پر یہ ہوا کہ والی روم نے اس جوش کامیابی میں خلیفہ مامون کی خدمت میں جو خط لکھا تو اسکے سرنامہ پر اپنا نام لکھ دیا خلیفہ مامون اس خط کو دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا غصہ سے آنکھیں سرخ ہو گئیں پورا خط بھی نہ پڑھا اور بجائے جواب لکھنے کے خود ہی

لوٹ پڑا اور روم میں اسکی مراجعت سے ایک ہل چل سی پڑ گئی متعدد قلعے جو نہایت مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے بزور تیغ مفتوح کرتا ہوا ہر قلعہ پر پہنچنے کے جنگ کا نیرد گاڑ دیا اہل قلعہ مقابلہ پر آئے لڑائیاں ہوئیں لیکن آخر میں مجبور ہو کر امن کے نو ہتھیار ہوئے اور مصالحت کے ساتھ قلعہ سپرد کر دیا۔ اسی زمانہ میں معتمد نے بھی جو بلا اور روم میں دوسرے جانب جنگ کر رہا تھا تیس قلعے مفتوح کئے از انجملہ ایک مظلوم ہے تیسری طرف کئی بن اکنم مصروف جدال و قتال تھا اس نے بھی اس جہاد میں بہت بڑا حصہ نیکامی اور کامیابی کا حامل کیا ملک روم کے بہت سے شہروں کو ویران اور ہزاروں گھروں کو بے چراغ کر کے سیکڑوں قیدی پکڑ لایا۔ والی روم نے تنگ کے اپنی گستاخی کی معافی چاہی خلیفہ مامون نے اپنی فوج کو مراجعت کا حکم دیا واپس ہو کر کیسوم آیا اور روز قیام کر کے دمشق کی جانب کوچ کر دیا۔ (یہ واقعات ۲۱۴ھ کے ہیں)۔

بعد اسکے ۲۱۷ھ میں رومیوں کی بد عہدی اور متروانہ حرکات سے خلیفہ مامون نے بلا اور روم کی طرف بقصد جہاد قدم بڑھائے اور قلعہ لولوہ پر پہنچنے کے محاصرہ ڈال دیا مین مہینے دس یوم کے محاصرہ کے بعد عجیف کو حصار پر چوڑھے کے واپس آیا نوقل والی روم نے یہ خبر پانے کے عجیف کو جا کے گھیر لیا خلیفہ کو اسکی خبر لگی تو اس نے ایک عظیم الشان لشکر عجیف کی کمک کو روانہ کیا نوقل یہ سن کے کوچ کر گیا اہل قلعہ لولوہ نے امن کی اور نوقل نے مصالحت کی درخواست کی جو منظور نہ کی گئی اور یہ سنہ انھیں لڑائیوں میں تمام ہو گیا۔ خلیفہ مامون ان دنوں سلوین میں تھا شروع ۲۱۸ھ میں پھر بلا اور روم کی طرف جہاد کرتا ہوا لوٹا۔ اور اپنے بیٹے عباس کو تعمیر طوانہ پر مامور کیا چنانچہ عباس نے طوانہ کو ایک میل مربع میں آباد کیا چار کوس کی شہر پناہ بنوائی ہر چار سمت ایک ایک دروازہ رکھا اور تکمیل تعمیر کے بعد لوگوں کو مختلف شہروں سے لاکے آباد کیا۔



مامون کی وفات اور معتصم کی خلافت

۲۱۸ھ میں خلیفہ مامونؒ تہریر برون پر پونچکے علیل ہوا۔
یونانیوں نے مرض بڑھتا گیا اسی حالت میں عراق چلا گیا اور

مقام طرطوس میں پونچکے جاں بحق تسلیم کر دی یہ واقعہ اسکے خلافت کے میسویں برس کا ہے۔ اسکا ولی عہد اسکا بہائی معتصم تھا۔ کنیت اسکی ابو اسحاق تھی اور نام محمد تھا خلیفہ مامون کے مرنے پر معتصم کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ یہ واقعہ پندرہویں رجب ۲۱۸ھ کا ہے۔ لشکریوں نے شور و غل مچایا کہ عباس بن مامون سریر خلافت پر متمکن کیا جائے خلیفہ معتصم نے عباس بن مامون کو دربار خلافت میں طلب کیا عباس نے حاضر ہو کر بطیب خاطر بیعت کر لی شور و غوغا فرو ہو گیا خلیفہ معتصم نے اسی وقت طوانہ کے مسار و ویران کر نیکا حکم صادر کیا سامان و اسباب جقدر اٹھا سکے اٹھا لائے باقی کو جلا دیا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس آئے۔

۲۱۸ھ خلیفہ مامون کی کنیت ابو العباس اور نام عبداللہ تھا پندرہویں ربیع الاول ۲۱۸ھ شب جمعہ کو جس رات خلیفہ ہادی کا انتقال اور اسکا باپ ہارون الرشید تخت نشین ہوا بطن حرا میں دام ولہ سے پیدا ہوا۔ عالم طفلی ہی میں کل علوم کی تکمیل کر لی تھی اس نے، مشیم، عباد بن عوام، یوسف بن عطیہ، ابو معاویہ عزیز، اسمعیل بن علیہ اور حجاج اعور سے حدیث کی سماعت کی اور اس سے قاضی القضاۃ یحییٰ بن اکثم، جعفر بن ابی عثمان طیالسی اور امیر عبداللہ بن طاہر نے روایت کی ہے۔ فقہ و علوم عربیہ اور ایام ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ بڑے ہونے پر علوم فلسفہ کی جانب متوجہ ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان علوم میں بھی بہت بڑی دستگاہ حاصل کر لی آخر اسی کجخت فلسفہ کی بدولت قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ ۲۱۸ھ میں اسحاق بن ابراہیم کو بغداد میں قضاۃ، علماء اور محدثین کے امتحان پر مقرر کیا جو شخص قرآن کریم کے مخلوق ہونے سے انکار کرتا اسکو سزا دی جاتی، جیل کی مصیبتیں جھیلتا، دڑے لگتے شہر بدر کیا جاتا غرض اسکی بے عزتی اور بے توقیری کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل اسی کے عہد خلافت میں تھے۔ انہوں نے بھی (باقی صفحہ ۱۲۷ میں)

محمد بن قاسم | محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی زین العابدین بن حسین مدینہ
کا خروج منورہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے مابذ زاہد اور نیک سیرت تھے۔

خراسان کا ایک شیطان بصورت انسان انکے پاس آکے رہنے لگا اسنے یہ خیال مستحکم
کر دیا کہ "آپ مستحق امامت ہیں" اور جو نوگ خراسان سے حج کرنے کو آتے وہ اس کی
تحریک و ترغیب سے آپکی بیعت کر لیتے تھے۔ ایک مدت اسی حالت سے گزری جب خراسان
کے معتقدین کی کثرت ہوئی تو محمد بن قاسم نے اس خراسانی شیطان کے جو رجحان گئے
اور مصلحتاً چندے دونوں روپوش رہے مگر یہ درپردہ لوگوں کو آپکی بیعت کرنے کی
ترغیب دیتا اور روساء و اعرار کو آپ سے ملاتا رہتا توڑے دنوں بعد اس خراسانی
شیطان نے محمد بن قاسم کو خروج کرنے کی راے دی اور لوگوں کو علانیہ رضامن آل
محمد کی شیعوں کی طرح دعوت دینے لگا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں خراسان کے
نامی سپہ سالار عبدالشہین طاہر نے اس طوفان کے روکنے کی طرف توجہ کی اطراف
طالقان میں متعدد لڑائیاں ہوئیں اور ہر لڑائی میں محمد بن قاسم کو ہریمت ہی اٹھانا پڑی
آخر کار تنہا میدان جنگ سے جان بچا کے بھاگے نسا پہنچے کسی نے والی نسا سے

(بقیہ صفحہ گذشتہ کا) قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کیا خلیفہ معتصم نے اس قدر ڈرے پڑے کہ ہوش
و حواس جاتے رہے تمام بدن زخموں سے چرچہ ہو گیا اسپر بھی تشفی نہ ہوئی تو جیل بیکر یا اڑتالیس
برس کی عمر پائی میں برس پانچ مہینے تیسریس یوم خلافت کی باستثناء اس برس کے جبکہ مکہ معظمہ
میں اسکی بیعت کی گئی تھی اور اسکا بھائی خلیفہ امین بغداد میں محصور تھا۔

خلیفہ مامون اکثر کہا کرتا تھا کہ معاویہ عمر بن العاصی کی وجہ سے عبدالملک حجاج کے سبب سے
اور میں بذاتہ مشہور ہوا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلافت عباسیہ ایک خلیفہ فاتح ایک درمیانی
ایک خاتم ہوا ہے فاتح تو سفاح خلیفہ اول کہلاتا ہے اور مامون درمیانی خلیفہ تھا اسکے زمانہ
میں خلافت عباسیہ کا زمانہ شباب تھا اور خاتم خلافت معتصم ہے۔ (باقی صفحہ آئندہ میں)

آپ کے آنے کی خبر کر دی والی نسائے گرفتار کر کے عبدالشہین طاہر کے پاس اور عبداللہ بن طاہر نے پندرہویں ربیع الاول ۲۱۹ھ میں دار الخلافت بغداد خدمت میں خلیفہ معتمد کے بھیجا خلیفہ معتمد نے مسرور الکبیر خادوم کے زیر نگرانی قید کروا یا سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ اسی سسنہ کے شب عید الفطر میں حیل سے نکل کے ہماگ گئے کسی کو کانوں کا خبر نہ ہوئی۔

جنگ زط زط ایک گروہ عوام الناس کا تھا جنہوں نے راہ بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا

دن دھاڑے مسافروں اور تاجروں کو لوٹ لیتے اور قرب و جوار کے قصبات و دیہات کو ویران کر دیتے تھے محمد بن عثمان الحکام سردار اور سماق نامی ایک شخص انکے کاموں کا

منصرم وقت تک تھا خلیفہ معتمد نے ۲۱۵ھ کی ماہ جمادی الآخرہ میں عجیف بن عنبسہ کو اس ناہنجار گروہ کی سرکوبی پر مامور فرمایا چنانچہ عجیف واسط سے ایک لشکر عظیم اٹھان مرتب کر کے زط کے مقابلہ پر پہنچا پہلے ہی معرکہ میں تین سو آدمیوں کو قتل اور پانچ سو گرفتار کیا۔ مقتولوں کے سروں کو دار الخلافت بغداد بھیجا بعد اسکے سات مہینے تک مسلسل زط کے

ساتھ معرکہ آرائیوں میں مصروف رہا زط نے مجبور ہو کے ماہ ذی الحجہ سنہ مذکور میں امن کی درخواست کی اور سب کے سب معہ عورتوں اور بچوں کے جو تعداد میں سترہ ہزار تھے جن میں بارہ ہزار جنگ آور تھے حاضر ہو گئے عجیف ان سبھوں کو اسی ہیئت و صورت سے جسطرح کہ وہ میدان جنگ میں آتے تھے کشتیوں پر سوار کر کے یوم عاشورا ۲۲ھ میں داخل بغداد ہوا خلیفہ معتمد ان کے دیکھنے کو ایک کشتی پر سوار ہونے کے شامہ کی جانب

دیکھتے ہوئے گذشتہ کا، خلفاء عباسیہ میں یہ خلیفہ بہت بڑے جاہ و جلال کا تھا۔ جواد، کریم، عالم، علم دوست اور شجاع تھا۔ خاندان براء کو اسی نے اپنے عہد خلافت میں ذلت و رسوائی سے نجات دی۔ اور عزت افزائی کی مگر فضل و جعفر کے نہ ہونے سے ناموری نہ پیدا ہوئی۔ لخص از تاریخ کامل جلد ۶ صفحہ ۱۷۶ و تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۰۸ و فوات الوفيات جلد اول صفحہ ۲۳۹۔

آیا اور بعد میں عین تدریج کی طرف بڑا وطن کو دیارِ رومیوں سے سوچنے پانے کے
ان پر شیخوں اور ایک بھی ان میں سے جا تیرتہ ہوا

تعمیر سامرا خلیفہ معتمد نے اپنے عمدہ ذراقت میں منبر کے ایک گروہ کو

مجتب کر کے منظرِ بے کے نام سے موسوم کیا تھا اور ہر قندار شہر بوسندہ اور

فرغانہ سے ایک گروہ کو منتخب کر کے فرغانہ کا لقب دیا تھا یہ لوگ گروہوں

پر سوار ہو کر بازار اور عام گزرتے ہوں میں دوڑاتے ہوئے نکلتے تھے اگر

بچے، بوڑھے اور عورتیں چوٹ کھاجاتی تھیں عام باشندگان بغداد کو اس سے

تکلیف ہونے لگی جس وقت ان میں سے کوئی تن تنہا کہیں طجاتا تو اہل بغداد

اس کا کھیل کیا لیتے مگر اسپر بھی انکی تشفی نہ ہوتی تاویلا و امعیباہ کا شور مچانے لگے

وقت بے وقت معتمد کے کانوں تک یہ آواز پہنچنے لگی بہ نظر رفاہ عام قاطون

کے تعمیر کرنے اور ان لوگوں کو وہاں لیجا کے آباد کرنے کا قصد کیا یہ وہ شہر ہے

کہ جسکی خلیفہ رشید نے بنا ڈالی تھی اتفاق وقت سے اسکی تعمیر تکمیل کو نہ پہنچی

فصلیں اور شہر پناہ کی دیواریں مسمار و خراب ہو گئیں۔ خلیفہ معتمد نے اپنے

بیٹے واثق کو بغداد میں اپنا جانشین بنا کے قاطون آیا اور دوبارہ تعمیر کی بنا

ڈالی۔ چنانچہ ۲۲۰ھ میں سلسلہ تعمیر کو پہنچانے کے سر من رائے کے نام سے

موسوم کیا حوام الناس کثرت استعمال سے سامرا کہنے لگے اسی زمانہ سے سا

ان لوگوں کا دار الحکومت قرار پایا۔

فضل بن مروان یحییٰ بن برمقانی خلیفہ معتمد کا زمانہ ولیعهدی میں سکرٹری

کا ادبار تھا اسکے پاس ایک شخص فضل بن مروان بردانی رہتا

تھا چونکہ اسکا خط صاف تھا یحییٰ بن برمقانی اسی سے خطوط لکھایا کرتا اور پیشی

کا کام لیتا تھا اتفاق سے یحییٰ بن برمقانی مر گیا تو معتمد نے فضل بن مروان کو

بجائے اسکے سکرٹری کا عہدہ عنایت کیا اور اپنے ہمراہ شام اور مصر لے گیا اس سفر سے اسکی حالت درست ہو گئی بہت سامان اور سامان امارت جمع کر لیا بعد چند جب معتصم تخت نشین ہوا تو فضل بن مروان کے اختیارات بہت وسیع ہو گئے۔ ہر کام میں ہی پیش پیش رہنے لگا قلمدان وزارت کا تو مالک تھا ہی محکمہ دیوان و خزانہ کا بھی افسر ہو گیا شامت آئی تو اس خیال سے کہ خلیفہ معتصم کے ناک میں بال ہو رہا ہوں اکثر انعامات اور صلے کے دینے میں خلیفہ معتصم کے حکم کی تعمیل نہ کرنے لگا حاضرین دربار نے خلیفہ معتصم کے کان بھرنا شروع کر دیا وقت بے وقت جب موقع ملتا فضل کے حق میں دو چار کلمے بڑائی کے کہہ گزرنے لگے اور اس امر کو بھی مناسب موقع پر ظاہر کر دینے لگے کہ فضل آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا معتصم کو اس سے ایک خاص خیال پیدا ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۲ھ میں حساب فہمی کے بعد اسکو مع اس کے اہل و عیال کے حراست میں لے لیا اور بجائے اسکے محمد بن عبد الملک بن الزیات کو مقرر فرمایا پھر تھوڑے دنوں بعد فضل کو جیل سے نکلوا کے موصل کے کسی گانوں کی جانب جلا وطن کر دیا۔

مخاریبات | ایک خرمی کے حالات اور ۲۰۲ھ میں اسکے خروج و ظہور
 ایک خرمی کے واقعات اور یہ کہ یہ جاویدان بن سہل کا پیرو ہے ہم
 اوپر بیان کر آئے ہیں اس نے شہر بڑ کو اپنا ملجا و ما من بنا رکھا تھا خلیفہ مامون نے اپنے عہد خلافت میں جس قدر فوجیں اس کے مقابلہ پر بھیجیں سمجھوں کہ اس نے نچا دکھایا بہت سے سپہ سالاران لشکر کو قتل کر ڈالا اور اکثر قلعے کو جو ماہین اردبیل اور آذربجان کے تھے ویران و مسمار کر دیا جب خلیفہ معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا ابو سعید محمد بن یوسف کو اس مہم پر مامور کیا چنانچہ ابو سعید نے حسب حکم

خلیفہ معتمد ان قلعہات کو جن کو بابک خرمی نے ویران و مسمار کر دیا تھا از سر نو
 تعمیر کرایا فوج، آلات حرب اور غلہ کی کافی مقدار سے قلعہ کو مضبوط و مستحکم کیا
 اس اثنا میں بابک خرمی کے کسی سر یہ تے ان بلا و پریشون مارا ابو سعید نے
 اس کا تعاقب کیا اور نہایت مستعدی سے جو کچھ کہ وہ لوٹ لے گیا تھا اس سے
 چھین لیا بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ مقتولوں کے
 سروں اور قیدیوں کو ایک عرضداشت کے ساتھ ویران خلافت میں خلیفہ معتمد
 کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ پہلی ہزیمت تھی جو کہ بابک خرمی کے ہمراہیوں کو نصیب
 ہوئی (دوسری ہزیمت محمد بن بعیث کے ذریعہ سے ہوئی۔ یہ آذربجان کے ایک
 قلعہ میں جس کو اس نے ابن داؤد سے لے لیا تھا رہتا تھا۔ اور بابک خرمی کا
 مددگار تھا اور اس کے سرایا اور فوجوں کو رسد رسانی کا کام دیتا تھا اتفاق سے
 واقعہ مذکورہ کے بعد بابک خرمی کا ایک سپہ سالار عصمت نامی اس قلعہ کی طرف
 سے ہو کر گزرا حسب عادت قدیمہ محمد بن بعیث نے دعوت کی عزت و احترام سے
 ٹھہرایا رات کے وقت حالت غفلت میں عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معتمد کی
 خدمت میں بھیج دیا اور اسکے ہمراہیوں کو قتل کر ڈالا۔ خلیفہ معتمد نے عصمت
 سے بابک کے بلا و اور قلعہات کے اسرار و دریافت کے عصمت نے بامید
 رہائی عرض کر دئے خلیفہ معتمد نے عصمت کو قید کر دیا اور افشین حیدر بن
 کاؤس کو جبال کی گورنری مرحمت فرما کے جنگ بابک پر روانہ کر دیا۔
 افشین نے میدان کارزار میں پہونچکے پہلے رسد رسانی کا انتظام کیا
 اور راستوں کو خطرات سے پاک و صاف کرنے کے نظر سے تھوڑی تھوڑی
 دور پر جو کیاں بٹھلائیں کار آزمودہ اور تجربہ کار سپہ سالاروں کو پتروں پر
 متعین کیا جو شب و روز اردبیل سے اسکے لشکر گاہ تک گشت کیا کرتے اور رسد

وغلہ اور کل مایحتاج الیہ سامان کو بحفاظت تمام لشکر گاہ تک پہنچایا کرتے اور
 جب بابک خرمی کا کوئی جاسوس ملجاتا تو افشین اس سے بابک کے اخلاق، ہر تاؤ
 اور احسانات کو دریافت کرتا اور اس سے دو چند ان لوگوں کو مرحمت کر کے رہا
 کر دیتا۔ بعد اسکے خلیفہ معتمد نے بغا الکبیر کو معہ کثیر التعداد فوج اور مال و اسباب
 کے افشین کی کمک پر روانہ کیا بابک یہ سن کے بغا الکبیر پر شیخون مارنے پر طیار
 ہو گیا جاسوسوں نے افشین تک یہ خبر پہنچا دی افشین نے بغا الکبیر کو لکھ بھیجا کہ تم
 قافلہ کے ساتھ قلعہ نہر تک آؤ اور قافلہ کے روانہ ہو جانے کے بعد معہ اپنے ہمراہیوں
 کے پھر اردبیل واپس چلے جاؤ بغا الکبیر نے ایسا ہی کیا بابک یہ خبر پا کے بغا الکبیر کا
 قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہو گیا ہے شیخون مارنے کے قصد سے معہ اپنے چھٹے
 ہمراہیوں کے نکل کھڑا ہوا افشین چپکے سے جس دن بغا سے ملنے کا وعدہ تھا
 نکل کے اردبیل کی طرف چلا گیا اور بحفاظت تمام بغا کو معہ مال و اسباب کے
 ابو سعید کے مورچہ میں لا کے ٹھہرایا اس اثناء میں بابک قافلہ تک پہنچ گیا قافلہ
 کے ہمراہ والی قلعہ نہر بھی تھا۔ بغا الکبیر سے تو ڈبھیڑ نہ ہوئی والی قلعہ نہر سامنے
 پڑ گیا لڑائی ہونے لگی بابک کے ہمراہیوں نے ان لشکریوں کو جو قافلہ کے ہمراہ
 تھے تہ تیغ کر کے جو کچھ مال و اسباب پایا لوٹ لیا اتفاق یہ کہ اثناء راہ میں افشین کے
 سپہ سالاروں میں سے ہیشتم نامی ایک سپہ سالار سے دو چار ہو گیا بابک نے اسکو
 بھی ہزیمت دی ہیشتم ایک قلعہ میں جا کے چھپ رہا بابک نے پہنچنے کے محاصرہ ڈال دیا
 اس عرصہ میں افشین اپنا لشکر لے ہوئے آپہنچا اور دفعۃً بابک کے لشکر پر حملہ کر دیا
 بابک کا لشکر اس ناگہانی حملہ سے گھبرا گیا۔ کمال بے سروسامانی سے بھاگ کھڑا
 ہوا لشکر کا زیادہ حصہ اس معرکہ میں کام آ گیا بابک معہ معدودے چند آدمیوں کے
 بھاگ کے موقان پہنچا اور اپنے بقیہ لشکر کو موقان میں طلب کیا دو چار روز

قیام کر کے موقان سے روانہ ہو کے مقام بزمیں آؤ۔ افشین اس کامیابی کے بعد اپنے لشکر گاہ برزند میں آیا لشکریوں کو انعامات اور صلے مرحمت کئے اور بابک کو ہزیمت دینے کی ترکیبیں سوچنے لگا یہ اسی خیال میں تھا کہ بابک نے اپنی حکمت عملی سے افشین کے لشکر کا راستہ کاٹ دیا رسد و غلہ کا آنا موقوف ہو گیا افشین کا لشکر رسد کے نہ آنے سے بھوکوں مرنے لگا افشین نے والی مراندہ سے رسد طلب کیا لیکن بد قسمتی سے اثنار راہ میں بابک کے لشکریوں نے لوٹ لیا۔ بغا البکیر یہ خبر پانے کے بعد اس سامان و مال کے جو اس کے پاس تھا بابک کے ہاتھوں سے بچا کے افشین کے لشکر گاہ میں آیا اور لشکریوں میں تقسیم کر دیا بعد اسکے افشین نے اپنے سپہ سالاروں کو بابک پر حصار ڈالنے کے غرض سے بڑھنے کا حکم دیا چنانچہ قلعہ بزم سے چھ میل کے فاصلہ پر پہونچکے مورچے قائم کئے اور بغا البکیر نے قریہ بزم میں داخل ہو کے لڑائی چھیڑ دی، ایک خونریز جنگ کے بعد اپنے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت کو اس معرکہ کے نذر کر کے محمد بن حمید سپہ سالار کے مورچہ میں واپس آیا افشین نے اسکے امداد طلب کرنے پر اپنے بھائی فضل اور احمد بن خلیل بن ہشام اور ابو جوشن اور جناح الاعور کو (یہ حسن بن سہل کے باڈی گارڈ کا افسر تھا) بغا کی کمک پر روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ فلاں روز فلاں وقت بابک کے لشکر پر تم لوگ حملہ کرنا میں بھی اسی دن اور اسی وقت مقررہ پر اس سمت سے حملہ آور ہونگا اتفاق یہ کہ بغا وغیرہ نے شدت سرا اور بارش کیوجہ سے حملہ نہ کیا اور افشین نے تیاری کر کے دھاوا کر دیا بابک کا لشکر جو اسکے مقابلہ پر تھا تاب مقاومت نہ لاسکا پیچھے ہٹا افشین نے بڑھ کے اس کے مورچے پر قبضہ کر لیا۔ اگلے دن بغا وغیرہ شدت سرا و بارش سے تنگ آکے کسی راہبر کے رہبری کے ذریعہ سے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جو افشین کے

لشکر گاہ کے قریب تھی یہاں پر بھی ان کو اسی سرا اور بارش سے سابقہ پڑا مزید برآں
 یہ ہوا کہ برف بھی پڑ گیا ساتھ پاؤں نے کام دینے سے جواب دیدیادوروز تک اسی
 حالت میں مبتلا رہے اور دھربابک نے موقع پا کے افشین کے لشکر پر شیخون مارا
 اور لڑکے پیچھے ہٹا دیا۔ اُدھر بنگا کے رکاب کی فوج نے رسد و قلعہ کے ختم ہونے
 کی وجہ سے شور و غوغا مچایا بنگا نے مجبور ہو کے بقصد قلعہ بذونیز بغرض دریافت
 حال افشین کو بیچ کر دیا کچھ دور نکل آئے پر افشین کا حال معلوم ہوا بابک کے خوف
 سے پھر اسی پہاڑی کی جانب لوٹا اور بوجہ تنگی راہ و کثرت فوج دوسری راہ اختیار
 کی بابک کے پستروں نے تعاقب کیا بنگا کے ہمراہیوں نے انکی جانب مڑ کر بھی
 نہ دیکھا نہایت تیزی سے اس تنگ و دشوار گزار راستہ کو طے کر گئے اس اثنا
 میں رات آگئی بنگا نے مال و اسباب کی حفاظت کے خیال سے دامن کوہ میں
 پڑاؤ کر دیا اور ہر چہا طرف لوگوں کو پہرہ پر مقرر کیا سب کے سب تھکے تو تھے،
 سو گئے بابک نے موقع پا کے چھاپہ مارا اور جو کچھ ان کے پاس مال و اسباب
 تھا لوٹ لیا بنگا مع اپنے ہمراہیوں کے خندق اول میں چلا آیا جو نشیبی کوہ میں تھا۔
 طرہ خان بابک خرمی کا ایک نامور سپہ سالار تھا یہ اجازت بابک مراغہ کے ایک
 قریب میں ایام سرا منقضی کرنے کو چلا آیا تھا افشین نے اپنے سپہ سالار کو جو مراغہ
 میں تھا طرہ خان کی گرفتاری کو لکھ بھیجا۔ سپہ سالار مراغہ نے شب کے وقت
 طرہ خان کے مکان کو جا کے گھیر لیا اور قتل کر کے سر کو افشین کے پاس بھیج دیا۔
 انھیں واقعات پر ۲۲۱ھ ہجری رخصت ہو جاتا ہے اور ۲۲۲ھ کا دور شروع
 ہوتا ہے خلیفہ معتصم نے جعفر خیاط کو لسرا فسری ایک عظیم الشان فوج کے افشین
 کی کمک پر روانہ کیا اور ایتاخ کی معرفت تیس لاکھ دراہم مصارف فوج بھیجے
 اس مالی اور فوجی امداد سے افشین کی قوت بڑھ گئی اور اپیل فصل ربیع میں

بقصد جنگ بابک کوچ کیا۔ رود کلاں پر پہونچنے خندق کھودی مورچے قائم کئے اس اثناء میں یہ خبر لگی کہ بابک کا ایک سپہ سالار حسب کا نام اذین ہے اسی مورچہ کے مقابلہ پر صف آرائی کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کسی پہاڑی قلعہ پر بھیجا ہے افسین نے اپنے ایک سپہ سالار کو مع ایک دستہ فوج کے اذین کے اہل و عیال کو گرفتار کر لانے کے لئے بھیجا چنانچہ اس سپہ سالار نے نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس حکم کی تعمیل کی اذین کو اسکی اطلاع ہوئی تو وہ بھی انکے روک ٹوک کو سوا ہو کے نکلا اثناء راہ میں ملاقات ہو گئی فریقین ایک دوسرے سے بھڑکے اذین نے کچھ عورتوں کو چھین لیا۔ افسین کے آدمیوں نے سیاہ جھنڈیوں کے ذریعہ سے اس واقعہ سے افسین کو آگاہ کیا جو پہلے سے مختلف اور بلند مقامات پر سیاہ جھنڈیاں لئے ہوئے بیٹھے تھے اور انکو ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی حادثہ یا فریق مخالفت کو حملہ آور دیکھتا تو انھیں جھنڈیوں کے ذریعہ سے اطلاع دینا۔ افسین نے فوراً ایک گروہ کو انکی کمک پر روانہ کیا اس گروہ کے آنے سے اذین کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ گھبرا کے بھاگ کھڑا ہوا اور افسین کے ہمراہی مع اذین کے بقیہ عورتوں کے واپس آئے۔

اس واقعہ کے بعد افسین آہستہ آہستہ قلعہ بڈ کی طرف بڑھنے لگارات کے وقت لوگوں کو پہرہ پر مقرر کرتا اور خود بھی شب کے وقت بابک کے خوف سے پتروں کے ساتھ گشت کرنے کو نکلتا اگرچہ لشکر میں شب کی بیداری اور دن کے سفر سے تھک گئے مگر امیر لشکر کے حکم کی تعمیل نہایت خوش دلی سے کر رہے تھے رفتہ رفتہ قلعہ بڈ کے روبرو ایسے مقام پر پہونچے جہاں کہ قدرتی طور سے تین پہاڑیاں ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئی تھیں اور ان تینوں پہاڑیوں کے درمیان ایک وسیع میدان تھا افسین نے اپنے لشکر کو اسی میدان میں مع غلہ اور حملہ اسباب

ضروری کے ٹھہرایا اور کل راستوں کو باستثناء ایک راستہ کے پتھروں سے چن دیا۔
 انھیں پہاڑیوں کے قریب بابک کا لشکر بھی پڑا ہوا تھا فشین روزانہ اول وقت میں
 نماز صبح ادا کر کے نقارہ بجواتا لشکری اس نقارہ کی آواز سن کے طیار ہو جاتے فشین
 جب تک مصروف جدال و قتال رہتا نقارہ بجتا رہتا اور جب جنگ کا روکنا مقصود
 ہوتا نقارہ کا بجنا بند کر دیتا۔ غرض لشکری نقارہ کی آواز پر کام کرتے تھے اور جب اسکا
 ارادہ آگے بڑھنے کا ہوتا تو جسکو اسنے اپنی ضرورت کے لئے بنالیا تھا اور بابک انتظام
 کرتا کہ جس وقت فشین حملہ آور ہوتا چند آدمیوں کو اسی گھاٹی کے نیچے کیننگاہ میں بٹھاتا
 فشین نے ہر چند اس کی تحس کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اکثر اوقات ابو سعید و جعفر خلیفہ
 اور احمد بن خلیل بن ہشام کو تین تین دستہ فوج کے ساتھ جنگ کرنے کو روانہ کرتا کہ
 یکے بعد دیگرے میدان کارزار میں جائیں اور خود ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوا لڑائی
 کا منظر دیکھتا رہتا۔ اس مقام سے بابک کا قلعہ اور مجلسرا بھی دکھائی دیتا تھا ہمیشہ
 بابک ان کے مقابلہ پر معدودے چند آدمیوں کو لے کے آتا اور باقی فوج کیننگاہ
 میں رہتی۔ ہر وقت اس کے لشکری شراب پیتے گلچھر سے اڑاتے گاتے اور بانسری
 بجاتے۔ ظہر تک فشین اس منظر کو دیکھتا رہتا بعد ادا سے ظہر اپنے خندق میں
 واپس آتا اسکے واپس ہوتے ہی یکے بعد دیگرے اسکی فوجیں بھی میدان جنگ
 سے ترتیب وار واپس آجاتی تھیں۔ بابک کا گروہ اس طول و طویل جنگ سے
 گھبرا گیا ایک روز حسب دستور فشین کا لشکر واپس ہوا اتفاق سے جعفر پیچھے
 رہ گیا بابک کا لشکر میدان خالی سمجھ کے بڑے نکل پڑا جعفر نے بڑھ کے حملہ کیا
 اور بلند آواز سے اپنے ہمراہیوں کو پکارا فشین کا لشکر لوٹ پڑا لڑائی پھر
 دوبارہ چھڑ گئی جعفر کے ہمراہیوں میں سے ابو دلف کے ساتھ ایک گروہ
 مطوعہ (وائٹیرز) کا تھا ان لوگوں نے بلا حکم فشین بابک پر اس زور و شور کا

دھاوا کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کمندیں ڈال کے قلعہ پر چڑھ جائیں گے جعفر نے میدان کارزار سے افشین سے پانچ سو تیر اندازوں کی امداد طلب کی افشین نے کہلا بھیجا کہ تم امدادی فوج کا انتظار نہ کرو جہاں تک ممکن ہو آہستہ آہستہ حکمت عملی واپس چلے آؤ جنگ کا عنوان خطرناک ہو رہا ہے۔ اس عرصہ میں مطوعہ حملہ کرتے ہوئے بڑنگ پہنچ گئے فریقین کے شور و غل سے میدان جنگ گونج رہا تھا بابک کے اُن لشکریوں نے جو کمینگاہ میں تھے یہ سمجھ کے کہ قلعہ تک فریق مخالف پہنچ گیا کمینگاہ سے نکل آئے افشین پر اس قلعہ کا راز اور کمینگاہ کا حال منکشف ہو گیا لڑائی طویل ہو گئی تھی فریقین لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور آفتاب بھی گوشہ مغرب میں پہنچ گیا تھا جعفر لڑتے لڑتے آہستہ آہستہ اپنے مورچہ کی طرف واپس ہوا مغرب کے وقت تک لڑائی بالکل بند ہو گئی دونوں حریت اپنے اپنے قیام گاہ پر آئے کمریں کھولیں جعفر ہاتھ منہ دھو کے افشین کے پاس گیا افشین نے عدول حکمی اور خلافت مرضی جنگ کرنے سے ناراضی ظاہر کی جعفر نے افشین کے امداد نہ بھیجنے سے اظہارِ ملال کیا غرض دونوں نے وجوہات معقول بتلائے صفائی ہو گئی۔ بعد اس کے مطوعہ نے کمی خرچ و رسد کی شکایت کی افشین نے جواب دیا جو شخص اس کمی مصارف اور گرسنگی کی تکالیف پر صبر کر سکے وہ ہمارے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ پر رہے ورنہ اپنا راستہ لے امیر المؤمنین کے لشکر میں بفضلہ تعالیٰ جنگ اور کی کمی نہیں ہے۔ مطوعہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم تو قلعہ بڑنگ کی بات میں مفتوح کر لیتے مگر امیر لشکر درنگی اور ناحق پہلوگوں کو ثواب جہاد سے محروم کرتا ہے اب بھی اگر ہم کو حملہ کرنے کا حکم دے تو ہم اپنی قوت کا نتیجہ دکھلا دیں، افشین کے کان تک یہ باتیں پہنچ گئیں مطوعہ کو طلب کر کے تسلی دی جنگ کا حکم دیا۔

اور جس وقت ان لوگوں نے دھاوا کرنے کا ارادہ کیا تھا اسی وقت خود بھی
 حملہ کرنے کا وعدہ و اقرار کیا مال، اسباب، خوراک، پانی اور آلات حرب خاطر خواہ
 ان لوگوں کو دیاز خمیوں کو میدان جنگ سے اٹھالانے کے لئے پتھروں پر
 مجلس رکھوا دیں اور جعفر کو اسی مورچہ کی طرف بڑھنے کو کہا جہاں تک کل بڑھ گیا
 تھا اگلے دن جعفر نے تیر اندازوں، نفاطوں اور نامی نامی جنگ آوروں کو
 منتخب کر کے ایک لشکر مرتب کیا اور مطوعہ کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے میدان جنگ
 میں آیا بابک کے لشکر نے قلعہ سے تیریاری شروع کی جعفر کے رکاب کی فوج
 اپنے کو بابک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بند کی فصیلوں تک پہنچ گئی اور جعفر
 کمال مردانگی و استقلال سے دروازہ بند پر پہنچ کے لڑنے لگا لڑتے لڑتے
 دوپہر ڈھل گئی افشین نے حسب ضرورت ان لوگوں کے لئے کھانا اور پانی
 روانہ کیا اور قلعہ بند کی فصیلوں کے توڑنے کے غرض سے مزدوروں کو معہ
 پھرو سے اور کداروں کے جعفر کے پاس بھیجا اس اثناء میں بابک کا لشکر
 قلعہ کا دروازہ کھول کے نکل آیا اور مطوعہ کو اپنے پر زور حملہ سے قلعہ بند کی
 فصیل سے پیچھے ہٹا دیا عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا کبھی بابک کا لشکر
 مطوعہ کو قلعہ کی فصیل سے پسپا کر دیتا تھا اور کسی وقت مطوعہ بابک کے لشکر
 کو لڑ کر قلعہ کے اندر داخل کر دیتا تھا غرض فریقین اسی حالت میں تھے کہ شام
 ہو گئی اور رات نے اپنے سیاہ دامان سے آفتاب عالم تاب کو چھپا لیا افشین نے
 لشکر کو میدان جنگ سے مراجعت کا حکم دیا دونوں حریف اپنے اپنے قیام گاہ
 میں آئے۔ لطف یہ ہے کہ ہر فریق کو اس جنگ کے بعد اپنی کامیابی سے ناامید
 ہی ہو گئی۔ اکثر مطوعہ اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ دو ہفتہ بعد افشین نے پھر جنگ
 کی تیاری کی لشکر کو چار حصوں پر تقسیم کیا ایک حصہ کو جس میں ایک ہزار

تیر انداز تھے آدھی رات کے وقت اُس پہاڑی کی جانب روانہ کیا جو قلعہ بزد
 کے قریب تھی اور جس کے دامن میں بابک کا نامی سپہ سالار آذین صفت آرائی
 کرتا تھا اور اُن کو یہ ہدایت کر دی کہ جس وقت جعفر کو بزد کی جانب بڑھتے ہوئے
 دیکھنا تیر باری کرتے ہوے بابک کے لشکر پر حملہ کر دینا۔ دوسرے حصہ کو اس
 ٹیلہ کے نیچے کمینگاہ میں چھپا دیا جسکی چوٹی پر بابک کے آدمی کمینگاہ میں بیٹھتے
 تھے تیسرے حصہ کو محافظت کی غرض سے لشکرگاہ میں چھوڑا اور چوتھے حصہ
 کو مسلح و مرتب کر کے صبح ہوئے ہی سوار ہو کے اُس مورچہ کی طرف آیا جہاں
 حسب عادت گذشتہ لڑائیوں میں ٹھہرتا تھا۔ جعفر خیاط معہ چند نامی نامی
 سپہ سالاروں کے اس پہاڑ کی طرف بڑھا جس کے دامن میں آذین سپہ سالار
 بابک نے صفت آرائی کی تھی آذین نے جعفر کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے تیر باری شروع
 کی۔ ادھر سے جعفر کے ہمراہیوں نے بھی جواب ترکی بہ ترکی دیا۔ ادھر سے اُن
 تیر اندازوں نے تیر کا منہ آذین پر برسانا شروع کیا جو نصف شب سے اُس
 پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے آذین کے ہمراہی اس دو طرفہ مار سے گھبرا گئے
 وادی کی طرف بڑھے تو ٹیلہ کے نیچے سے دوسرے کمینگاہ والوں نے خارہ تنگنا
 تیروں سے استقبال کیا بابک نے عتوان جنگ بگڑا ہوا دیکھ کے افشین سے
 درخواست کی کہ مجھے اس قدر جنگ سے مہلت دیجئے کہ میں اپنے اہل و عیال
 کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دوں بعد ازاں قلعہ بزد کی کنجیاں میں آپ کے
 حوالہ کر دوں گا ہنوز یہ مرحلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ کسی نے افشین تک یہ خبر پہنچا دی
 کہ عسا کر اسلامیہ نے قلعہ بزد پر قبضہ کر لیا ہے اور بفضلہ تعالیٰ اسکے بلند میناروں
 پر امیر کی کامیابی کا پھر ہر اڑا دیا گیا افشین سجدہ شکر ادا کر کے قلعہ بزد میں داخل
 ہوا اور بابک کے محسراؤں میں آگ لگا دی جس قدر اسکے لشکر کے سامنے آئے

قتل کر ڈالے گئے عورتیں اور بچے قید کر لئے گئے مال و اسباب جو کچھ پایا لوٹ کے قریب مغرب اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا۔ اس کے مراجعت کے بعد بابک نے اپنے اہل و عیال کو دوسرے مقام میں منتقل کر دیا اور حسب قدر مال و اسباب اٹھا سکا اٹھا لیکیا۔ اس کے دوسرے دن پھر افشین قلعہ بند کے ملاحظہ کو آیا پہلے روز کی آتشزدگی سے جو مکانات بچ گئے تھے ان کو بھی جلو اویا اور بلوک ارمنیہ اور ان کے بطریقوں کو بابک کے بھاگنے کا حال تحریر کر کے اسکی گرفتاری کی سخت تاکید کی بعد اس کے کسی جاسوس نے آ کے یہ خبر دی کہ بابک اس وقت اس وادی میں ہے جس کا ایک کنارہ اذربجان سے ملحق ہے اور دوسرا کنارہ ارمنیہ تک پھیلا ہوا ہے افشین نے اسی وقت چند آدمیوں کو اس کی گرفتاری پر متعین کیا مگر گنجان درختوں اور جھاڑیوں نے ان لوگوں کی نظروں سے بابک کو بچا لیا اس اثناء میں خلیفہ معتصم نے بابک کے امان دینے کا حکم بھیج دیا افشین نے اس فرمان کو بابک کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو جو اسکے امن کا سند تھا حوالہ کر کے بابک کے پاس بھیجا بابک نے اس امان کو منظور نہ کیا بلکہ طیش میں آ کے دو ایک آدمیوں کو جو افشین کے لشکر کے تھے قتل کر ڈالا اور اس وادی سے معہ اپنے بھائی عبدالمد و معاویہ اور اپنی ماں کے بقصد ارمنیہ نکل کھڑا ہوا اتفاق سے کسی کی نظر پڑ گئی جو اسکی گرفتاری پر متعین کے گئے تھے اس نے اپنے سردار ابوالسفاح سے جا کے کہہ دیا ابوالسفاح نے تعاقب کا حکم دیدیا ایک چشمہ پر جا کے ان لوگوں نے گھیر لیا بابک سوار ہو کے بھاگ گیا مگر اسکی ماں اور اسکا بھائی معاویہ گرفتار ہو کے افشین کے پاس بھیج دیا گیا۔

بعد اس واقعہ کے بابک جبال ارمنیہ میں جا کے روپوش ہوا جاسوس اس کے پیچھے پیچھے تھے زاوراہ حتم ہو گیا تھا ایک شخص کو اپنے ہمراہیوں میں سے

کچھ روپیہ دیکے کھانا خریدنے کو بھیجا کسی افسر پولیس کی اس شخص پر نظر پڑ گئی
 چال ڈھال سے تاڑ گیا سہل بن سابط کے پاس کہلا بھیجا کہ ایک شخص اس شکل
 و صورت کا آیا ہے مجھے اُس پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ بابک کے ہمراہیوں میں سے
 ہے سہل بن سابط یہ سن کے دوڑ آیا اور اس شخص کے ساتھ ساتھ بابک کے
 پاس گیا۔ بابک کا چہرہ اسکو دیکھتے ہی فق ہو گیا۔ سہل بن سابط بابک کو بتلق
 و چا پوسی دم پٹی دیکے اپنے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اسکی اطلاع کردی
 افشین نے دو سو سالاروں کو بابک کے گرفتار کرنے پر مامور کیا روانگی کے وقت
 یہ ہدایت کردی کہ ابن سابط کی رائے پر چلنا ذرہ پھرا اسکی مخالفت نہ کرنا ابن
 سابط نے ان لوگوں کو قلعہ کے ایک جانب چھپا دیا اور بابک کو شکار کھیلنے کے
 حیلہ سے میدان کی طرف لے چلا۔ ان دونوں سپہ سالاروں نے موقع پا کے
 حالت غفلت میں بابک کو گرفتار کر لیا افشین کے پاس لائے ان لوگوں کے
 ہمراہ معاویہ بن سہل بن سابط بھی تھا افشین نے بابک کو قید کر دیا اور اس
 حسن خدمت کے صلے میں معاویہ بن سہل کو ایک ہزار درہم اور سہل کو ایک
 لاکھ درہم اور ایک پیٹی جو ہر نگار مرحمت فرمائی۔ بعد اسکے افشین کی طلبی پر
 عیسیٰ بن یوسف بن اسطقانوس والی بلقان نے عبدالقدیر اور بابک کو جو ایک
 مدت سے اسکے پاس پناہ گزین تھا افشین کے پاس بھیج دیا افشین نے بابک
 کے ساتھ اسکو بھی قید کر دیا اور ایک اطلاعی عرضداشت خلیفہ معتمد کی خدمت میں
 روانہ کر دی خلیفہ معتمد نے افشین کو معہ اُن دونوں کے سامرہ میں طلب فرمایا
 یہ واقعہ ماہ شوال ۲۲۲ھ کا ہے برزند سے سامرہ تک ہر منزل پر خلیفہ معتمد کے
 حکم کے مطابق افشین کی کمال عزت و احترام سے استقبال مشایعت کی جاتی
 تھی اور ایک قاصد خاص خلیفہ کا معہ خلعت فاخرہ اور ایک راس عربی گھوڑے

کے افسین سے ملتا تھا جس وقت سامرہ کے قریب پہونچا خلیفہ معتصم کا بیٹا واثق
 معہ سرداران و اراکین سلطنت کے استقبال کے غرض سے باہر آیا اور کمال
 توقیر سے قصر مطیرہ میں ٹھہرایا افسین نے اسی قصر میں بابک کو بھی اپنی زیر حرا
 رکھا خلیفہ معتصم کے حکم سے افسین کے سر پر تاج رکھا گیا قیمتی خلعت پہنائی گئی جس
 لاکھ دراہم بطور صلے کے مرحمت فرمائے اور دس لاکھ دراہم اسکے لشکریوں
 میں تقسیم کئے گئے یہ واقعہ ماہ صفر ۲۲۳ھ کا ہے اسی زمانہ میں جبکہ بابک
 قصر مطیرہ میں مقید تھا احمد بن ابی داؤد بابک کے دیکھنے کو آیا تھوڑی دیر تک
 بہ نظر غور دیکھتا رہا بعد ازاں چند باتیں کر کے واپس گیا بعدہ ایک روز خلیفہ
 معتصم خود تشریف لایا سر سے پاؤں تک دیکھ کے لوٹ گیا اگلے دن خلیفہ
 دربار عام میں رونق افروز ہوا لوگوں کو حسب مراتب دربار عام سے قصر مطیرہ
 تک بٹھایا اور بابک کو ہاتھی پر سوار کرا کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا
 جس وقت بابک دربار شاہی میں پہونچا خلیفہ معتصم نے حکم دیا کہ ہاتھ پاؤں
 کاٹ کے اسکو ذبح کر ڈالو اس حکم کی ان لوگوں نے کمال تیزی سے
 تعمیل کی جو اس کام پر پہلے سے مامور تھے سر کو خراسان بھیج دیا لاشہ کو
 سامرہ میں صلیب پر چڑھایا اور اسکے بھائی عبدالسد کو بغداد میں اسحاق
 بن ابراہیم کے پاس روانہ کر دیا تاکہ اس کے ساتھ بھی اس قسم کا برتاؤ
 کیا جائے۔

افسین نے اس مہم میں بہ زمانہ حصار بابک علاوہ غلہ اور مصارف سفر
 و قیام کے جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا دس ہزار دراہم یومیہ خرچ
 کرتا تھا اور جس دن اپنے مورچے میں رہتا پانچ ہزار۔ بابک نے اس
 بیس برس کی مدت میں ایک لاکھ پچپن ہزار آدمیوں کو قتل کیا سپہ سالاروں

میں سے یحییٰ بن معاذ، عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد، احمد بن جنید، زریق بن علی بن صدقہ، محمد بن حمید طوسی اور ابراہیم بن لیث کو ہزیمت دی تین ہزار تین سو آدمی اس کے ہمراہ قید کئے گئے اور سات ہزار چھ سو نفر مسلمان عورتیں اور انکے بچے اس کے پنجہ غضب سے چھوڑائے گئے یہ لوگ ایک احاطہ میں ٹھہرا دئے گئے جو شخص ان لوگوں میں سے کسی کا والی و وارث آتا اس سے شہادت لیجاتی اور بعد ثبوت ولایت و وراثت حوالہ کر دیا جاتا۔ اسی معرکہ میں افشین نے بابک کے اہل و عیال سے سترہ نفر مرد اور تیس نفر عورت کو گرفتار کیا تھا۔

فتح عموریہ ۲۳۳ھ میں نوفل بن میخائیل والی روم نے بلاد اسلامیہ کی طرف قدم بڑھائے اور حالت غفلت میں اہل زبطہ پر پہنچ کے حملہ کر دیا۔ اس جرأت و جسارت کی یہ وجہ ہوئی کہ بابک خرمی جو وقت اپنی کامیابی سے نوا امید ہو کے بد نصیبی اور بد بختی کے میدان میں ہر چہاں طرف سے مگر گیا اس وقت اس نے اس خیال سے کہ خلیفہ مقتسم کی جنگی قوت دو لڑائیوں کی طرف منقسم ہو جائے اور عجب نہیں یہی حیلہ میری جانبری کا ہو نوفل بن میخائیل والی روم کو لکھ بھیجا کہ خلیفہ مقتسم نے میرے مقابلہ پر اپنا کل لشکر بھیجا ہے امر او فسران فوج کا کیا ذکر ہے آپے خیاط جعفر بن دینار اور طباطبائی کو بھی میری مہم پر روانہ کر دیا ہے یہ موقع اچھا ہے تم اسکو مقتنیات سے شمار کر کے بلاد اسلامیہ پر چڑھائی کر دو اب کوئی شخص دارالخلافت میں ایسا نہیں باقی رہا جو تمہارے مقابلہ کا قصد بھی کر سکے۔ نوفل اس امر سے مطلع ہو کے جامہ سے باہر ہو گیا ایک لاکھ کی جمعیت سے بلاد اسلامیہ پر دھاوا کر دیا اس لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جن کو اسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے اس سے پیشتر شکست دی

تھی اور وہ اپنی جانیں بچا کے بلا دروم چلے گئے تھے نوفل نے زبطہ پر پہنچنے
 شیخون مارا مردوں میں سے جو مقابلہ پر آیا ان کو گرفتار کیا قتل کر ڈالا عورتوں
 اوزبچوں کو قید کر لیا۔ بعد ازاں ملطیہ کی جانب ٹوٹا اور اہل ملطیہ کے ساتھ
 بھی اسی طرح پیش آیا۔ رفتہ رفتہ خلیفہ معتصم تک یہ خبر پہنچی بہت شاق گزارا
 کسی نے حاضرین میں سے واقعات زبطہ و ملطیہ بیان کرتے ہوئے یہ بیا
 کیا کہ ایک ہاشمیہ عورت کو رومی کشاں کشاں لئے جاتے تھے اور وہ ^{مقتصماہ}
 و ^{مقتصماہ} کہتی جاتی تھی خلیفہ معتصم اس پر درو قصہ کو سن کے بیقرار ہو گیا
 بٹیک بٹیک کہہ کے سر پر خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا قصر خلافت میں کوچ
 کی منادی کرادی۔ گھوڑے پر سوار ہو کے دارالعوام کی جانب آیا امراء لشکر
 کو مجتمع کر کے قاضی بغداد عبدالرحمن بن اسحاق اور شعبہ بن سہل کو معہ تین سو
 تیس معززین علماء و صلحاء کے طلب کیا اور اپنے کل مال و اسباب کی ایک فہر
 مکمل ظیاری کی ایک ثلث اپنے لڑکوں کو، ایک ثلث خادموں کو دیا اور ایک
 ثلث وقت لوجہ اللہ کیا دستاویز تقسیم کا تملکہ کرا کے ان لوگوں سے لکھوائی
 اور لشکر آراستہ و مرتب کرنے کے غرض سے دوسری جمادی الاول ۲۲۳ھ
 کو غربی و جبلہ کی طرف کوچ کیا۔ نہایت تھوڑی مدت میں مجاہدین اور شاہی
 لشکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ عیسیٰ بن عنبسہ اور عمر فرغانی کو معہ ایک
 گروہ سپہ سالاران لشکر کے اپنی روانگی سے پیشتر اہل زبطہ کی امداد کو روانہ
 کیا۔ اتفاق سے یہ لوگ زبطہ میں اسوقت داخل ہوئے جبکہ رومی اسکو
 ویران و غارت کر کے کوچ کر گئے تھے چارناچار بانتظار حکم ثانی قیام کر دیا
 اہل زبطہ رومیوں کے طوفان بے امتیازی فرو ہونے اور عسا کر اسلامیہ
 کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ زبطہ میں آ کے آباد ہونے لگے اس اثناء میں

عساکر اسلامی کو بمقابلہ بابک فتحیابی حاصل ہو گئی خلیفہ معتصم نے اپنے مصاحبین
 سے دریافت فرمایا "رومیوں کے نزدیک کون شہر عمدہ اور مہتمم بالشان ہے؟"
 عرض کیا "عموریہ" خلیفہ معتصم نے یہ سنتے ہی طیارہ کا حکم صادر فرمایا اور
 کمال تیزی و عجلت سے اس قدر ساز و سامان جنگ اور آلات حرب مہیا
 کئے کہ اس سے پیشتر کسی جہاد میں نہیں مہیا کئے تھے مقدمتہ الجیش پر ایشیا
 کو اور اس کے بعد محمد بن ابراہیم بن مصعب کو ہیمینہ پر ایتاخ کو عیسرہ پر جعفر بن
 دینار خیاط کو اور قلب میں عجیف بن عنبہ کو مامور کر کے کوچ کر دیا بلا دروم
 میں داخل ہوا مقام سلوقیہ میں پہنچنے کے نہر سن پر ڈیرے ڈالنے کے یہ مقام
 طرسہ سے ایک یوم کی مسافت پر واقع تھا۔ نہر سن پر پہنچنے کے دوسرے
 دن انشین کو سردترث سے سروج کی طرف روانہ کیا اور اشناس کو یہ ہدایت
 کر کے کہ صفصاف میں پہنچنے کے لشکر ہایوں کے آنے کا انتظار کرنا حدود طرسہ
 کی جانب بڑھنے کا حکم دیا۔ اشناس کی روانگی کے بعد وصیف کو روانہ کیا اور
 جبکہ چھ راتیں ماہ رجب کی باقی رہ گئی تھیں خود بھی کوچ کر دیا اس اثناء میں
 چاسوسوں کے ذریعہ سے یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ روم اسلامی مقدمتہ الجیش
 پر شجون مارنے والا ہے خلیفہ معتصم نے اشناس کو لکھ بھیجا "تم کو جس مقام
 پر میرا فرمان ملے اسی مقام پر تین یوم کے لئے قیام کر دینا۔ اس عرصہ میں
 آپہو سچوٹگا" بعد اسکے ایک دوسرا فرمان اس مضمون کا وارو ہوا کہ تم اپنے
 لشکر کے سرداروں میں سے کسی ہوشیار سردار کو ایک دستہ فوج کے ساتھ
 والی روم اور رومی لشکر کے حالات دریافت کرنے پر مامور کرو" اشناس
 نے عمر فرغانی کو دو سو سواروں کی جمعیت سے اس حکم کی تعمیل پر متعین
 کیا۔ عمر فرغانی نے انقرہ میں پہنچنے کے اپنے ہمراہیوں کو رومیوں کی جستجو میں

پھیلا دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک جماعت رومیوں کی عمر فرغانی کی خدمت میں حاضر کی گئی جن میں سے بعض لشکر روم کے ملازم تھے اور بعض انقرہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ”والی روم ایک مہینہ سے بانتظارِ مقدمتہ الجیش فوجِ اسلامی پڑاؤ کئے ہوئے تھا تیسرے دن کا ذکر ہے کہ رومی بادشاہ یہ خبر پانے کے عساکرِ اسلامیہ (یعنی افشین کا لشکر) بلا دارمینیہ کی جانب سے مالک محروسہ روم میں داخل ہو گیا ہے اپنے ماہموزاد بھائی کو اپنے لشکر پر مقرر کر کے ارمینیہ کی جانب کوچ کر گیا“ عمر فرغانی ان لوگوں کو شناس کے پاس لے آیا اور شناس نے براہِ راست خلیفہ معتمد کی خدمت میں روانہ کر دیا خلیفہ معتمد نے ایک خط افشین کے نام اس مضمون کا لکھا ”تم تا صدور حکم ثانی قیام کرو بادشاہ روم تم پر حملہ کرنے کے غرض سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے“ اور افشین تک اس خط کے پہنچا دینے کا دس ہزار درہم صلہ مقرر کیا اتفاق یہ کہ افشین تک یہ خط نہ پہنچ سکا اس وجہ سے کہ اقصائے بلاد روم میں افشین داخل ہو گیا تھا دوسرا فرمانِ خلیفہ معتمد نے شناس کے نام مشعرِ حملہ کرنے کا روانہ کیا شناس نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی خلیفہ معتمد اپنا لشکر ظفر پیکر لے ہوئے اسکے پیچھے پیچھے تھا جس وقت انقرہ کو تین منزل باقی رہ گئی شناس نے رومیوں کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے قتل کرنے لگا ان میں سے ایک بوڑھے عیسائی نے دست بستہ عرض کیا ”تم میرے قتل سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے اس وقت تم اور تمہارا لشکر سد و غلہ کے نہ پہنچنے سے ایک مصیبت میں گرفتار رہے تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہیں ایک ایسے گروہ کا پتہ بتلا دوں جو کہ انقرہ سے بخوفِ جنگ بھاگ گیا ہے اور اس کے پاس غلہ کی کافی مقدار ہے“ شناس نے مالک بن کرد کو پانچ سو سواروں کی جمعیت سے اس بوڑھے عیسائی کے ہمراہ کر دیا

اور یہ ہدایت کر دی کہ جب یہ بوڑھا عیسائی اہل انقرہ کا پتہ صحیح صحیح بتا دے تو
 رہا کر دینا۔ بوڑھے عیسائی نے نہ امید رہائی اہل انقرہ کے سر پر لیجا کے مالک بن
 کر دو کھڑا کر دیا مالک بن کر دے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا غلہ و اسباب
 جو کچھ ان کے پاس تھا لوٹ لیا ان لوگوں کے ساتھ مجروحین بھی تھے جو بادشاہ
 روم کے ہمراہ جنگ افشین میں شریک تھے۔ ان مجروحوں نے عند اللہ ^{ستفسار}
 بیان کیا کہ ہم لوگ بادشاہ روم کے رکاب میں تھے جس وقت یہ خبر پہنچی کہ
 کہ عساکر اسلامیہ اطراف ارمینیا سے بلاد روم میں داخل ہو گیا ہے بادشاہ
 روم نے اپنے اعزہ میں سے ایک شخص کو اپنے لشکر کا سردار بنا کے ارمینیا
 کی طرف کوچ کر دیا ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے اتفاق وقت
 ہم لوگوں نے مسلمانوں کو اس وقت جا کے گھیر لیا جبکہ وہ نماز صبح ادا کرنے میں
 مشغول تھے ہم لوگوں نے ان کو لڑکے پسا کر دیا ان کے جنگ آوروں کو
 قتل کر ڈالا اور باقیماندہ کے تعاقب میں ہماری فوج پھیل گئی دوپہر کے وقت
 وہ لوگ پھر واپس آئے لڑائی ہوئی وہ لوگ ہم پر غالب آئے ہمارے مورچہ کو
 ہمارے قبضہ سے نکال کے خیموں کو جلا دیا ہمارا بادشاہ ہم سے جدا ہو گیا
 ہم لوگ میدان جنگ سے شکست کھا کے بھاگ کھڑے ہوئے ٹھو کریں
 کھاتے ہوئے اُس کیمپ کی طرف آئے جس پر بادشاہ روم نے اپنے
 ایک عزیز کو مقرر کیا تھا۔ یہاں یہ گل کھلا ہوا تھا کہ کل لشکر اپنے سردار سے
 بگڑ گیا تھا کیمپ میں ہر چہاں طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا اگلے دن
 ہمارا بادشاہ بھی آپہونچا۔ ہنگامہ فرو ہو گیا بادشاہ نے بالزام بغاوت اپنے
 نائب کو سزائے قتل دی اور اپنے تمام مالک مجروسہ میں ایک گشتی فرمان
 اس مضمون کا بھیج دیا کہ جس طرف منہسز میں جائیں ان کو مار پیٹ کے قلاں

مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کے غرض سے مجتمع کرو اور انتظاماً اپنے ایک سردار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے انقرہ کے بچانے پر مامور کیا یہ سردار انقرہ میں اُس وقت پہنچا جبکہ اہل انقرہ مسلمانوں کے خوف سے جلا وطن ہو گئے تھے بادشاہ روم نے اس سردار کو عموریہ کی طرف چلے جانے کا حکم دیا "مالک بن کروان" حالتوں کو سن کے باغ باغ ہو گیا مال غنیمت اور قیدیوں کو لئے ہوئے اشناس کے پاس آیا اشناس نے اُس بوڑھے عیسائی کو رہا کر دیا اور خلیفہ معتصم کی خدمت میں ان واقعات کی اطلاع کر دی۔ ان کے بعد اشناس کی عرضداشت مشعر سالہا و صافیت آئی۔ یہ واقعہ جسکا تذکرہ اوپر کیا گیا ماہ شعبان کی پچیسویں تاریخ کا ہے عرضداشت پہنچنے کے دوسرے دن اشناس نے انقرہ میں خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا تیسرے دن خلیفہ معتصم نے بقصد جنگ کوچ کیا۔ مہینہ پراشناس، میسرہ پراشناس کو مقرر کیا اور خود بنفس نفیس قلب میں رہا ہر لشکر دوسرے لشکر سے دو دو کوس کے فاصلہ پر رکھا گیا اور مختلف راستوں سے عموریہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ مابین انقرہ و عموریہ جسقدر قصبات و دیہات ملیں ان کو ویران و مسمار کر دینا۔ چنانچہ سب پہلے عموریہ پراشناس پہنچا بعد ازاں خلیفہ معتصم بعد ازاں اشناس۔ خلیفہ معتصم نے عموریہ کو غور و تحقیق کی نظروں سے دیکھ کے ہر ایک سمت کو اپنے سپہ سالاروں پر تقسیم کر دیا ہنوز لڑائی نہیں شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے جسکو عیسائیوں نے عیسائی بنا ڈالا تھا خلیفہ معتصم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک خفیہ راستہ کا پتہ بتایا جس پر پتھر کی دیوار بنی ہوئی تھی اور درحقیقت وہ دیوار کھوکھلی تھی خلیفہ معتصم نے اسی سمت میں اپنا مورچہ قائم کیا مجتہدین نے سب کو اس میں دو ہی چار پتھر دیوار پر پڑنے پائے تھے کہ دیوار میں ایک بڑا سا روزن ہو گیا بطریق باطیس اور

والی قلعہ عموریہ نے ایک عرضی بادشاہ روم کی خدمت میں روانہ کی اتفاق سے یہ
 عرضی مسلمانوں کے ہاتھ پڑ گئی عرضی میں لکھا ہوا تھا کہ چونکہ شہر پناہ کی دیوار شمالی
 گر گئی ہے اور عسا کر اسلامیہ عنقریب عموریہ میں داخل ہوا چاہتا ہے اس وجہ سے
 بطریق باطین اور والی قلعہ آج شب کے وقت نکلنے کے مسلمانوں کے لشکر
 سے لڑتے بھڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہونگے "خلیفہ معتمد نے
 سرداران لشکر کو اس سے مطلع کر کے محافظت کی سخت تاکید کی بعد ازاں دونوں
 برجوں کی درمیانی دیوار پر اسقدر سنگ باری کی گئی کہ دیوار ٹوٹ کے زمین پر
 آ رہی شہر پناہ کی دیوار کے پائین میں جو خندق تھی اُسکو عسا کر اسلامیہ نے
 جانوروں کی کہالوں سے جس میں مٹی بھری ہوئی تھی پاٹ دیا اور بڑے بڑے
 متعدد دیابہ طیار کر کے ہر دیابہ میں دس دس آدمیوں کو مامور کیا اہل عموریہ
 نے دیابوں پر آتشباری شروع کی اور اسلامی فوجیں بھی حملہ کرتی ہوئی قلعہ
 کی طرف بڑھیں اہل دیابہ بڑی جدوجہد سے خندق عبور کر کے دیوار تک
 پہنچ گئے دونوں حریف جی توڑ کے لڑنے لگے تمام رات ایک دوسرے پر
 آگ اور پتھر برساتا رہا اگلے دن اسلامی لشکر نے منجیقوں کو آگے بڑھایا اور
 سیرٹھیاں لیکے لڑتا ہوا قلعہ کی طرف بڑھا راستہ تنگ ہونے کے وجہ سے
 باوجود خونریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی دوسرے دن پھر
 شناس نے لڑائی شروع کی منجیقوں سے سنگ باری ہونے لگی افسین اور
 خلیفہ معتمد نے بھی دوسرے طرف سے حملہ کیا تمام دن بڑے زور و شور سے
 جنگ ہوتی رہی نہ تو اہل قلعہ عسا کر اسلامیہ کو پیچھے ہٹا سکے اور نہ عسا کر اسلامیہ
 کا ہاتھ قلعہ تک پہنچ سکا تیسرے دن خلیفہ معتمد کی طرف سے لڑائی کا آغاز ہوا
 ایساخ نے دوسرے جانب سے حملہ کیا افسین قلعہ کی طرف بڑھا آدمیوں نے

دروازے قلعہ کے بند کر کے فضیلوں اور برجوں سے پتھر اور تیر کا مینہ برسانے
 لگے مگر اسلامی لشکر کمال جوش و مردانگی سے بڑھتا جاتا تھا لڑائی کا بازار گرم تھا
 رات تک لڑائی اسی زور و شور سے جاری رہی جس طرح سے شروع ہوئی تھی
 اس معرکہ میں اہل عموریہ زیادہ کام آئے زخمیوں کی تعداد تندرستوں سے دو
 ہو گئی۔ جو بطریق اس سمت کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور
 سرداروں سے زخمیوں اور مقتولوں کی کثرت کی شکایت کی امداد کا خواستگا
 ہوا ان لوگوں نے انکار کر دیا تب اُس نے خلیفہ معتمد سے امن کی درخواست
 کی خلیفہ معتمد نے امان دیدی اگلے دن صبح کو دروازہ قلعہ کا کھول کے خلیفہ معتمد
 کی خدمت میں چلا آیا اس بطریق کا نام ”وندوا“ تھا اس مابین میں وندوا خلیفہ
 معتمد سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا عبدالوہاب بن علی نے مسلمانوں کو اشارہ کر کے
 سب کے سب اسی راستہ سے جو سنگباری کے صدمہ سے دیوار میں ہو گیا تھا
 شہر میں گھس پڑے وندوا چکا چوندھ ہو کے دیکھنے لگا خلیفہ معتمد نے تسلی
 دیکے کہا ”گھبراؤ نہیں تمہاری خواہش کے مطابق کام کیا جائے گا“ وندوا
 خاموش ہو گیا اور اسلامی فوجیں جوق جوق شہر میں داخل ہو گئیں رومیوں
 نے کلیسہ میں جا کے پناہ لی مسلمانوں نے آگ لگا دی۔ باطیس بطریق قلعہ کے
 ایک برج میں چھپ رہا تا کہ خلیفہ معتمد کے امان دینے پر برج سے نکلا جس طرف
 نظر جاتی تھی ایک ایک مسلمان سپاہی پانچ پانچ دس دس قیدیوں کو بھیر بکریوں
 کی طرح ہانکے ہوئے لاتا تھا تھوڑی دیر میں ایک جم غفیر قیدیوں کا مجمع ہو گیا
 خلیفہ معتمد نے شرفا اور رؤساء کو علیحدہ کر کے بقیہ لوگوں کے قتل کا حکم صادر
 فرمایا اور مال غنیمت کو پانچ دن میں جس قدر فروخت کر سکا فروخت کیا اور باقی مال
 کو جلا دیا اثنائے بیچ میں ایک روز بعض لشکریوں نے مال غنیمت کو لوٹنا شروع

کیا خلیفہ معتصم تک یہ خبر پہنچی سوار ہو کے لشکریوں کی طرف آیا لشکر خلیفہ معتصم کی صورت دیکھتے ہی ٹوٹنے سے باز رہے اور اسکے حکم سے دم کے دم میں عموریہ کا مضبوط و مستحکم قلعہ کو منہدم کر کے جلا دیا۔ اس خدا داد کامیابی کے بعد خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو اپنے سپہ سالاروں میں تقسیم کر کے طرسوس کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ معتصم اس قلعہ کا بچپن دن چھٹی رمضان سے آخر شوال تک محاصرہ کئے رہا اس زمانہ سے نوفل رومیوں پر حکومت کرنے لگا تا آنکہ ۲۲۹ھ عہد خلافت خلیفہ واثق میں انتقال کیا اس وقت رومیوں نے بجائے اسکے بیٹے میخائیل کو بصرہ پرستی اسکی ماں ندورہ کے تخت نشین کیا اس نے چھ برس حکومت کی بعد ازاں اسکے لڑکے میخائیل نے کسی مصاحب سے منہم کر کے خانہ نشین کر دیا۔

عباس بن مامول کی گرفتاری اور موت

چونکہ خلیفہ معتصم افشین کو عجیف بن عنبہ پر ہمیشہ تفضیل دیا کرتا تھا اسی وجہ سے جب وقت عجیف کو زبطہ

کی طرف روانہ کیا خرچ کرنے کی آزادی نہ دی جیسا کہ افشین کو خود مختاری اور آزادی دیدی تھی علاوہ بریں اکثر اوقات خلیفہ معتصم عجیف کے حرکات و سکنات اور افعال پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا انہیں وجوہات سے عجیف کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی بغاوت اور بد عہدی کی ہوا دلخ میں سمائی عباس بن مامول اسے ملاقات کی باتوں باتوں کہنے لگا ”آپ نے خلیفہ مامول کے وفات پر بڑی غلطی کی ناحق خاموشی اختیار فرمائی آپ مستحق خلافت ہیں اگر آپ ذرا سا اشارہ کرتے تو لوگ آپ ہی کی بیعت کرتے“ عباس بن مامول نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ اس غلطی کے دفعیہ کا اقرار کیا اور عجیف کی اتفاق رائے سے اپنے رازداروں میں سے ایک شخص سمرقندی نامی کو جو عبداللہ بن واصلح کا

قرابت دار تھا اس امر پر مقرر کیا کہ امراء و وزراء لشکر کو درپردہ خلیفہ معتمد سے بطن اور عباس بن ماموں کے طرف مایل کیا کرے تھوڑے دنوں میں سپہ سالاران لشکر اور مقربین بارگاہ خلافت کا ایک گروہ عباس بن ماموں کی جانب مایل ہو گیا اور اسکی خلافت کی بیعت کر لی اور باہم یہ عہد و پیمان ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ہمراہی سپہ سالار کو خواہ وہ خلیفہ معتمد کے اسٹاف کا ہو یا افشین و اسناس کے ہمراہیوں میں سے ہو قتل کر ڈالے عجیف نے حدود بلاد روم میں داخل ہونے کے وقت عباس بن ماموں سے کہا ”یہ موقع اچھا ہے آؤ ہم لوگ اپنے عہد و اقرار کو پورا کر کے بغداد کو واپس جائیں“ عباس بن ماموں نے انکاری جواب دیا پھر جب عموریہ مفتوح ہوا اسوقت عجیف نے لوگوں کو مال غنیمت کے لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جس وقت خلیفہ معتمد سوار ہو کے تمہارے طرف آئے وقتاً حمله کروینا چنانچہ لوگوں نے عجیف کی پہلی رائے پر عمل کیا مگر اس رائے کی دوسری شق پر عمل درآمد کرنے کی جرأت نہ ہوئی فرغانی کا ایک نو عمر عزیز خلیفہ معتمد کے خواصوں میں تھا اتفاق سے اسی شب کو یہ لڑکا فرغانی کے ہمنشینوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں مار رہا تھا برسیل تذکرہ لوگوں کے مال غنیمت لوٹنے اور خلیفہ معتمد کے سوار ہونے کے آنے کا قصہ کہنے لگا فرغانی نے روک کے کہا ”صاحبزادہ! تم اکثر اپنے خیمہ میں رہا کرو امیر المومنین کی خدمت میں کم حاضر ہوا کرو اگر کسی وقت شور و غوغا سناؤ دیکھو گھبرا کے نکل نہ آنا کیونکہ تم ابھی جنازہ اور سادہ لوح ہوئے

ان واقعات کے بعد خلیفہ معتمد نے اپنے سرحدی بلاؤں کی جانب کوچ کیا اثناء راہ میں اسناس اور عمر فرغانی و احمد بن خلیل سے ان بن ہو گئی اسناس نے ان دونوں کو سخت و سست کلمات سے مخاطب کیا اور بارگاہ خلافت میں

حاضر ہو کے ان دونوں کی شکایتیں جڑویں خلیفہ معتمد نے عمر فرغانی اور احمد بن خلیل کو طلب کر کے بغرض تنبیہہ شناس کے حوالہ کر دیا شناس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا جس وقت خلیفہ معتمد صفحہ صاف وارو ہوا اُس لڑکے نے جو فرغانی کا عزیز تھا خلیفہ معتمد سے اس شب کا قصہ بیان کیا خلیفہ معتمد نے بتا کر شناس کے پاس بھیجا کہ فرغانی کو گرفتار کر لاؤ تاکہ اُس سے اُس شب کا واقعہ دریافت کیا جائے فرغانی نے بیہوشی کا حیلہ کر کے واقعہ بیان کرنے سے انکار کیا خلیفہ معتمد نے فرغانی کو ایساخ کے اور احمد بن خلیل کو پھر شناس کے حوالہ کر دیا احمد بن خلیل نے شناس سے عباس بن ماموں کے حالات اور سپہ سالاروں کی بیعت کرنے کا اور حرث سمرقندی کے حالات بتلائے شناس نے حرث کو گرفتار کر کے خلیفہ معتمد کی خدمت میں بھیج دیا (حرث اس وقت مقدمتہ الجیش میں تھا) حرث نے کل واقعات از اول تا آخر عرض کر دیے خلیفہ معتمد نے خلعت و انعام دیکے رہا کر دیا اور اس وقت سپہ سالاران لشکر سے بوجہ کثرت جماعت متعرض نہ ہوا البتہ عباس بن ماموں کو طلب کر کے نفس واقعہ کو دریافت کیا عباس بن ماموں نے کل حالات عرض کر دیے خلیفہ معتمد نے افسین کے زیر نگرانی قید کر دیا بعد اسکے سبھے جھاڑ کے سپہ سالاروں کے پیچھے پڑ گیا کسی کو قید کیا کسی کو قتل کیا منجملہ ان لوگوں کے سب کے پہلے مشاء بن سہیل کو سزا بے موت دی۔ منج میں پہونچکے عباس بن ماموں نے کھانا طلب کیا کھانا دیا گیا مگر پانی سے ملاقات نہ ہونے پانی کھانا کھانے کے بعد ایک بورہ میں بھر کر سی دیا دم گھٹ کے مر گیا نصیبین میں پہونچکے خلیفہ معتمد نے ایک گڑھا کھدا کے عمر فرغانی کو زندہ دفن کر دیا موصل پہونچا تو عجیب کو اسی طرح مارا جس طرح عباس کی زندگی کا قاتلہ کیا تھا عرض رفتہ رفتہ کل سپہ سالاروں کو

جنھوں نے عباس بن ماموں کی بیعت کی تھی قتل کر ڈالا اور عباس بن ماموں کو
عباس لعین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ سامرہ میں داخل ہوتے ہی خلیفہ ماموں
کی بقیہ اولاد کو گرفتار کر کے ایک مکان میں قید کر دیا یہاں تک کہ وہ سب
مر گئے۔

مازیار کی مخالفت مازیار بن قارن بن وندھرمز والی طبرستان اور عبداللہ بن طاہر
سے کسی معاملہ میں ان بن ہو گئی مازیار نے کہلا بھیجا کہ میں تمکو خراج
نہ دوں گا تمہارے سوا بارگاہ خلافت سے جو کوئی آئے گا اسکو خراج دوں گا
عبداللہ بن طاہر نے خراج کے وصول کرنے میں سختی کی مازیار بگڑ گیا فریقین کی
کدورتوں نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کر لی عبداللہ بن طاہر نے مازیار
کی شکایات لکھ لکھ کے خلیفہ مقتصم کا مزاج مازیار کی جانب سے برہم کر دیا فتنہ
کو جسوقت مہم بابک میں کامیابی ہوئی اور خلیفہ مقتصم کے نظروں میں اس کی توقیر
بڑھ گئی اسوقت گورنری خراسان کی طبع دامنگیر ہوئی مازیار سے خط و کتابت
شروع کر دی اور وقتاً فوقتاً بوجہ عداوت عبداللہ بن طاہر بغاوت و سرکشی پر
ابھارنے لگا اس ظن فاسد پر کہ عبداللہ بن طاہر کو اس سے لڑنے کی جرأت
نہ ہوگی خواہ مخواہ بارگاہ خلافت سے مجھے خراسان کی سند گورنری مرحمت ہوگی
اور جنگ مازیار پر بھیجا جاؤنگا یہی ذریعہ خراسان پر میرے غالب اور متصرف ہونیکا
ہوگا۔ مازیار اس دم پٹی میں آ کے باغی ہو گیا لوگوں سے بچر واکراہ اپنی بیعت لی۔
خراج جو ایک سال میں وصول ہوتا تھا ایک مہینہ کے اندر وصول کر لیا آمل اور
ساریہ کے شہر پناہوں کو مسمار کر کے وہاں کے رہنے والوں کو ایک پہاڑ کی طرف
جلا وطن کر دیا جو مابین ساریہ و آمل کے واقع اور ہرمز آباد کے نام سے موسوم
تھا ان شہروں کی شہر پناہوں کے توڑنے کے بعد مازیار کے نامی سپہ سالار

سرخاستان نے طہیس سے دریاتک جو تین میل کے فاصلہ پر تھا اس شہر پناہ کو دست
 کرایا جسکو شاہان فارس نے ترکوں کے دستبرد سے طبرستان کے بچانے کو بنوایا
 تھا اور اس شہر پناہ کے ہر چار طرف عمیق خندق کھدوائی اہل جرجان اس
 طیاری کو دیکھ کے گھبرا گئے بخوف جان اپنے اپنے مکانات کو چھوڑ کے نیشاپور
 چلے گئے۔ عبدالسد بن طاہر نے جرجان کی حفاظت کی غرض سے ایک عظیم الشان
 لشکر کے ساتھ اپنے چچا حسن بن حسین کو روانہ کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ اسی خندق
 پر اپنا مورچہ قائم کرنا جسکو سرخاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسرا لشکر سہرا فری
 حیان بن جبیلہ قومس کی جانب بھیجا حیان بن جبیلہ نے حسب ہدایت عبدالسد بن
 طاہر جبال شروین پر صف آرائی کی دربار خلافت تک یہ خبر پہنچی تو خلیفہ معتمد
 نے دارالخلافت بغداد سے متعدد سپہ سالاروں کو اس شہر انگیز طوفان کے
 فرو کرنے کو روانہ کیا محمد بن ابراہیم بن مصعب کو براہ راست سرخاستان کی جانب
 بھیجا منصور بن حسن والی دناوند کورے کی طرف سے طبرستان میں داخل ہونے کا
 حکم دیا ابوالسلج کو دناوند کی حفاظت پر مامور کیا غرض عساکر شاہی نے ہر چار طرف
 سے سرخاستان کو گھیر لیا حسن بن حسین اور سرخاستان کے لشکروں میں ایک خندق
 حد فاصل تھی اکثر اوقات لشکریوں میں ہنسی مذاق ہوا کرتا حسن بن حسین کے لشکر
 ایک روز اپنے سرداروں سے چھپ کے سرخاستان کے مورچہ میں گھس گئے
 حسن بن حسین کو اطلاع ہوئی تو اس خوف سے کہ مبادا میرے لشکر کی کسی ناگہانی
 مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں سوار ہو کے چلاتا ہوا دوڑا اس کے لشکریوں سے
 جب یہ دیکھا کہ حسن بن حسین غصہ میں بھرا ہوا دوڑا آتا ہے اپنا پھریرہ سرخاستان
 کے مورچہ پر اڑا دیا سرخاستان اسوقت حمام میں تھا یہ سن کے کہ حسن بن حسین کا
 لشکر خندق عبور کر کے لشکر گاہ میں گھس آیا ہے گھبرا کے بھاگ کھڑا ہوا حسن بن حسین

کے لشکریوں نے سرخاستان کے لشکرگاہ پر باطینان تمام قبضہ کر لیا اور اس کے بھائی شہر یار کو گرفتار کر کے حسن بن حسین کے روبرو پیش کر دیا حسن بن حسین نے اُس کے قتل کا حکم دیدیا بعد اسکے پانچ کوس کے فاصلہ پر سرخاستان کو جا کے گرفتار کیا اور پانچ ہجیر حسن بن حسین کے پاس لائے حسن بن حسین نے اسکی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد حیان بن جبیلہ نے قارن بن شہر یار برادرزادہ مازیار کو خط و کتابت کر کے بلا لیا اور اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ تم بلا جنگ و خونریزی شہر ساریہ کو حد و درجان تک ہمارے حوالہ کر دو ہم تمکو اس کے معاوضہ میں وہ بلاد دینکے جو تمہارے آباؤ اجداد کے ہیں قارن اسپر راضی ہو گیا حیان نے عبدالسدین طاہر کو اس سے مطلع کیا عبدالسدین طاہر نے منظور کر لیا حیان نے قارن کو اس منظوری کی اطلاع دی چونکہ قارن تنہا اس مصالحت کو خلاف مرضی اپنے سپہ سالاروں کے نہ کر سکتا تھا دعوت کے بہانہ سے سمجھوں کو اپنے خیمہ میں بلایا انہیں لوگوں میں قارن کا چچا عبدالسدین قارن بھی تھا جب سمجھوں نے باطینان تمام و لے خوف و خطر اپنے اپنے ہتھیاروں کو کھول کے رکھ دیا اور کھانے میں مشغول ہو گئے تو قارن نے سمجھوں کو گرفتار کر کے حیان کے پاس بھیج دیا حیان نے ان لوگوں کی گرفتاری پر لشکر کو طیاری کا حکم دیا سوار ہو کے جبال قارن میں گیا اور بلا جنگ و جدال قبضہ کر لیا مازیار کو اس واقعہ سے سخت صدمہ ہوا جوش بغاوت فرو ہو گیا ہاتھ کا طوطی اُڑ گیا کچھ بن نہ پڑتا تھا اسکے بھائی قومہ یار نے اسے وی کہ تم اپنے ہمراہیوں کو رہا کر دو اپنے اپنے وطنوں کو چلے جائیں لڑائی تو گڑھی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی جانب سے بھی کوئی حادثہ پیدا ہو جائے مازیار نے اس را کے مطابق سمجھوں کو اپنے وطن چلے جانے کا اختیار دیدیا چنانچہ افسر پولیس

افسر مال اور سکریٹری مازیار کے لشکر گاہ سے اپنے اپنے شہر واپس آئے۔ اہل ساریہ کو ان واقعات کی خبر لگی تو انہوں نے حاکم ساریہ مہرستان بن شہرین پر جو مازیار کے پیرفت سے مامور تھا حملہ کر دیا مہرستان شہر چھوڑ کے بھاگ گیا لوگوں نے جیل کے دروازے توڑ ڈالے جس قدر قیدی تھے نکل پڑے اس اثناء میں حیان شہر ساریہ میں پہنچ گیا تو مہیار براء مازیار سے یہ واقعہ سن کے محمد بن موسیٰ بن حفص والی طبرستان کے معرفت جو ایک زمانہ سے اسکے پاس قید تھا حیان کی خدمت میں یہ پیام بھیجا کہ تم مجھے امان دیدو اور میرے آبا و اجداد کے مقبوضہ جبال پر میری حکومت تسلیم کرو میں مازیار کو تمہارے حوالہ کر دوں گا حیان نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ تو مہیار کے بعض ہمراہیوں نے تو مہیار کو اس واسطے پر کہ وہ بجائے حسن کے حیان سے امان کا خواستگار ہوا نصیحت و ملامت کی تو مہیار ان لوگوں کے کہنے سے میں آگیا پھر ان لوگوں نے حسن کو یہ پیام دیا کہ دیکھتے ہی خط آپ چلے آئیے ہم تو مہیار کے بھائی مازیار کو آپ کے حوالہ کر دینگے چنانچہ حسن اپنے لشکر گاہ طمیس سے روانہ ہو کے تین دن کی مسافت طے کر کے ساریہ کے قریب پہنچ گیا حیان نے حسن کا ایک کوس سے استقبال کیا حسن نے حیان کو جبال شروین سے چلے آنے پر زبرد تو بیخ کی اور اسی وقت جبال شروین کی طرف روانہ ہو جانے کا حکم دیا حیان نے جبال شروین کی جانب روانہ ہونے کے غرض سے ساریہ کی طرف مراجعت کی اتفاق وقت سے قضا آگئی مرگیا عبدالمدین طاہر نے بجائے اس کے محمد بن حسین بن مصعب کو مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ قارن کے کسی کام میں دست انداز نہ کرنا۔ الغرض حیان کے واپسی کے بعد حسن خرماباد وسط جبال مازیار میں پہنچا حسب وعدہ تو مہیار ملنے کو آیا دونوں فریق نے ایک دوسرے سے بہ کمال توثیق عہد و پیمان کیا اور مزید اطمینان کے لئے خلیفہ معتصم کے نامور سپہ سالاروں میں سے

محمد بن ابراہیم بن مصعب نے ایک عہد نامہ حسب قرار و شرائط باہمی لکھ کے توہیاء کے حوالہ کر دیا تو ہیار لوٹ کے مازیار کے پاس آیا اور اسکو یہ اطمینان دیا کہ میں نے بہ کمال حزم و احتیاط آپ کے لئے امن حاصل کر لی ہے۔ اگلے دن حسن معہ اپنی فوج کے سوار ہو کے توہیاء کی جانب روانہ ہوا اور محمد بن ابراہیم کو دوسری راہ سے روانہ کیا حسن اتفاق سے محمد بن ابراہیم توہیاء کے پہنچنے سے پہلے جس مقام پر ملنے کا وعدہ تھا پہنچ گیا بعد ازاں توہیاء معہ اپنے بھائی مازیار کے آیا محمد بن ابراہیم نے مازیار کو گرفتار کر کے دو سپہ سالاروں کے ساتھ خرما باد اور خرما باد سے شہر ساریہ کی جانب لے جانے کا حکم دیا پھر ان لوگوں کی روانگی کے بعد خود سوار ہوا اس اثناء میں حسن آپہنچا محمد بن ابراہیم نے دریافت کیا ”کہاں کا قصد ہے؟“ حسن نے جواب دیا ”مازیار کا“ محمد بن ابراہیم نے کہا ”وہ تو ساریہ پہنچ گیا ہوگا“ حسن یہ سن کے ہنس پڑا دوسری جانب نظر اٹھی تو مازیار کا بھائی دکھائی دیا حکم دیا کہ اسکو بھی گرفتار کر کے ساریہ لیچلو اور خود بھی اسی وقت شہر ساریہ کی جانب مراجعت کر دی۔ ساریہ پہنچنے کے مازیار کو اسی طرح مقید و مجبوس کیا جس طرح اس نے محمد بن محمد بن موسیٰ بن حفص کو قید کیا تھا انہیں ایام میں عبداللہ بن طاہر کا خط بایں مضمون صادر ہوا کہ مازیار کو معہ اسکے بھائی اور اہل و عیال کے محمد بن ابراہیم کے ساتھ بارگاہ خلافت میں روانہ کر دو حسن نے مازیار سے چلنے کے وقت اسکے مال و اسباب کو دریافت کیا مازیار نے ساریہ کے چند رؤساء کو نامزد کیا اور یہ بتلایا کہ میرا کل مال و اسباب ان لوگوں کے پاس ہے۔ حسن نے توہیاء کو مازیار کے مال و اسباب کے فراہم کرنے پر مامور کیا جسوقت توہیاء مازیار کے مال و اسباب کے فراہم کرنے کو حبال کی طرف روانہ ہوا کچھ دور چل کے مازیار کے دینی خادموں نے یورش کر کے گھیر لیا اور اپنے آقا کے معاوضہ

میں تو ہیار کو قتل کر کے دہلیم کی طرف بھاگ گئے یہ لوگ تو دہلیم میں تقریباً بارہ سو تھے
 اثناء راہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج سے ٹکرائے ہوئے ان لوگوں نے انکو گرفتار کر کے
 شہر ساریہ بھیج دیا۔

بعضوں کا یہ خیال ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کو
 گرفتار کر لیا وہ مازیار کا چچا زاد بھائی تھا جو جبال طبرستان کا مالک و حکمران تھا اور
 مازیار کی طرف سے ان شہروں پر حکومت کر رہا تھا۔ جبال طبرستان تین تھے
 جبل وند اور ہمزاجیل وند اسنجان اور جبل شروین بن سرخاب جب وقت جبال
 طبرستان میں ایک عام بغاوت پھیل گئی اور مازیار کے چچا زاد بھائی کو انتظام و
 امن قائم کرنے کے غرض سے فوج کی ضرورت ہوئی اس وقت اس نے اپنے
 چچا زاد بھائی بلا و طبرستان سے بلا کے مہتمم بالشان مقامات کا والی بنایا بعد چند
 یہ شک ومانگی ہو کہ اسکو ایک گونہ استحکام ہو گیا ہے اس بنا پر اس نے حسن
 خط و کتابت شروع کی اور افشین و مازیار کے نامہ و پیام سے مطلع کر کے اس شرط
 سے سازش کر لی کہ مجھ کو میرے آبا و اجداد کے مقبوضات پر میری حکومت تسلیم کر لینا
 چنانچہ حسن نے بتوسط عبداللہ بن طاہر بارگاہ خلافت سے ان شرائط کی منظوری
 حاصل کر لی اور جس روز اور جس وقت کا وعدہ ہوا تھا اسی دن اور اسی وقت سوار
 ہو کے جبال طبرستان کی طرف گیا اور مازیار کے چچا زاد بھائی کی اعانت و سازش سے
 مازیار کا محاصرہ کر لیا تا آنکہ مازیار نے حسن کے کہنے سے اپنے کو حسن کے لشکر یوں
 کے سپرد کر دیا۔

بعض مورخ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ مازیار کو شکار کھیلتے ہوئے حسن نے
 گرفتار کیا اور اسکی گرفتاری کے بعد دوسرے والی جبل سے لڑنے کو گیا اس کو
 اس واقعہ کی اطلاع نہ تھی وہ مقابلہ پر آیا لڑائی ہونے لگی سامنے تو کشت و خون

کا بازار گرم ہی ہو رہا تھا پس پشت سے بھی اسلامی فوج نے پہنچنے کے حملہ کر دیا گھبرا کے بلا دہلیم کی جانب بھاگ کھڑا ہوا عساکر اسلامیہ نے تعاقب کیا اور گرفتار کر کے قتل کر ڈالا بعد اس کے حسن نے مازیار سے افشین کے خطوط طلب کئے مازیار نے پیش کر دئے عبدالمدین طاہر نے اسکو معہ ان خطوط کے خلیفہ معتصم کے پاس بھیج دیا خلیفہ معتصم نے اس قدر دڑے پٹوئے کہ مرگیا بابک خرمی کے پہلو میں صلیب پر چڑھا دیا یہ واقعہ ۲۲۷ھ کا ہے۔

ابن سید کی ۲۲۷ھ میں سرداران اکراد سے ایک شخص جعفر بن فہر بن حسن نامی گورنری کے اطراف موصل میں برخلاف خلافت اسلامیہ علم بغاوت بلند کیا اکراد کا ایک گروہ کثیر اسکا مطیع ہو گیا پھر کیا تھا جعفر نے ٹوٹ مار شروع کر دی خلیفہ معتصم نے اسکی تنبیہ اور ہوش میں لانے پر عبدالمدین سید بن انس کو متعین فرمایا اور موصل کی سند گورنری فرحت کی چنانچہ عبدالمدین سید نے اطراف موصل میں پہنچنے کے جعفر سے صفت آرائی کی اور کہاں ہر دانگی سے لڑنے کے مانتیس پر قبضہ کر لیا جعفر مانتیس سے نکل کے کوہ داسن کی چوٹی پر چلا گیا کوہ داسن کی دشوار گزار گھاٹیاں تھیں اسکی بلندی آسمان سے باتیں کر رہی تھیں راستہ نہایت تنگ تھا عبدالمدین سید نے تعاقب کیا اور بہزار وقت و خرابی بسیار اُن دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر کے جعفر سے جا بھڑا دونوں حریت جی توڑ کے لڑنے لگے جعفر کے بہت سے ہمراہی اس معرکہ میں کام آگئے لشکر اسلام کے سرداروں میں سے اسحاق بن انس (عبدالمدین سید کا چچا) شہید ہوا انھیں واقعات پر ۲۲۷ھ کا خاتمہ ہوا جاتا ہے مگر ہنگامہ کارزار بدستور گرم رہتا ہے تمام نہیں ہوتا خلیفہ نے اپنے خادم خاص ایتاخ کو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ موصل کی جانب عبدالمدین سید کی کمک کو روانہ فرمایا ایتاخ سیدھا جیل داسن پر چڑھ گیا اور

پہلے ہی معرکہ میں جعفر کو نیچا دکھا کے عین معرکہ میں قتل کر ڈالا جعفر کے ہمراہی منتشر ہو کر
تکریت کی جانب بھاگ گئے باقی جو سامنے پڑ گئے یا گرفتار کئے گئے ان کا خون
سباح کر دیا گیا۔

افشین کا دوبار
اور موت

افشین اشروسنہ میں پیدا ہوا اور بغداد میں زیر سایہ طاقت
خلیفہ معتمد نشوونما پائی خلیفہ معتمد کی نظروں میں اس کی
بڑی عزت و توقیر تھی جن دنوں یہ بابک خرمی کا محاصرہ کئے ہوئے تھا جو مال
و اسباب ان معرکوں میں لشکر اسلام کے ہاتھ آتا وہ سب کا سب اشروسنہ
بھیجا جاتا تھا عبدالمدین طاہر نے بارگاہ خلافت میں اسکی ایک خفیہ رپورٹ
بھیجی خلیفہ معتمد نے اس واقعہ کے تفتیش پر جاسوسوں اور مخبروں کے مقرر کرنا
حکم صادر فرمایا ایک مرتبہ افشین نے بہت سامال و اسباب میدان کارزار سے
اشروسنہ روانہ کیا عبدالمدین طاہر کو خبر ہو گئی سب مال و اسباب چھین لیا مال و
اسباب لانے والوں نے بیان کیا کہ یہ مال افشین کا ہے عبدالمدین طاہر نے
براہ تجاہل عارفانہ ڈانٹ کر کہا ”اگر یہ مال ہمارے بھائی افشین کا ہوتا تو وہ مجھے
ضرور اس سے مطلع کرتا یقینی تم لوگ چور ہو“ وہ لوگ اسکا کچھ جواب نہ دے سکے
عبدالمدین طاہر نے ان لوگوں کو جیل بھیجا یا مال و اسباب کو لشکر اسلام میں
تقسیم کر دیا اور افشین کو ایک خط اس مضمون کا لکھ بھیجا کہ اسقدر مال و اسباب
فلاں فلاں اشخاص لائے تھے اور وہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ مال و اسباب
آپ کا ہے مجھے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا میں نے وہ مال و اسباب ضبط کر کے
لشکر اسلام میں تقسیم کر دیا کیونکہ میں اسکو ترکوں کے مقابلہ پر بھیجنے والا ہوں اور
ان کو چور سمجھ کے میں نے جیل میں ڈال دیا ہے“ افشین نے رنج و اندامت کی غرض
سے تحریر کیا۔ ”بھائی جان! امیر مال اور امیر المؤمنین کا مال ایک ہے وہ لوگ

چور نہیں ہیں آپ اُن کو رہا کر دیجئے۔ والسلام“ عبدالمدن نے افشین کے لکھنے پر
اُن لوگوں کو رہا تو کر دیا مگر دونوں کے دلوں کی کدورتیں زیادہ اور مستحکم ہو گئیں
ادھر عبدالمدن طاہر نے بارگاہ خلافت میں اسکی بھی رپورٹ اطلاعی بھیج دی
ادھر افشین اس امید پر کہ گورنری خراسان کی مجھے ملجائے۔ مازیا کو آئے دن
بغاوت و مخالفت پر ابھار رہا تھا تاکہ خلیفہ معتمد مجھے سند گورنری خراسان اور
جنگ مازیا پر متعین فرمائے مگر افشین کی یہ رائے غلط کاری پر مبنی تھی مازیا کی
مخالفت و بغاوت کا جو کچھ نتیجہ ہوا اُس کو تم اوپر بڑھائے ہو کہ وہ گرفتار ہو کے
بغداد بھیجا گیا اور جنگ بابک کے خاتمہ پر خلیفہ معتمد نے افشین کو آذربجان کا
والی مقرر فرمایا افشین نے اپنے اعزہ و اقارب سے منگجور نامی ایک شخص کو آذربجان
کا اپنا قائم مقام بنایا اتفاق سے آذربجان کے کسی قصبہ میں بابک کا بہت سا
مال و اسباب منگجور کے ہتے چڑھ گیا جسکی نہ خلیفہ معتمد کو اطلاع تھی اور نہ افشین کو
پرچہ نویسوں کے افسر نے دربار خلافت میں اسکی خبر کر دی منگجور سے کیفیت طلب
ہوئی منگجور نے اس واقعہ کی تکذیب کی اور پرچہ نویسوں کے افسر کے قتل کے
ورپے ہو گیا اہل اردبیل نے منگجور کو اس ارادہ سے روکا منگجور اہل اردبیل سے
گتھ گیا رفتہ رفتہ خلیفہ معتمد تک اسکی خبر پہنچی خلیفہ معتمد نے افشین کے پاس
منگجور کے معزولی کا فرمان بھیج دیا اور ایک سپہ سالار کو بجائے منگجور کے روانہ کیا
منگجور اپنی معزولی کی خبر پا کے باغی ہو گیا اردبیل سے نکل کے صف آرائی کی
داروگیر اور قتل و غارت کا ہنگامہ برپا ہو گیا شام ہوتے ہوئے منگجور کو ہزیمت
ہوئی بھاگ کر آذربجان کے ایک قلعہ میں پناہ گزین ہوا جسکو بابک نے ویران
و خراب کر دیا تھا اور اسکو درست کر کے باطینان تمام رہنے لگا تقریباً ایک ماہ
تک قلعہ بند رہا بعد ازاں اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص اسکو بحالت

غفلت گرفتار کر کے اُس سپہ سالار کے پاس لایا جو بجائے اسکے بارگاہِ خلافت سے
 مقرر ہو کے آیا تھا اور وہ سپہ سالار اُسکو لئے ہوئے سامرا پہونچا خلیفہ معتصم نے
 اُسکو جبل میں ڈال دیا غرض ان معاملات سے خلیفہ معتصم کے نزدیک افسین مشتبہ
 اور مشکوک ہو گیا وہ عزت و توقیر جو اس سے پیشتر اسکی آنکھوں میں تھی جاتی رہی
 یہ واقعات ۲۲۵ھ کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سپہ سالار بجائے منکبہ بھیجا گیا
 تھا وہ بغاوت کبیر تھا اور منکبہ جو اس کے پاس امان حاصل کر کے حاضر ہو گیا تھا۔
 جس وقت افسین کو خلیفہ معتصم کی سو درمزا جی کا احساس ہوا بدحواسی سی
 چھا گئی کچھ بن نہ پڑتا تھا کبھی یہ خیال کرتا کہ خفیہ طور سے بھاگ کے ارمینیا
 چلا جاؤں اور ارمینیا سے بلا و خزر کی طرف نکل جاؤں اور وہاں سے اشر و سنہ
 آرہوں مگر پھر یہ سوچ کے کہ چونکہ خلیفہ معتصم خود بہ نفس نفیس اس معاملہ کو اپنے ہاتھ
 میں لئے ہوئے ہے اس ارادہ میں مجھے کامیابی نہ ہوگی رک جاتا تھا اور کبھی یہ
 قصد کرتا کہ ایک روز خلیفہ معتصم کی مع کل سرداران و اراکین سلطنت کی دعوت کر دوں
 تمام دن وہ لوگ کھانے پینے میں مشغول رہیں گے شام ہوتے ہی سب کے سب
 تھک کے سو جائیں گے اور میں موقع پائے نکل جاؤنگا۔ افسین انہیں خیالات میں
 ڈوبا ہوا تھا کوئی رائے مستقل نہیں قائم کرنے پایا تھا کہ اُسکو اپنے ایک خادوم پر
 غصہ آگیا جو اس کے ان مجنونانہ خیالات سے واقف تھا خادوم یہ سمجھ کے کہ افسین
 اب چند روزہ مہمان ہے ایتاخ کے پاس گیا ایتاخ نے اُسکو خلیفہ معتصم کی خدمت
 میں پیش کر دیا خادوم نے افسین کے کل حالات اور خیالات کا خاکہ کھینچ دیا خلیفہ
 معتصم نے اسی وقت افسین کی حاضری کا حکم صادر فرمایا اور درباری لباس اُتروا
 جو سق میں قید کر دیا۔

حسن بن افسین ماوراء النہر کے بعض شہروں کا والی تھا خلیفہ معتصم نے عبدالمد

بن طاہر کو لکھ بھیجا کہ اُس گرفتار کر کے بارگاہِ خلافت میں بھیج دو چونکہ حسن بن افضین اکثر نوح بن اسد والی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا عبدالمدین بن طاہر نے حسن بن افضین کے پاس بخارا کی حکومت کی سند لکھ کے بھیج دی اور روپرودہ لکھ بھیجا کہ جو وقت حسن بن افضین تمہارے پاس سند حکومت بخارائے کے پہنچے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دینا نوح بن اسد نے ایسا ہی کیا اور عبدالمدین بن طاہر نے حسن کو خلیفہ معتمد کی خدمت میں روانہ کر دیا بعد اس کے خلیفہ معتمد نے افضین کے مقدمہ کی سماعت کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے روپرودہ افضین کے حاضر کئے جانے کا حکم صادر فرمایا اس کمیشن میں وزیر السلطنت محمد بن عبدالملک بن الزیات، قاضی احمد بن ابی داؤد، اسحاق بن ابراہیم اور اربابین دولت و سپہ سالاران لشکر کی ایک جماعت شریک تھی علاوہ ان لوگوں کے مازیا رقیخانہ سے طلب کیا گیا۔ موہد و مرزبان بن برکش بادشاہ صغد اور صغد کے دو شخص اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ افضین نے انکو مارا ہے اور یہ دونوں مسجد کے امام و موذن تھے بلائے گئے وزیر السلطنت کے روپرودہ مقدمہ پیش ہوا۔

وزیر السلطنت (صغدیوں سے مخاطب ہو کے) کیوں تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ دونوں صغدی (کپڑے اُتار کے اور زخموں کو دکھلا کے) ملاحظہ فرمئے افضین نے ہم لوگوں کو بے جرم و گناہ اسقدر کوڑوں سے پٹوایا ہے کہ ہمارے بدن میں گوشت باقی نہیں رہا۔

محمد بن عبدالملک (افضین سے) کیوں افضین تم ان کو پہچانتے ہو؟ افضین۔ ہاں حضور میں ان کو جانتا ہوں (ایک کے طرف اشارہ کر کے) یہ اشرد سنہ کا موذن ہے (دوسرے کے طرف اشارہ کر کے) یہ امام مسجد ہے۔ محمد بن عبدالملک۔ تم نے ان لوگوں کو اسقدر کیوں پٹوایا؟۔

افشین۔ اسوجہ سے کہ مجھ سے اور بادشاہ صفد سے یہ معاہدہ تھا کہ کسی قوم کے مذہب سے تعرض نہ کیا جائے ہر شخص اپنے مذہب و ملت پر چھوڑ دیا جائے چونکہ ان دونوں نے برخلاف اس معاہدہ کے اہل صفد کے بت خانہ میں گھس کے بتوں کو توڑا اور بت خانہ کو مسجد بنا لیا لہذا میں نے ان کو اس جرم کی سزا دی۔

محمد بن عبد الملک۔ تم اپنے اس بیان کی تائیدی شہادت پیش کر سکتے ہو؟ افشین نے اسکا جواب کچھ نہ دیا نہ دامت سے سر نیچا کر لیا۔

محمد بن عبد الملک۔ وہ کتاب کس مضمون پر ہے جو مطلقاً و مذاہب تمہارے پاس ہے اور اس کے جلد پر جو اہر بھی لگے ہوئے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس میں کلمات کفر یہ بھی ہیں۔

افشین۔ وہ ایک کتاب ہے جو میرے آبا و اجداد سے مجھ تک وراثتاً پہنچی ہے اس میں عجم کے آداب لکھے ہوئے ہیں میرے بزرگ باپ نے اس کے آداب سیکھنے کی مجھے وصیت فرمائی تھی میں اس کے آداب کو سیکھ لیتا ہوں اور کفریات کو چھوڑ دیتا ہوں۔

محمد بن عبد الملک۔ اس کتاب کی اس قدر عزت کیوں کرتے ہو؟ افشین۔ ہاں مجھے اس کتاب پر سے سونا چاندی اور جو اہرات اُتار لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے میرے اسلام میں کوئی نقصان نہ پیدا ہوگا "وزیر السلطنت افشین کے اس منطقی جواب کو سن کے نظر تعمق سے دیکھنے لگا اس کے چہرہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں اس جواب کی کچھ وقعت نہیں پیدا ہوئی تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد موبکی طرف اشارہ کیا موبد نے دست بستہ کھڑے ہو کے افشین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا "یہ گردن مرطوڑے ہوئے جانوروں کا گوشت کھانا

ہے اور مجھ کو بھی ایسے گوشت کے کھانے پر مجبور کرتا اور کہتا ہے کہ گردن مڑوڑ
 ہوئے جانوروں کا گوشت مذبح جانوروں کے گوشت سے زیادہ لذیذ اور
 مزہ دار ہوتا ہے ایک روز کا ذکر ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا علانیہ کہہ رہا تھا
 کہ اس کبخت قوم میں داخل ہو کے مجھے ہر مکر وہ اور نامطبوع چیز کا سامنا کرنا
 پڑا زیت میں نے کھایا، اونٹ خچر پر سوار ہوا مگر بایں ہمہ اس وقت تک میں نے
 نہ ختنہ کرایا ہے اور نہ ایک بال میں نے اپنے زیر ناف سے جدا کیا ہے ؟
 افشین (طیش میں آ کے) کیا یہ مجوسی آپ کے نزدیک ثقہ ہے ؟
 محمد بن عبد الملک - نہیں۔

افشین - پھر میرے مقابلہ میں اسکی شہادت کیوں قبول کی جاتی ہے (موبد
 کی طرف مخاطب ہو کے) کیوں موبد تو نے یہ بیان کیا ہے نا؟ کہ میں تجھ سے
 اپنے راز بیان کیا کرتا تھا اور جب تو میرے راز کو افشاء کر دیا تو نہ تو باعتبار اپنے
 دین کے ثقہ رہا اور نہ صادق العہد والا قرار ہوا پھر تیری شہادت میرے مقابلہ
 میں کیوں قبول کی جائیگی۔“

محمد بن عبد الملک - بس بس تمہاری طلاق لسانی بہت بڑھی ہوئی ہے خاموش
 ہو جاؤ شہادت پیش ہو لینے دو بعد اختتام شہادت بحث و مباحثہ کرنا۔ (مرزبان
 سے مخاطب ہو کے) کیوں مرزبان! افشین کے معاملہ میں تم کیا جانتے ہو؟
 مرزبان - کیوں افشین تم کو اہل اثر و سنہ اپنے خطوط میں کیا لکھتے ہیں۔
 افشین - مجھے اس وقت خیال نہیں ہے۔

مرزبان - کیا تم کو وہ اپنی تحریروں میں ایسے القاب سے مخاطب نہیں کرتے
 جس کے معنی عربی میں الی اللہ من عبده فلاں (بخدمت خدائے خدائیکان
 از بندہ فلاں) ہے۔

انشین۔ ہاں اب خیال آیا غالباً یہی لکھتے ہیں۔

محمد بن عبد الملک۔ پھر تجھ میں اور فرعون میں کیا فرق ہوا؟

انشین۔ حضور! وہ لوگ ہمیشہ سے میرے آباؤ اجداد کو اور قبیل اسلام لائے کے مجھ کو بھی اسی القاب سے اپنی تحریروں میں مخاطب کیا کرتے تھے اگر اسلام لائے کے بعد میں ان کو ایسے القاب کی تحریر سے منع کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت سے منحرف اور مجھ سے باغی اور سرکش ہو جاتے۔

محمد بن عبد الملک۔ (مازیار کی طرف اشارہ کر کے) تم نے اس سے کچھ بھی خط و کتابت کی ہے؟

انشین۔ میں نے اس سے کبھی کوئی خط و کتابت نہیں کی۔

محمد بن عبد الملک۔ کیوں مازیار (انشین کی طرف اشارہ کر کے) اس نے تم کو خط لکھا تھا؟

مازیار۔ ہاں حضور اس کے بھائی نے میرے بھائی کو ہیار کو خط لکھا تھا جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے ”اس دین کا کوئی ناصر و مددگار میرے یا تمہارے اور بابک کے سوا نہیں ہے مگر بد نصیب بابک نے اپنی حماقت کی وجہ سے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا میں چاہتا تھا کہ وہ اس بلا میں نہ مبتلا ہو شہدانی امر اپنی حماقت سے میرے کہنے پر خیال نہ کیا اس حالت میں اگر تم علم مخالفت بلند کرو تو تمہارے مقابلہ پر یہ لوگ میرے سوا کسی دوسرے کو نہ یا مور کرینگے اس وقت میرے رکاب میں کار آزمودہ فوجیں اور سپہ سالار ہیں میں تم سے سازش کر لوں گا یہ جان رکھو کہ ہمارے مقابلہ پر سوا سے عربی یا مغربی اور ترک لشکروں کے اور کوئی نہ آئیگا عربوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیٹ کے بندہ ہیں کتوں کی طرح ایک لقمہ دید و اور اطمینان سے ان کے سروں کو پتھروں سے کچلو۔ مغربی فوجیں

ایک تو وہ خود قلیل ہیں جن کا شمار انگریزوں پر ہو سکتا ہے دوسرے انکی گوشمالی کیلئے ہماری فوج کا ایک دستہ کافی ہے۔ باقی رہے ترکی۔ ان کا جوش و دودھ کا سا اُبال ہے اٹھا اور فرو ہو گیا تھوڑے سے استقلال میں انکا قلع و قمع ہو جائیگا اور دین و مذہب جیسا کہ ملوک عجم کے عہد و حکومت میں تھا ویسا ہی پھر ہو جائیگا دیکھو اس موقع کو غنیمت جا لو ہاتھ سے نہ دو۔۔۔۔۔

افشین (قطع کلام کر کے) مازیار کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی نے اس کے بھائی کو اس مضمون کا خط لکھا تھا اس میں مجھ پر کیا الزام عاید ہوا البتہ تقدیر اگر میں اس قسم کا خط اس کو لکھتا تو ضرور اپنے کسی معتد کے معرفت اسکے پاس روانہ کرتا اور یہ احرامیر المومنین سے پوشیدہ نہ رہتا عبدالمدین طاسہر تو خراسان میں موجود ہی تھا، قاضی احمد بن ابی داؤد نے اس کہنے پر افشین کو ایک ڈانٹ بتلائی۔ وزیر سلطنت محمد بن عبدالملک نے غصہ کی تیز نگاہوں سے دیکھ کے اشارہ سے خاموشی کا حکم دیا مگر افشین سے خاموشی نہ رہا گیا قاضی احمد بن ابی داؤد سے مخاطب ہو کے بولا دیکھو حضرت جب آپ عبا و قبا پہن کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں تو ایک جماعت کو بغیر قتل کئے ہوئے نہ گھر میں جاتے ہیں اور نہ عبا و قبا اتارتے ہیں۔ آپ بھی عجیب چیز ہیں۔

محمد بن عبدالملک۔ بس بس بہت تیزی اچھی نہیں ہوتی تک حرام ابد تمیز دائرہ تہذیب سے قدم باہر نہ رکھو یہ بتلا کہ تو مختون ہے یا نہیں؟ افشین نے انکاری جواب دیا محمد بن عبدالملک نے چپیں بہ جبین ہو کے کہا دیکھو بے دین! تجھ کو کس چیز نے نختہ کرانے سے روکا یہ تو شعارِ اسلام سے ہے۔

افشین - (وہی آواز سے) میں نے بخوف جان ختنہ نہیں کرایا۔

محمد بن عبد الملک - کیا خوب، جواب بہت معقول ہے یہ قد و قامت اور یہ خوف (طنز سے) کیوں افشین لڑائیوں میں تو نیزہ بازی کرتا ہے شمشیر بکفت اعدا میں گھس جاتا ہے۔ اس وقت تجھے اپنی جان کا خطرہ نہیں پیدا ہوتا، تعجب ہے کہ ایک انگل کھال کے کٹانے سے اس قدر خالی ہوا۔

افشین - لڑائی میں ضرورت مجبور کرتی ہے اور میں بہ مجبوری اس کو برداشت کرتا ہوں۔ ختنہ کو اس پر قیاس نہ کیجئے اپنے ہاتھوں کوئی اپنے پاؤں پر کھھاڑی نہیں مارتا۔ محمد بن عبد الملک نے بانتظار صدور حکم قاضی احمد بن ابی داؤد کی طرف دیکھا قاضی احمد بن ابی داؤد نے کہا اس پر جرم ثابت ہے۔ محمد بن عبد الملک نے بغاکیہ کو اشارہ کر دیا بغاکیہ افشین کو گردنیاں دیتا ہوا جیل میں لے گیا۔ بعد اس کے محمد بن عبد الملک نے مازیار کو چار سو در سے کا حکم دیا جس کے صدمہ سے مازیار مر گیا۔ بعد چندے افشین نے خلیفہ معتصم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آپ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیج دیجئے میں کچھ گزارش کیا چاہتا ہوں خلیفہ معتصم نے حمدون بن اسماعیل کو افشین کے پاس بھیجا افشین نے ان الزامات کی جو اسکے ذمہ عاید کئے گئے تھے معذرت کی اور معافی کا خواستگار ہوا حمدون بن اسماعیل نے ہنوز خلیفہ معتصم تک یہ پیام نہیں پہنچایا تھا کہ افشین کو ایتاخ کے مکان میں لے جانے کا حکم صادر ہوا۔ خدام و دولت افشین کو ایتاخ کے مکان میں لے گئے اور خلیفہ معتصم کے حکم کے مطابق قتل کر کے باب عامہ پر سولی دیدی جب کل آئندہ روزندگان یکہ چلے تو لاشہ کو صلیب سے اتار کے جلا دیا یہ واقعہ شعبان ۲۲۶ھ کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قید میں افشین کا کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا اسوجہ سے مر گیا۔

مہر قح کا خروج | مہر قح معروف بہ ابو حرب یمانی فلسطین کا رہنے والا

تھا اس کی عدم موجودگی کے زمانہ میں کسی لشکری نے اس کے مکان میں اترنیکا
 قصد کیا عورتوں نے ممانعت کی لشکری نے ان کو مارا جب مہر قح آیا تو ان
 عورتوں نے اس لشکری کی شکایت کی مہر قح کو لشکری کے اس فعل ناروا
 سے اشتعال پیدا ہوا سیدھا لشکری کے پاس گیا اور اس کو قتل کر کے اردن
 کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اس غرض سے کہ کوئی پہچان نہ سکے اپنے منہ
 پر مہر قح ڈال لیا جو اس سے ملنے آتا اسکو وامر کے کرنے نو اہی سے بچنے کی
 ہدایت و تعلیم دیتا اور خلیفہ کے معایب بیان کرتا۔ یہ اپنے اموی ہونی کا بھی
 مدعی تھا اردن کے اطراف و جوانب سے کاشتکاروں اور زمینداروں کا
 ایک گروہ متبع و مطیع ہو گیا اور اسکو سفیانی کے لقب سے وہ یاد کرنے لگا بعد
 چند سے سرداران یمانیہ کی ایک جماعت بھی اسکے گروہ میں شامل ہو گئی منجملہ
 ان کے ابن بھیس تھا جو اپنی قوم اور نیز دوسرے قبائل میں عزت کی نگاہوں
 سے دیکھا جاتا تھا اور خواص و عوام اسکی اطاعت کرتے تھے رفتہ رفتہ
 اسکی جماعت کی تعداد ایک لاکھ تک بڑھ گئی خلیفہ معتصم نے اسکی سرکوبی پر
 بسرافسری ایک ہزار فوج کے رجا بن ایوب کو متعین کیا رجا بن ایوب نے
 مہر قح کی کثرت جماعت سے ڈر کر معرکہ آرائی نہ کی مقابلہ پر پڑا و کسے پڑا رہا تا آنکہ
 کاشتکاری و زراعت کا زمانہ آ گیا مہر قح کے ہمراہی جو اکثر و بیشتر زراعت
 پیشہ تھے کاشتکاری کی غرض سے اپنے اپنے شہروں میں واپس آنے لگے
 اس اثنا میں خلیفہ معتصم نے وفات پائی اور خلیفہ واثق سریر خلافت پر
 رونق افروز ہوا اتفاق یہ کہ انہیں دنوں دمشق میں فتنہ و فساد برپا ہو گیا خلیفہ
 واثق نے بلوایوں اور فتنہ انگیزوں کے قتل کرنے کا عام حکم دیدیا اور مہر قح

سے معرکہ آرائی کا اعلان کر دیا چنانچہ رجا بن ایوب نے اس حکم کی نہایت مستعدی سے تعمیل کی اور مہر قع کو معا بن ہبیس کے گرفتار کر کے سامراروانہ کر دیا اس معرکہ میں مہر قع کے ہمراہیوں میں سے تقریباً بیس ہزار آدمی کام آئے یہ واقعہ ۲۲ھ کا ہے۔

معتصم کی موت | خلیفہ معتصم ابو اسحاق محمد بن ہارون الرشید نے پندرہویں ربيع الاول ۲۲ھ کو آٹھ برس آٹھ مہینے خلافت کر کے

اس دارفانی سے انتقال کیا صبح ہوتے ہی اسکا بیٹا واثق باللہ سریر خلافت پر رونق افروز ہوا اراکین دولت و سرداران لشکر نے بیعت کی اسکی کنیت ابو جعفر تھی۔

خلیفہ واثق کے تخت نشین ہوتے ہی اہل دمشق باغی ہو گئے اپنے امیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مرج واسط میں بقصد مقابلہ لشکر مرتب کیا رجا بن ایوب اندولوں رملہ میں مہر قع سے معرکہ آرائی کر رہا تھا مگر خلیفہ واثق کے حکم سے اپنے لشکر کا کچھ حصہ مہر قع کے مقابلہ پر چھوڑ کے بغاوت دمشق کے فرو کرنے کو آیا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر رجا و اہل دمشق کو ہزیمت دی اور نہایت

۱۷ بروایت ذہبی خلیفہ معتصم ۲۰ھ میں پیدا ہوا اسکی ماں ام ولد مولدات کوفہ سے تھی نام ماروہ تھا صولی کتاب ہے کہ یہ نامور خلیفہ ماہ شعبان ۲۰ھ میں پیدا اور علامہ ابو الحسن علی معروف بہ ابن اثیر صاحب تاریخ کامل تحریر کرتا ہے کہ ۲۰ھ میں عالم وجود میں آیا روایت اول کے مطابق سینتالیس برس کی عمر پائی دوسری روایت کے رو سے انچاس مرحلے عمر کے طے کئے اور تیسری روایت کے اعتبار سے اڑتالیس سال بقید حیات رہا خلدقار میں پیدا اور سامرہ میں مدفون ہوا اس کے بیٹے واثق باللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رنگ سفید سرخی مائل، وارثی گھنٹی، متوسط القامت، اسکی طبیعت میں شجاعت، ہمت، قوت، خلق حسن اور استقلال کا (باقی نوٹ صفحہ آئندہ)

بے رحمی سے میدان جنگ میں پندرہ سو آدمیوں کو کاٹ ڈالا اس کے ہمراہیوں میں سے تین سو آدمی کام آئے۔ اس خونریز جنگ کے بعد اہل دمشق کے ویاغ کی گرمی فرو ہو گئی آتش بغاوت خاموش ہو گئی ہر چہاں طرف امن و امان قائم ہو گیا اور جاہلیہ قلع سے ہم نبرد ہونے کو رملہ کی جانب لوٹ آیا اور اسکو بھی ہر بیت دیکے گرفتار کر کے سامرا بھیجا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

ہنگامہ دمشق کے فرو ہونے پر خلیفہ واثق نے اشناس ترکی پر اپنی خاص عنایت مبذول کی اپنی سلطنت اور تمام ممالک محروسہ اسلامیہ کے سیاہ و سفید کرنے کا اختیار کمال دیدیا۔ شب کے وقت مصاحبین اور ہم نشین قحطے اور خلفاء و وزراء گذشتہ کے واقعات بیان کیا کرتے تھے اتفاق سے ایک مرتبہ براک کا ذکر آگیا ویرنگ انکی فیاضی، الو العز می اور دو تلمندی کا چرچا رہا خلیفہ رشید پر انکے متولی ہو جانے اور کل امور سلطنت پر قابض و متصرف ہونے کے حالات بیان ہوتے رہے ان واقعات کے سننے سے خلیفہ واثق کے کان کھڑے ہو گئے اسگے دن ایک گشتی فرمان ہر چہاں طرف روانہ کر دیا اور اشناس ترکی کے

بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ۔ کما مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہ خلفاء بنو عباس کا آٹھواں تاجدار اور عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا آٹھواں ممبر اور خلیفہ رشید کی اولاد کا آٹھواں شخص تھا آٹھویں اور آٹھویں حکومت کی آٹھ لڑکے آٹھ لڑکیاں چھوڑ کر وفات پائی۔ آٹھ فتوحات حال کیں آٹھ مجلسر امیں ہوئیں آٹھ دشمنوں با بک، باطش، مازیار، افشین، عجیف، قارن، قائد رافضہ اور رئیس زنا و قہ کو تہ تیغ کیا (آٹھ لاکھ) وینار سرخ اسی قدر وراہم سفید (آٹھ ہزار) گھوڑے، آٹھ ہزار غلام اور آٹھ ہزار لونڈیاں متروکہ چھوڑا علم معمولی تھا فتح عموریہ میں تیس ہزار عیسائیوں کو قتل اور اسی قدر کو گرفتار کیا خلق قرآن کا یہ بھی قائل تھا اسی سلسلہ میں علماء کا اس نے بھی انتہاں لیا لیکن، از کمال ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۱۵، نواریات جلد ۲ صفحہ ۲۱۵، تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۱۸

اور وہوں کو گرفتار کر کے بحیر و تعدی مال و اسباب وصول کرنے لگا۔ احمد بن اسلم
 سے اسی ہزار دینار مار پیٹ کے وصول کے مسلمان بن ذہب سے (یہ ایتناخ
 کا سکرٹری تھا) چار لاکھ حسن بن وہب سے چودہ ہزار ابراہیم بن ریح اور اسکے
 سکرٹری سے ایک لاکھ اور ابوالموتیر سے ایک لاکھ چالیس ہزار۔

ولایت یمن پر خلیفہ معتمد نے بعد معز ولی جعفر بن دینار ایتناخ کو مقرر کیا تھا
 اور پھر اسکو معتوب کر کے قید کر دیا مگر بعد چندے خوش ہو کے رہا کر دیا جب خلیفہ
 واثق تخت خلافت پر شکن ہوا تو اس نے اپنی جانب سے ایتناخ کو یمن کی گورنری
 مرحمت فرمائی۔ رسالہ باڈی گارڈ پر خلیفہ معتمد کے عہد خلافت میں بعد معز ولی
 ایتناخ اسحاق بن یحییٰ بن معاذ مقرر کیا گیا تھا خلیفہ واثق نے اسکو بجال رکھا۔
 ۲۳ھ میں محمد بن صالح بن عباس مدینہ منورہ پر متعین کیا گیا اور محمد بن داؤد
 مکہ معظمہ کی حکومت پر بدستور قائم رکھا گیا۔ ۲۳ھ میں عبدالمدین طاہر والی
 صوبجات خراسان، کرمان، طبرستان اور رے کے انتقال کر جانے سے بارگاہ
 خلافت کے حکم کے مطابق اسکے بیٹے طاہر کو صوبجات مذکورہ کی سند گورنری
 مرحمت کی گئی۔

جنگ بغا کبیر بنو سلیم کا ایک بہت بڑا گروہ اطراف مدینہ منورہ میں رہتا
 تھا خلافت اور عمال کی تبدیلی سے ان لوگوں کے ذہن بڑھ گئے جرات ہو گئی
 دن دہاڑے مسافروں اور نیز اہل شہر کو لوٹ لینے لگے ایک مرتبہ بنو کنانہ کے
 ایک شخص پر بحالت غفلت چھاپہ مارا مال و اسباب جو کچھ پایا لوٹ لیا محمد بن
 صالح والی مدینہ نے ایک دستہ فوج جس میں قریش و انصار کے متطوعہ (والنظیر)
 بھی تھے بنو سلیم کو ہوش میں لانے کے لئے روانہ کیا بنو سلیم نے انکو بے ڈھب
 ہزیمت دی بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا مال و اسباب کو لوٹ لیا انھیں سب کو جلا دیا

آلات حرب چھین لئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین جس قدر قصابات اور دیہات
تھے سبھوں کو لوٹ لیا آمدورفت قافلوں کی بند ہو گئی۔ خلیفہ واثق نے اس طوفان
بے امتیازی کے فرو کرنے پر بغا کبیر کو مامور فرمایا۔ بغا کبیر ماہ شعبان ۲۳۰ھ میں مدینہ منورہ
پہنچا بنو سلیم مقابلہ پر آئے لڑائیاں ہوئیں بغا کبیر نے ان کو ہزیمت دی اور
ان میں سے تقریباً پچاس آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور اسی قدر کو قید کر لیا باقی ماندگا
بنو سلیم نے امن کی درخواست کی خلیفہ واثق کے حکم کے مطابق امن دیدی گئی
ہنگامہ فرو ہونے کے بعد ایک ہزار بلوائیوں اور مفسدہ پروازوں کو ہزیمت
و فتنہ انگیزی گرفتار کر کے مدینہ منورہ کے جیل میں قید کر دیا یہ واقعہ
اس ہنگامہ و بغاوت کو فرو کرنے بغا کبیر نے فریضہ حج ادا کیا اور زونٹ عرب
میں پہنچے بنو ہلال کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جیسا کہ بنو سلیم کے ساتھ
پیش آیا تھا اور ان میں سے تین سو مفسدہ پروازوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ
کے جیل میں بھیج دیا اور پھر فوج کو مرتب کر کے بنو مرہ کی جانب فلا گیا ان
مفسدہ پرواز قیدیوں نے جیل میں نقب لگائی اور محافظین جیل کو قتل کر کے نکلتے
اہل مدینہ کو خبر ہوئی رات ہی کے وقت مجتمع ہو کے روک ٹوک کی قیدی بچھڑے
صبح تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر اہل مدینہ غالب آئے اور قیدیوں کو قید خانہ
سے رہائی مل گئی۔ بغا کبیر کو اسکی خبر کے سننے سے سخت صدمہ ہوا۔

بنو مرہ کی طرف بغا کبیر کے جانے کی وجہ تھی کہ فزارہ اور بنو مرہ نے فک
خاصیانہ قبضہ کر لیا تھا بغا کبیر نے یہ خبر پا کے بنو مرہ پر دھاوا کر دیا اور ان کے
سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار کو بنو مرہ کے پاس سمجھانے کے لئے
روانہ کیا بنو مرہ اسکی سطوت اور رعب داب سے خائف ہو کے شام کو بیٹھ
بھاگے بغا کبیر کے سپہ سالار نے سوز میں شام تک تعاقب کیا اور بغا کبیر پالیس

روز تک فدک میں ٹھہرا رہا بعد ازاں معہ ان لوگوں کے جنگو بنو مرہ اور فزارہ سے
 گرفتار کر لیا تھا مدینہ منورہ واپس آیا بطون، غفار، فزارہ، اشجج اور ثعلبہ کے
 رؤساء اور سرداروں نے حاضر ہو کر اطاعت و فرمانبرداری کی قسمیں کھائی
 بعاکبیر کو ان لوگوں کے جانب سے ایک گونہ اطمینان ہوا بنو کلاب کی طرف
 متوجہ ہوا تین ہزار نفر پیش کئے گئے ان میں سے ایک ہزار آدمیوں کو بالزام
 مفسدہ پردازی مدینہ منورہ کے جیل میں ڈال دیا اور باقی لوگوں کو رہا کر دیا پھر
 ۳۳ھ میں خلیفہ واثق کے حکم کے مطابق بنو نمیر کی سرکوبی کو پیامہ گیا شرفاء
 بنو نمیر کے ایک گروہ سے بڑھ بیڑ ہو گئی دونوں فریق نے ایک دوسرے پر حملہ
 کیا بعاکبیر نے ان میں سے پچاس آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور چالیس کو گرفتار کر لیا
 بعد اسکے اہل پیامہ کا قصد کیا اور بشرط اطاعت قبول کرنے کی معافی دینے کا
 وعدہ کیا مگر ان لوگوں نے یہ رعایت منظور نہ کی جبال سندھ کی جانب روانہ ہو گئے
 بعاکبیر نے پیامہ کا ایک چکر لگا کے اپنی فوج کو مختلف و متعدد حصوں پر تقسیم
 کیا اور حصہ لشکر کو بجائے خود ایک فوج مستقل قرار دیکے اطراف پیامہ میں
 پھیل جانے کا حکم دیا اس سے ہر چہاں طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا
 جس طرف نظر اٹھتی تھی سوائے کشت خون اور مقتولوں کے لاشوں کے
 کچھ نظر نہ آتا تھا اضاح کے قریب پھر اہل پیامہ کا بعاکبیر نے ایک ہزار کی جمعیت
 سے مقابلہ کیا اتفاق سے اس معرکہ میں اسکے مقدمہ ابلیش اور میسرہ کو ہزیمت
 ہوئی قتل اور غارت کا قیامت خیز ہنگامہ اس کے لشکر گاہ میں برپا ہو گیا
 شام تک اہل پیامہ غارتگری میں مصروف رہے رات ہوتے ہی باوجود کامیابی
 کے بھاگ کھڑے ہوئے بعاکبیر نے انکا تعاقب کیا اور اطاعت قبول کرنے کی
 شرط پر امان دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کے اپنے رکاب کی فوج سے

ایک دستہ کو اہل یامہ کے پاس سمجھانے کو بھیجا اہل یامہ نے اسکی فوج کا احساں کر کے صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا بنگا کبیر شکست کھا کے اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا اس اثنائے میں بنگا کبیر کے لشکر کا وہ دستہ اہل یامہ کے پیچھے سے آگیا جو یامہ کے اطراف و جوانب پر سب خون مارنے کو گیا ہوا تھا اہل یامہ اس دستہ فوج کو اپنی پشت پر سے آتے ہوئے دیکھ کے گھبرا گئے قتل و خونریزی سے خود بخود رکت گئے فوج سواران اہل یامہ اپنے پیادوں کی پلٹوں کو بنگا کبیر کی فوج کے حوالہ کر کے بھاگ گئی بنگا کبیر کی فوج نے اہل یامہ کی پیادوں کی پلٹوں کو بات کی بات میں خیار و کدو کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ان میں سے ایک بھی جانبر ہوا مقتولوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد بنگا کبیر ایک روز میدان کارزار میں ٹھہرا رہا اس کے دن منظر و منصور یامہ میں داخل ہوا امراء یامہ نے ان کی درخواست کی بنگا کبیر نے ان لوگوں بحکمت علی قید کر کے بصرہ کے جیل میں بھیج دیا اس کے بعد درجن اشروسنی بسرا فسری سات سو فوج کے بنگا کبیر کی کمک پر آیا بنگا کبیر نے اس تازہ دم فوج کو سواران اہل یامہ کے تعاقب پر بھیج دیا۔ تباہ مضافات میں تک اس نے ان کا تعاقب کیا بعد اسکے بنگا کبیر نے مع ان قیدیوں کے جو ان معرکوں میں گرفتار کئے گئے اور جن کی تعداد بائیس تھی بغداد کی جانب مراجعت کی اور محمد بن صالح والی مدینہ کو مع ان لوگوں کے جو اسکے زیر حراست قید تھے بغداد میں ملنے کو لکھ بھیجا چنانچہ محمد بن صالح حسب تحریر بنگا کبیر مع قیدیان مدینہ بغداد میں آیا اور ان قیدیوں کو بنگا کبیر کے حوالہ کر دیا۔

احمد بن نصر بن مالک بن ہشیم خزاعی کا دادا مالک بن ہشیم خزاعی خلافت عباسیہ کے نقباء سے تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں

واقعہ قتل احمد بن نصر

احمد بن نصر کا شمار محدثین میں تھا اسکی نشست و برخاست اصحاب حدیث کی صحبت
 میں اکثر رہا کرتی تھی ان میں سے ایک گروہ نے جس میں ابن حصین، ابن دورق
 اور ابو زہیر وغیرہم تھے احمد بن نصر کو بھڑہ دیدیا آدمی سادہ لوح تھا خلیفہ واثق
 پر خلق قرآن کے قائل ہونے کی وجہ سے طعن و تشنیع کرنے لگا رفتہ رفتہ طعن و
 تشنیع نے سب و شتم کی صورت کر لی خنزیر و کافر کہنے لگا عوام الناس میں اسکی
 شہرت ہو گئی اسکے ہمراہیوں میں سے دو شخصوں ابو ہارون شداخ اور طالب
 نے لوگوں کو اسکی بیعت کی ترغیب دی ایک خلق نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 پر اسکی بیعت کر لی ابو ہارون اور طالب نے ایک لشکر مرتب کر کے لشکریوں کو
 انعامات اور جایزے مرحمت کئے اور شب پختنبہ ۳ شعبان ۱۳۱ھ کو بغرض
 اظہار دعوت خروج کرنے کا باہم عہد و پیمان کیا۔ منجملہ ان لوگوں کے جنہوں نے
 احمد بن نصر کی بیعت کی تھی بنو اشرس کا ایک شخص قبل وعدہ آپہونچا حالت نشہ
 میں تھا نقارہ بجا دیا اسحاق بن ابراہیم افسر پولیس اسوقت موجود نہ تھا اس کا
 قائم مقام اور بھائی محمد بن ابراہیم نقارہ کی آواز سن کے گھبرا گیا ایک آدمی کو دریا
 حال کی غرض سے روانہ کیا کوئی شخص نظر نہ آیا اتفاق سے ایک اعور (بھنگا)
 شخص عیسیٰ نامی حمام میں مل گیا اس نے بنو اشرس، احمد بن نصر، ابو ہارون اور
 طالب کا پتہ بتلا دیا بعد اسکے احمد بن نصر کا ایک خادم گرفتار کیا گیا اس نے
 عیسیٰ اعور کے بیان کی تائید کی محمد بن ابراہیم نے اسی وقت ایک دستہ فوج
 احمد بن نصر وغیرہم کی گرفتاری کو بھیجا سب کے سب گرفتار ہو آئے محمد بن ابراہیم
 نے ان لوگوں کو سامرا بھیجا خلیفہ واثق کے روبرو دربار عام میں پیش کئے گئے
 اس جلسہ میں قاضی احمد بن ابی داؤد بھی تھا خلیفہ واثق نے احمد بن نصر سے
 بغاوت اور خروج کی وجہ دریافت نہ کی خلق قرآن کا مسئلہ چھیڑ دیا احمد بن نصر نے

عرض کیا ”وہ کلام الہی ہے“ پھر خلیفہ واثق نے اللہ تعالیٰ کی رویت کا مسئلہ دریافت کیا احمد بن نصر نے کہا ”اللہ تعالیٰ کی رویت اخبار صحیحہ سے ثابت ہے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید اور حدیث شریف کی مخالفت نہ کیجئے“ خلیفہ واثق نے علماء کی طرف دیکھ کے احمد بن نصر کی بابت دریافت در عبد الرحمن بن اسحاق قاضی جانب غربی بغداد نے کھڑے ہو کے عرض کیا ”امیر المؤمنین کو اس شخص کا خون مباح ہے“ قاضی احمد بن ابی داؤد بولا ”یہ شخص کافر ہو گیا اسکو توبہ کی ہدایت کی جائے“ خلیفہ واثق نے صمصامہ (یہ عمر بن معدی کرب زبیدی کی تلوار تھی) منگوائی نیام سے کھینچ کے احمد بن نصر کی طرف چلا احمد بن نصر نے گردن جھکالی خلیفہ واثق نے ایک تلوار کندھے پر ماری دوسری سر پر رسید کی پھر پیٹ کو اسی تلوار سے ناف سے سینہ تک چاک کر دیا بعد اسکے سیما الدمشقی نے بڑھ کے سر اتار کے بغداد بھیج دیا جو جسر بغداد پر آویزاں کر دیا گیا اور لاشہ کو بغداد کے دروازہ پر صلیب پر چڑھا دیا۔

مختلف واقعات | ۲۳ھ کے خاتمہ دور پر خلیفہ واثق نے سعید بن مسلم بن

قتیبہ کو ثغور اور عوام کی سنگ گورنری مرحمت فرمائی اور یہ ہدایت کی کہ عیسائی قیدیوں کو بعوض مسلمان قیدیوں کے والی روم کو دیکے مصالحت کر لو مگر ساتھ ہی اسکے مسلمان قیدیوں سے قرآن کے مخلوق ہونے اور رویت اللہ کا مسئلہ دریافت کرتے جانا جو شخص خلق قرآن کا قائل اور رویت اللہ کا منکر ہو اسکے معاوضہ دیکے عیسائیوں کے قید سے چھڑا لینا اور ایک دینار علاوہ زاد کے بطور انعام مرحمت کرنا اور جو شخص خلق قرآن کا منکر اور رویت اللہ کا قائل ہونہ اسکے معاوضہ میں کسی عیسائی قیدی کو رہا کرنا اور نہ اسکی رہائی کی فکر کرنا چنانچہ رومی اور مسلمان اپنے اپنے قیدیوں کو لئے ہوئے نہر لاس پر آئے جو

طرسوس سے ایک منزل پتھی مسلمانوں نے عیسائی قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو۔ مسلمان قیدی جنکو عیسائیوں کے پیچھے غضب سے نجات دلائی گئی تھی تعداد میں چار ہزار چونسٹھ مرد آٹھ سو لڑکے اور عورتیں ایک سو اہل ذمہ تھے۔

احمد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہو کے ایام سرما کے آتے ہی ایک لشکر مرتب کر کے سرحدی بلاؤں پر جہاد کروایا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے ملاقات ہو گئی بطریق نے موسم سرما میں سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر التفات نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ برف اور کثرت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً دو سو آدمی برف و بارش کے نذر ہو گئے، اسی قدر کفار نے گرفتار کر لیا اور ایک گروہ کثیر نہر بدنون میں ڈوب کے مر گیا مجبوراً بے نیل مرام واپس آیا خلیفہ واثق نے احمد بن سعید کو اس نا عاقبت اندیشی پر نصیحت و نصیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس کے نصر بن حمزہ خزاعی کو متعین فرمایا۔

واثق کی وفات | خلیفہ واثق باللہ ابو جعفر ہارون بن معتصم نے پانچ برس نو مہینے خلافت کر کے بعارضہ استسقاء جبکہ چھ راتیں ماہ ذی الحجہ ۲۳۲ھ کی باقی رہ گئی تھیں

۱۷ خلیفہ واثق کی ماں کا نام قراطیس تھا ام ولد (کنیزک) تھی مکہ کی راہ میں بیسویں شعبان ۱۹۶ھ کو پیدا ہوا چھتیس برس چار مہینے کی عمر پائی احمد بن ابی داؤد اور بروایت بعض اسکے بھائی خلیفہ متوکل نے نماز جنازہ پڑھائی اور مکہ کی راہ مقام ہارونی میں دفن کیا گیا۔ یہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح خلق قرآن کا قائل اور رویت باری کا منکر تھا۔ مذہباً اعتزال کی جانب مائل کیا بلکہ معتزل تھا ۲۳۱ھ میں اس نے بھی مامون اور مودلون سے مسئلہ خلق قرآن اور رویت باری کا امتحان لیا جس نے خلق قرآن سے انکار اور رویت باری کا اقرار کیا اسکو سزادی (باقی نوٹ صفحہ آئندہ میں)

وفات پائی۔ علاج کی غرض سے موت سے ایک دن پہلے گرم تنور میں بیٹھایا گیا اس سے مرض میں خفت محسوس ہوئی دوسرے دن تنور زیادہ گرم کیا گیا اور گزشتہ یوم کے نسبت زیادہ دیر تک تنور میں بیٹھا رہا بخار آ گیا تنور سے نکال کے محققہ میں سوار کرایا بعد چند ساعت کے اُتارنے کی غرض سے پردہ اُٹھایا تو مردہ تھا بعضے کہتے ہیں کہ قاضی ابن ابی داؤد نے بعد وفات خلیفہ واثق کے بدن کو مس کیا تھا جس سے سب کے پہلے اسکو اُسکی موت کا احساس ہوا۔

متوکل کی خلافت | خلیفہ واثق باند کے مرنے پر قاضی احمد بن ابی داؤد ایتاخ

وصیف، عمر بن فرج اور ابوالزیات وغیر ہم قصر خلافت میں مجتمع ہوئے اور محمد بن واثق باند کو جو ایک نو عمر لڑکا تھا تخت خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ پہنائی اتفاق سے بوجہ نو عمری چھوٹا نکلا وصیف نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا "کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو جو ایسے کم عمر صاحبزادے کو سر پر خلافت پر متمکن کیا چاہتے ہو؟" حاضرین یہ سن کے چونکے ہوئے مستحقین خلافت کے بابت رائیں قائم کرنے لگے بالآخر سمجھوں نے اتفاق رائے جعفر بن معتصم کو طلب کیا احمد بن ابی داؤد نے لباس فاخرہ پہنایا، عمامہ باندھا، دست بوسی کر کے

(بقیہ نوٹ صفحہ گذشتہ) صولی کہتا ہے کہ خلیفہ واثق ادب و فضل کی وجہ سے مامون اصغر کو ملاتا تھا۔ خود شاعر فن شاعری اور غنا سے واقف تھا عودا چھا بجاتا تھا۔ فضل یزیدی کا بیان ہے کہ خلفاء بنو عباس میں اس نے زیادہ کوئی راوی شعر کا نہ تھا کسی نے کہا "کیا مامون اعظم سے زیادہ یہ کثیر الروایت ہے فضل یزیدی نے جواب دیا ہاں مامون نے علم عرب میں نجوم، طب، منطق اور فلاسفہ خلط ملط کر دیا تھا اور خلیفہ واثق علم عرب میں کسی چیز کو نہیں ملاتا تھا ملخص از تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۷ صفحہ ۱۲ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۳۴۔
۱۔ محققہ بکسر مسم فتح حار و تشدید فائش ہوج کے عورتوں کو سوار کرانے کی ایک سواری ہے زمانہ قدیم میں اس پر قبہ نہیں بنایا جاتا تھا جیسا کہ ہوج پر قبہ بنایا جاتا ہے اقراب لموار و جلد اول صفحہ ۲۱۲۔

کہا "السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" اور المتوکل علی اللہ القاب دیا۔
 خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واثق کی نماز جنازہ پڑھائی اور فن
 کرنے کا حکم دیا بعد ازاں شاہی لشکر کو آٹھ مہینے کی تنخواہ مرحمت فرمائی، بلاد فارس
 پر ابراہیم بن محمد بن مصعب کو متعین کیا، غانم بن محمد طوسی کو حکومت موصل پر بحال
 رکھا، ابن عباس محمد بن صول کو دیوان نفقات سے معزول کیا اور اپنے بیٹے مہتمم
 کو حرمین، یمن اور طائف کی حکومت عنایت کی۔

ابن الزیات کا خلیفہ واثق نے اپنے عہد خلافت میں محمد بن عبد الملک بن
 ادبار اور موت الزیات کو قلمدان وزارت سپرد کر کے امور سلطنت کے

سیاہ و سفید کرنے کا اختیار دیدیا تھا اور محمد بن عبد الملک اپنی ذاتی قابلیت سے
 کل اراکین دولت پر حاوی ہو رہا تھا متوکل اور نیز خاندان خلافت کے کسی ممبر کا
 کچھ پاس و لحاظ نہ کرتا تھا ایک مرتبہ خلیفہ واثق اپنے بھائی متوکل پر ناراض ہوا
 متوکل ابن الزیات کے پاس گیا حالات بیان کئے اور خلیفہ واثق کو راضی کرنے
 کی التجا کی ابن الزیات نے نہ تو خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا، نہ خوش اخلاقی
 سے ملاقات کی اور نہ متوکل کی باتیں توجہ سے سنیں بلکہ نہایت رکھائی سے کہا
 "آپ تشریف لے جائیے اگر آپ کے حالات اور اطوار درست ہو جائیں گے
 تو امیر المؤمنین بلا کسی سفارش کے آپ سے خوش ہو جائیں گے میرے سفارش
 کی کوئی ضرورت نہیں ہے" متوکل یہ سونکا جواب پا کے مغموم ورنجیدہ اکٹھ کے
 قاضی احمد بن ابی داؤد کی خدمت میں گیا قاضی احمد بن ابی داؤد متوکل کی صورت
 دیکھتے ہی سر و قد تعظیم کو اکٹھ کھڑا ہوا، نہایت اخلاق سے پیش آیا، عزت و احترام
 سے صدر مقام پر بیٹھایا، اور آنے کا شکریہ ادا کیا متوکل نے کہا "میں آپ کے پاس
 اس غرض سے آیا ہوں کہ بھائی جان مجھ سے ناراض سے ہو گئے ہیں بہت اچھا ہوتا

اگر آپ اُن کو راضی کر دیتے "قاضی احمد نے بہ کمال مسرت اس امر کے انجام دینے کا اقرار کیا اور اسی روز سے وقتاً فوقتاً خلیفہ واثق باللہ سے جب موقع ملجاتا تھا تو متوکل کی سفارش کر دیتا تھا یہاں تک کہ خلیفہ واثق باللہ کا دل متوکل کی طرف سے صاف ہو گیا۔

ابن الزیات نے بوقت ملاقات متوکل سے جو بے توجہی اور بد اخلاقی کا برتاؤ کیا تھا اُس کا کپاڑا کرپڑا اسپر یہ ہوا کہ خلیفہ واثق باللہ کی خدمت میں ایک رپورٹ اس مضمون کی بھیج دی کہ "جعفر (یعنی متوکل) میرے پاس محتشوں کے لباس میں آیا تھا اور مجھ سے امیر المؤمنین کو راضی کرنے کی التجا کی تھی" خلیفہ واثق اس رپورٹ کو سن کے آگ بگولا ہو گیا اسی وقت ابن الزیات کے پاس حکم بھیج دیا کہ "جعفر کو بال پکڑنے کے کھسٹے ہوئے میرے پاس حاضر لاؤ" ابن الزیات نے اس حکم کی پوری تعمیل تو نہ کی مگر متوکل کو بلا بھیجا متوکل اس خیال میں کہ امیر المؤمنین شاید مجھ سے راضی ہو گئے ہیں دل ہی دل میں ہنستا ہوا اور بار خلافت میں حاضر ہوا خلیفہ واثق نے ایک حجام کو اشارہ کیا حجام نے لپک کے متوکل کے بال پکڑ لئے اور چار جھٹکے دیکے کاٹ ڈالے متوکل کو ابن الزیات کے اس فعل سے بے حد ناراضی پیدا ہوئی مگر اُس وقت کیا کر سکتا تھا خاموش رہا جس وقت سر خلافت پر متمکن ہوا بعد ایک مہینہ کے اپناخ کو حکم دیا کہ ابن الزیات کو گرفتار کر کے اپنے مکان میں قید کر دو اور ایک گشتی فرمان تمام ممالک محروسہ میں ابن الزیات کے مال و اسباب کے ضبط کر لینے کا بھیج دو یہ واقعہ ماہ صفر ۲۳۳ھ کا ہے۔ اپناخ نے اس فرمان کے مطابق جہاں جہاں ابن الزیات کا مال و اسباب تھا ضبط کرا کے دارالخلافت میں منگوا لیا اور خلیفہ متوکل کے اشارے سے ابن الزیات کو روز بروز طرح طرح کی تکالیف دینے لگا اور جب ان صدائے

اور مصائب سے بھی ابن الزیات کا کام تمام نہ ہوا تو تو ایک تنور میں جس میں چاروں
طرف لوہے کی سلاخیں لگی ہوئیں تھیں اور اس قدر چھوٹا تھا کہ آدمی پورے
طور سے نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ آسانی سے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا تھا بند کر دیا چند
روز زندہ رہے کے نصف ربیع الاول ۳۳۳ھ میں جان بحق تسلیم کر دی بیان
کیا جاتا ہے کہ ابن الزیات کو گرفتاری کے بعد متوکل نے اس قدر پٹوایا تھا
کہ وہ مر گیا ابن الزیات کے زبان سے اس وقت سوائے شہدا اور ذکر
اللہ کے ایک بار بھی کلمہ اُت نہیں نکلا۔

عمر بن فرج رجمی نے بھی متوکل کے ساتھ بہ زمانہ ناراضی خلیفہ واثق
ابن الزیات کا سا برتاؤ کیا تھا جس کی پاداش میں خلیفہ متوکل نے بعد
تخت نشینی ماہ رمضان میں گرفتار کر کے قید کر دیا تھا اور مال و اسباب کو ضبط
کر لیا تھا مگر پھر گیارہ لاکھ زجرمانہ وصول کر کے رہا کر دیا۔

ایتاخ کی بد اقبالی | ایتاخ - سلام ابرص کا خادم اور اس کا باورچی تھا چونکہ
اور موت | قد و قامت کا بلند ہاتھ پاؤں کا سڈول اور شجاع تھا

خلیفہ معتصم کے نظروں میں سما گیا ۱۹۹ھ میں خرید لیا۔ آدمی دانشمند مزاج
شناس تھا خلیفہ معتصم اور واثق کے عہد خلافت میں اسکی بڑی عزت افزائی
ہوئی ہر چار طرف اسی کا دور دورہ ہو گیا بڑے بڑے صوبجات کا انتظام
اسی کے سپرد ہوا سامرا میں بلحاظ دولت اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کا
بھی ہم پلہ تھا اراکین دولت کی بربادی اور تباہی اسی کے ہاتھوں ہو کر تھی
تھی اسی کے مکان میں اور اسی کی نگرانی میں وہ لوگ مثل اولادامون،
ابن الزیات، صالح، عجیف، عمر بن فرج اور ابن جنید وغیر ہم قید کئے جاتے
تھے۔ سفارت، حجابت اور محکمہ جنگ کا یہی مالک تھا ترکی، شامی اور خراسانی

پلٹنیں اسی کے ماتحت تھیں غرض جب قدر اہم اور ذمہ داری کے کام تھے وہ سب
 اسی کے سپرد تھے ایک روز شب کے وقت خلیفہ متوکل کے ساتھ بیٹھا ہوا
 پی رہا تھا دونوں نشہ میں چور تھے لڑنے لگے خلیفہ متوکل نے کچھ سختی کی ایتاخ نے
 نیام سے تلوار کھینچ لی خواصوں نے دوڑ کے ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر دیا
 صبح ہوتے ہی ایتاخ دربار خلافت میں حاضر ہو کے قدموں پر گر پڑا شب کی
 گستاخی کی معذرت کی بظاہر قصہ رفت گذشت ہو گیا مگر خلیفہ متوکل کے دل
 میں گرہ پڑ گئی اور ایتاخ کو اسکا احساس ہو گیا اس اثناء میں زمانہ حج آ گیا ایتاخ
 نے حج کی اجازت چاہی متوکل نے اجازت دیدی ساتھ ہی اسکے ایک خلعت
 گراں بہا عنایت فرمائی ایک دستہ فوج ہمراہ کر دیا اور ان شہروں کی اس کو
 سند امارت عطا کی جو سفر حجاز میں اس کے راہ میں پڑتے تھے۔ چنانچہ ایتاخ
 بقصد حج ماہ ذیقعدہ ۳۳۳ھ یا ۳۳۴ھ میں رخصت ہو کے روانہ ہو گیا اسکی
 روانگی کے بعد خلیفہ متوکل نے حجابت پر اپنے خادم وصیف کو مامور کیا اور
 جب ایتاخ نے سفر حج سے مراجعت کی تو خلیفہ متوکل نے ایتاخ کے پاس
 ہدایا اور تہائف روانہ کئے اور بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کو لکھ بھیجا کہ ایتاخ
 کو کسی جیلہ سے بغداد میں لیجا کے قید کر دو جوں ہی ایتاخ بغداد کے قریب
 پہونچا اسحاق بن ابراہیم نے ایتاخ کے پاس ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون
 یہ تھا ”امیر المومنین نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ آپ پہلے بغداد میں تشریف
 لائے ماسر دارن بنو ہاشم و اراکین سلطنت سے ملاقات کیجئے اور خزیمہ بن
 خازم کے مکان میں سبھوں کو جمع کر کے حسب مراتب انعامات اور صلے مرحمت
 کیجئے“ ایتاخ تعمیل اس حکم کے بغداد میں داخل ہوا اسحاق بن ابراہیم و پروردہ
 استقبال کے لئے کھڑے تھا جس وقت ایتاخ مکان کے اندر چلا گیا اسحاق نے

اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے سے روک دیا اور دروازہ پر پیرہ بیٹھا دیا بعد
 اس کے دونوں لڑکوں منصور و مظفر اور دونوں سکرٹریوں سلمان بن وہب اور
 قدامہ بن زیاد کو بھی گرفتار کر لیا ایتلخ کو یہ خبر لگی تو اسحاق بن ابراہیم کے پاس
 کہلا بھیجا کہ میرے دونوں لڑکوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے اگر خطا وارہوں
 تو میں ہوں اسحاق نے ایتلخ کی یہ درخواست منظور کر لی۔ ایتلخ اس زمانہ
 سے برابر قید ہی میں رہا تا آنکہ مرگیا بعضوں کا بیان ہے کہ ایتلخ کا پانی پسند
 کر دیا گیا تھا اس وجہ سے مرگیا اور اسکے دونوں لڑکے جیل ہی میں رہے یہاں تک
 کہ متوکل کے بعد مستنصر سر ری خلافت پر رونق افروز ہوا اور اس نے ان دونوں
 کو رہا کیا۔

ابن بعیث کی موت | محمد بن بعیث بن جلیس آذربيجان کے مشہور و مضبوط
 ترین قلعہ مرند میں پناہ گزین تھا زمانہ خلیفہ متوکل میں بہ حکمت علی قلعہ مرند سے نکال
 کے سامرا میں قید کیا گیا مگر بعد چندے جیل سے بھاگ کر پھر مرند میں جا کے اپنی
 جان بچائی بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن بعیث جیل میں مقید نہ تھا بلکہ اسحاق
 بن ابراہیم بن مصعب کے زیر نگرانی قید تھا اور بغاالت شراہی کی سفارش سے
 بہ ضمانت محمد بن خالد بن یزید بن مزید شیبانی رہا کیا گیا بعد رہائی کے چندے
 سامرا میں ادھر ادھر پھرتا رہا تا آنکہ خلیفہ متوکل علیل ہوا محمد بن بعیث بھاگ کر
 مرند چلا گیا اور اسکو غلہ اور سامان جنگ سے خاطر خواہ مضبوط کیا اس اثنا
 میں قبیلہ ربیعہ وغیرہا کے فتنہ پردازوں اور باغیوں کا ایک گروہ جو تعداد میں
 بائیس سو کے قریب تھے مرند میں مجتمع ہو گیا اندون آذربيجان کا والی محمد بن
 حاتم بن مرثمہ تھا محمد بن بعیث کی کثرت جماعت سے ڈر کر وہم بخود رہا کسی قسم
 کا تعرض نہ کیا خلیفہ متوکل نے اسکو معزول کر کے حمدونہ بن علی بن فضل سعدی

کو متعین فرمایا چنانچہ حمدویہ ایک مدت تک محمد بن بعیث کا مرند میں محاصرہ کئے رہا
 خلیفہ متوکل نے امدادی فوجیں بھیجیں مگر کامیابی کی صورت نظر نہ آئی مجبور ہو کر
 بغاالشرابی کو دو ہزار سواروں کی جمعیت سے مرند کی فوج محاصرہ کی لڑائی پر آمادہ
 کیا بغاالشرابی نے میدان جنگ میں پہنچ کر قلعہ مرند کے ارد گرد ایک چکر لگایا
 اور دل ہی دل میں یہ رائے قائم کی کہ بجز حکمت عملی اور دھوکھا کے یہ قلعہ بزور
 جنگ مفتوح نہیں ہو سکتا شام ہو گئی تھی اپنے مورچہ میں واپس آیا اگلے دن
 بغاالشرابی نے جنگ کے چھڑنے سے پہلے عیسیٰ بن نجیح بن شلیل کو محمد بن بعیث
 کے پاس یہ پیغام لے کے بھیجا کہ "میں تمکو اور تمہارے کل سرداروں کو امان
 دیتا ہوں تم لوگ خلیفہ متوکل کے حکم سے دروازہ قلعہ کا کھولو" محمد بن بعیث
 کچھ جواب نہ دینے پایا تھا کہ اسکے ہمراہیوں کا ایک گروہ کثیر قلعہ کا دروازہ
 کھول کے بغاالشرابی کے پاس چلا آیا محمد بن بعیث گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا
 شاہی لشکر نے قلعہ میں گھس کے محمد بن بعیث کے مکانات کو لوٹ لیا اسکی
 عورتیں اور لڑکیاں گرفتار کر لی گئیں بعد اسکے وہ خود بھی مع اپنے بھائیوں
 صفرو خالد اور بیٹوں جلیس، صفراور بعیث کے اثناء راہ سے گرفتار ہو آیا
 بغاالشرابی ان قیدیوں کو لئے ہوئے بغداد کی طرف روانہ ہوا قریب بغداد
 پہنچ کے لوگوں کو دکھلانے کے غرض سے محمد بن بعیث کو معہ اس کے
 ہمراہیوں کے اونٹوں پر سوار کرایا خلیفہ متوکل نے ان لوگوں کو جیل میں
 ڈال دیا۔ محمد بن بعیث بغداد میں پہنچ کے ایک ماہ بعد ۲۳۵ھ میں مر گیا
 خلیفہ متوکل نے اس کے لڑکوں کو عبدالمدین بن یحییٰ بن خاقان کے ساتھ شاکر
 میں بھرنی کر دیا۔

۲۳۵ھ میں خلیفہ متوکل نے اپنے تینوں بیٹوں

ولیعہدی کی بعیت

محمد، طلحہ اور ابراہیم کی ولیعہدی کی بیعت لی بعض مورخین نے بجائے طلحہ کے
 زبیر کا نام لکھا ہے۔ بیعت لینے کے وقت یہ قرار دیا کہ میرے بعد پہلے محمد
 تلج و تخت کا مالک ہوگا اور اسکو المنتصر کا لقب دیکے افریقہ، مغرب، افسرین،
 ثغور شامیہ، جزیرہ، دیار مضر، دیار ربیعہ، ہیت، موصل، عانہ، خابور، کوردجلہ،
 سواد، بحرین، احقر موت، حرمین، سند، مکران، قندابیل، کوراہوازا، بحر کوفہ،
 بحر بصرہ اور سامرا کے مستغلات کو جاگیر میں دیا اور بعد المنتصر کے اپنے دوسرے
 بیٹے طلحہ کو سرپر خلافت کا وارث ٹھہرایا اور اسکو المعتز کا لقب مرحمت فرما کے
 صوبجات خراسان، طبرستان، ارے، ارمینہ، آذربایجان اور صوبجات فارس کو
 عنایت کیا بعد چندے سنہ ۲۲۷ھ میں اپنے کل ممالک محروسہ کے خزائن اور
 وارالضرب کو اسکی جاگیر میں اضافہ کیا اور یہ حکم صادر فرمایا کہ المعتز کا نام سکہ پر
 مسکوک کیا جائے۔ ان دونوں وارثان تلج و تخت کے بعد ابراہیم کی ولیعہدی کی
 بیعت لی اور اسکو حمص، دمشق، فلسطین اور صوبجات شامیہ عنایت کئے۔

اسی سنہ میں ظیفہ متوکل نے لشکریوں کو تبدیلی وضع و لباس کا حکم دیا
 چنانچہ لشکریوں نے کتلوں کے بجائے پہنے بجائے پیٹی کے کمر کو ڈوریوں سے باندھا
 اور خدام کے لباس میں جھالریں ٹکوائیں۔ پیٹی باندھنے کی ممانعت کی اور زمیوں
 کی عبادت گاہوں کو جو جدید تعمیر ہوئی تھیں منہدم کر دیئے کا کشتی قرمان جاری فرمایا
 اور اس امر کی ممانعت کی کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص کسی حاکم کی دیہائی نہ دے
 اور نہ ذمی اپنے جلسوں میں صلیب نکالیں اور ان کے دروازوں پر غلامت کی
 غرض سے شیاطین کی صورتیں لکڑی کی بنا دی جائیں۔

محمد بن ابراہیم | محمد بن ابراہیم بن حسن بن مصعب بن اوزادہ طاہر بن ابونہار
 کی موت | کا والی تھا اور اسکا بھائی اسحاق بن ابراہیم بغداد کا افسر

پولیس عہد خلافت مامون اعظم معتصم، والی اور متوکل میں تھا اور اس کا بھتیجہ محمد بن اسحاق سامرہ میں دار الخلافت کے دروازہ پر اسکی نیابت کرتا تھا۔ ۲۳۵ھ میں اسحاق بن ابراہیم کی وفات پر خلیفہ متوکل نے اسکو (یعنی محمد بن اسحاق کو) محکمہ پولیس پر تعین کیا اور کل صوبجات کو جو اسکے باپ کے تھے مرحمت فرمائے۔ اور معتز نے اپنی جانب سے یمامہ، بحرین، اور مکہ کی نیابت عطا کی محمد بن اسحاق نے کل قیمتی قیمتی اسباب اور جو اہرات جو اسکے باپ کے تھے خلیفہ متوکل اور اسکی اولاد کی خدمت میں بھیج دیئے محمد بن ابراہیم تک پہنچا۔ پوچھی خلیفہ متوکل اور نیز اپنے بھتیجے سے سخت ناراض ہوا محمد بن اسحاق نے خلیفہ متوکل سے جڑ پوچھا خلیفہ متوکل نے محمد بن اسحاق کو فارس کی سند گورنری عنایت فرما کے بجائے محمد بن ابراہیم کے فارس بھیج دیا محمد بن اسحاق نے فارس میں پہنچ کے اپنے چچا محمد بن ابراہیم کو معزول کر کے اپنے چچا زاد بھائی حسین بن اسماعیل بن مصعب کو مامور کیا اور ساتھ ہی اسکے محمد بن ابراہیم کے قتل کا بھی اشارہ کر دیا حسین بن اسماعیل نے اسکے قتل کی یہ تدبیر نکالی کہ پانی بند کر دیا جس کی وجہ سے محمد بن ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔

بغاوت ارمینیہ | صوبہ ارمینیہ کی گورنری پر یوسف بن محمد مامور تھا بطریق بقراط بن اسواط جو بطریقوں کا سردار تھا امن کا خواستگار ہو کے دارالامارت میں حاضر ہوا یوسف بن محمد نے اسکو معہ اسکے بیٹے کے گرفتار کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں بھیج دیا یوسف کے اس فعل سے ارمینیہ کے بطریقوں کو سخت اشتعال پیدا ہوا بقراط بن اسواط کے چچا زاد بھائی اور اس کا داماد موسیٰ بن زرارہ کے پاس مجتمع ہوئے اور با اتفاق رائے سمجھوں نے یوسف بن محمد کے مار ڈالنے کی قسمیں کھائیں چنانچہ رمضان ۲۳۶ھ مقام طرون میں یوسف

بن محمد کو ہر چار طرف سے گھیر لیا یوسف بن محمد یہ خبر پاپا کے اہل ارمینہ سے جنگ
 کرنے کو نکلا اہل ارمینہ نے پہلے ہی معرکہ میں یوسف ابن محمد کو ہزیمت دیکھ
 آسکو معاً اسکے ہمراہیوں کے قتل کر ڈالا بارگاہ خلافت سے حسب حکم خلیفہ
 متوکل بغا کبیر اس ہنگامہ کے فرو کرنے کو روانہ ہوا موصل اور جزیرہ ہوتا ہوا
 ارنن پر جا اتر اور بزور تیغ اسپر قبضہ حاصل کر کے موسیٰ بن زرارہ اور اسکے
 بھائیوں کو قید کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کر دیا اس معرکہ میں موسیٰ
 بن زرارہ کے ہمراہیوں میں سے تقریباً تیس ہزار آدمی مارے گئے اور ایک گروہ
 کثیر گرفتار کر لیا گیا بعد اسکے بغا کبیر نے شہر دیبل میں جا کے پڑاؤ کیا ایک مہینہ
 تک ٹھہرا رہا پھر شہر دیبل سے روانہ ہو کے تفلیس پر پہنچ کے محاصرہ ڈال دیا
 اور زیرک ترکی کو ایک دستہ فوج کے ساتھ بطور مقدمتہ الجیش کے تفلیس پر
 حملہ کرنے کا حکم دیا اسحاق بن اسماعیل بن اسحاق نے (یہ بتو امیہ کا خادم
 تھا) تفلیس سے انکل کے زیرک کا مقابلہ کیا قتل و خونریزی کا بازار گرم ہو گیا شہر
 تفلیس کے مکانات اور نیز دارالامارت لکڑی کی بنی ہوئی تھی بغا کبیر کے حکم سے
 نفاطین نے شہر پر آتشباری شروع کر دی قصر امارت میں آگ لگ گئی جل گیا
 علاوہ اسکے ہزار ہا مکانات جل کے خاک و سیاہ اور پچاس ہزار آدمی اس
 آتش زنی کے نذر ہو گئے جو باقی رہے وہ گرفتار کر لئے گئے ترکی اور خسرو بنی
 پلٹنوں نے اسحاق بن اسماعیل کو گھیر کے گرفتار کر لیا بغا کبیر نے اسی وقت
 اسحاق کو قتل کر ڈالا اسحاق کے اہل و عیال مع اپنے مال و اسباب کے شہر
 صغدیل چلے گئے جو شہر تفلیس کے برابر نہر کرمن کے شرقی جانب تھا جس کو
 نوشیرواں نے آباد کیا تھا اور اسحاق نے انھیں ضرورتوں کو پیش نظر کر کے
 پہلے ہی سے رسد و غلہ سے اسکو مضبوط کر رکھا تھا مگر ان اہل رسیدوں کو

اس قلعہ نے بھی بنگا کبیر کے پنجہ ظلم سے نہ بچا یا بعد اسکے بنگا کبیر نے ایک لشکر
 دوسرے قلعہ کی جانب جو ماہین پر وعدہ اور تفلیس کے واقع تھا روانہ کیا اہل قلعہ
 نے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی یا آخر بنگا کبیر کے لشکریوں نے بزور تیغ مفتوح کر لیا
 اور اسکے بطریق کو گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کے قلعہ کبیر پر دھاوا کیا جو
 بلقان کے سر زمین میں تھا اور جس کا والی عیسیٰ بن یوسف تھا عیسیٰ بن یوسف نے
 بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن بنگا کبیر کے لشکریوں نے اسکو گرفتار کر لیا اور
 بنگا کبیر نے اسکو مع چند بطریقوں کے بغداد کی طرف روانہ کر دیا یہ واقعہ
 ۳۳۸ھ کا ہے۔

قضایہ کی معزولی اور تقرری
 ۳۳۸ھ میں خلیفہ متوکل کو قاضی احمد بن ابی داؤد سے
 ناراضی پیدا ہوئی اور یہ کشیدگی و ناراضی اس درجہ تک
 بڑھی کہ خلیفہ متوکل نے قاضی احمد کا کل مال و اسباب اور جاگیریں ضبط کر کے
 اس کے لڑکوں کو تحید کر دیا قاضی احمد کے لڑکوں میں سے ابو الولید نے ایک
 لاکھ بیس ہزار دینار اور بیس ہزار قیمت کے جو اہرات پیش کئے اسپر بھی
 خلیفہ متوکل کا غیظ و غضب فرو نہ ہوا تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم اور
 پیش کئے امراء و رؤساء شہر نے شہادت دی کہ ابو الولید نے اپنا مال و
 اسباب فروخت کر کے اس رقم کو حاضر کیا ہے۔ قاضی احمد ان دونوں عارضہ
 خارج میں مبتلا تھا خلیفہ متوکل نے یحییٰ بن اکتثم کو طلب کر کے قاضی القضاة کا
 عہدہ عنایت فرمایا اور ابو الولید بن ابی داؤد کو صیغہ فوجداری کے اختیارات
 دئے بعد چندے اس کو معزول کر کے ابو الرزح محمد بن یعقوب کو مامور کیا پھر
 اس کو بھی معزول کر کے اس صیغہ کے بھی اختیارات قاضی القضاة یحییٰ بن
 اکتثم کو دیدئے پھر ۳۳۸ھ میں قاضی یحییٰ بن اکتثم بھی خلافت پناہی کا مورو

عتاب ہو کے معزول کیا گیا پچھتر ہزار دینار اور چار ہزار جریب زمین جو بصرہ میں قاضی یحییٰ بن اکتام کی ملوکہ تھی ضبط کر لی گئی۔ بجائے اس کے جعفر بن عبدالواحد بن جعفر بن سلیمان بن علی مامور ہوا۔

اسی سنہ میں قاضی احمد بن ابی داؤد نے اپنے بیٹے ابوالولید کے مرتے کے بعد بیس دن بعد وقات پائی۔ مذہباً معتزلی تھا اس نے بشر مرسی سے اس مذہب کی تعلیم پائی تھی اور بشر مرسی نے جہم بن صفوان سے اور جہم بن صفوان نے جعد بن ادہم معلم مروان سے ان خیالات اور عقاید کو حاصل کیا تھا۔

بغاوت حمص چونکہ ابوالمنیث موسیٰ بن ابراہیم رافعی والی حمص نے بعض رؤساء حمص کو بلا کسی جرم و خطا کے قتل کر ڈالا تھا اسوجہ سے ۲۳ھ میں اہل حمص نے مجتمع ہو کے بلوہ کر دیا اور اس کو دارالامارت سے نکال کے اس کے ہمراہیوں میں سے چند آدمیوں کو قتل کر ڈالا خلیفہ متوکل نے بجائے اس کے محمد بن عبدویہ انباری کو متعین فرمایا اس نے بھی اہل حمص کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کے سختی سے پیش آیا اہل حمص اس سے بھی منحرف اور باغی ہو گئے دارالخلافہ سے دمشق اور رطہ کی فوجیں اس ہنگامہ کے فرو کرنے پر متعین کی گئیں چنانچہ اہل حمص پر ان کو فتویٰ حاصل ہوئی ایک گروہ کثیر بلوائیوں کا اس معرکہ میں کام آگیا عیسائی شہر باہر کر وئے گئے، کنائس (گرہے) گراؤئے گئے اور انہیں سے جو جامع مسجد کے قرب و اتصال میں تھے جامع مسجد میں شامل کر لئے گئے۔

۱۵ اور جعد بن ادہم نے ابان بن سمعان سے اور ابان بن سمعان نے طالوت سے اور طالوت نے لبید بن اعصم یہودی سے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا مذہب معتزلہ کی تعلیم پائی تھی لبید خلق توریت مقدس کا قائل تھا سب کے پہلے طالوت ہی نے اس مضمون پر کتاب تالیف کی تھی۔ تاریخ کامل جلد ۷ صفحہ ۲۹۔

بجاء کی بد عہدی | جن دنوں اسلامی فتوحات کا سیلاب مصر کی دیواروں تک

پہنچ گیا تھا اسی زمانہ سے مابین اہل مصر اور بجاء مصالحت ہو گئی تھی اسی عہد نامے کے لحاظ سے بجاء کے بلاد میں جس قدر سونے کی کانیں تھیں وہ اُنکا خمس والی مصر کو دیا کرتا تھا مگر عہد خلافت متوکل میں خمس کا دینا بند کر دیا اور اُن مسلمانوں کو جو معاون میں کام کرتے تھے اپنی سفاہت اور بزدلی سے قتل کر ڈالا۔ چہ توپوں کے افسر نے دربار خلافت میں اس کی خبر کر دی خلیفہ متوکل نے اراکین سلطنت سے بجاء پر جہاد کرنے کی بابت مشورہ کیا اراکین سلطنت نے عرض کیا کہ ”وہ اقوام با دیہ نشین ہیں ان کے پاس اونٹ اور بکریوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے شہروں تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کا ملک بلاد اسلامیہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے اور راستہ نہایت دشوار گذر ہے ایسی حالت میں رسد و غلہ کا انتظام کافی ہونا چاہئے ورنہ اسلامی لشکر کا بلا جہاں و قتال واقعہ ہو جائے گا“ خلیفہ متوکل یہ سن کے ہمت ہار گیا اس سے بجاء کا حوصلہ بڑھ گیا اور اہل صعید کو بیچات کی شرارت اور آئے دن فساد سے خوف پیدا ہوا بارگاہ خلافت میں ایک درخواست بھیجی خلیفہ متوکل نے محمد بن عبدالمدقی کو اسوان، قفط، اقصہ، استنا اور ارمنت کی سند گورنری مرحمت فرما کے بجاء سے جنگ کرنے کا حکم صادر کیا اور عبسہ بن اسحاق ضبی والی مصر کے نام محمد بن عبدالمدقی کی مالی اور فوجی مدد کرنے کا فرمان بھیج دیا چنانچہ محمد بن عبدالمدقی بیس ہزار فوج کے ساتھ جس میں شاہی پلٹین اور متظوع (والنظیر) کی فوج بھی شامل تھی بلاد بجاء کی طرف خشکی کی راہ سے روانہ ہوا اور پراہ قلمزم متقد و کشتیاں آٹا، ستو، کھجوروں اور روغن زیت سے بار کرا کے بلاد بجاء کی جانب روانہ کر دیں رفتہ رفتہ محمد بن عبدالمدقی اُن کے قلعوں تک

پہنچ گیا بادشاہ بجاۃ علی بابا نامی محمد بن عبدالدمقی سے دو چاند لشکر مرتب کر کے
 مقابلہ پر آیا اور نہایت دھیمی رفتار سے لڑائی شروع کی اس امید پر کہ تھوڑے دنوں
 میں انکار سد و غلہ ختم ہو جائیگا اس وقت ہم ان کو بغیر جدال و قتال کے گرفتار کر لیں گے
 اس اثناء میں وہ کشتیاں ساحل پر پہنچ گئیں جن کو اس نے اپنی روانگی کی وقت
 مصر سے براہ قلمزم روانہ کیا تھا محمد بن عبدالدمقی نے اپنے لشکریوں کو حسب ضرورت
 اشیاء خوردنی تقسیم کر دیں علی بابا اس انتظام اور دوراندیشی کو دیکھ کے دنگ ہو گیا
 اگلے دن خم ٹھونک کے میدان میں آیا اور نہایت سختی سے لڑائی شروع کی چونکہ
 اس کے اونٹوں میں وحشت زیادہ تھی ہر چیز کو دیکھ کے بدک اٹھتے تھے کامیابی
 نہ ہوئی۔ دوسرے دن محمد بن عبدالدمقی نے گھوڑوں کی گردنوں میں کھنٹیاں
 بندھوا کے حملہ کرنے کا حکم دیا علی بابا کی فوج کے اونٹ ٹھنڈیوں کی آواز سن کے
 بدک کر بھاگے شتر سواروں نے ہر چند سنبھالا نہ سنبھلے مجبور ہو کے علی بابا
 بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا محمد بن عبدالدمقی نے تعاقب اور قتل
 و غارت کا حکم عام دیدیا ہزار ہا آدمی مارے اور قید کئے گئے تا آنکہ علی بابا نے
 امن و مصالحت کی درخواست کی محمد بن عبدالدمقی نے یہ شرط کی کہ تم بقایا
 اور مال خراج ادا کرو ہم تم کو تمہارا ملک جسکو ہم فتح کر چکے ہیں واپس دیدینگے
 علی بابا نے بطیب خاطر ان شرائط کو منظور کر لیا اور بعد تحریر و تکمیل عہد نامہ محمد بن
 عبدالدمقی کے ہمراہ بقصد حاضری دربار خلافت کو روانہ ہوا اور بجائے اپنے
 اپنے لڑکے (فیعیس) کو مقرر کر گیا خلیفہ متوکل نے علی بابا کو کمال احترام و عزت
 سے ٹھہرایا خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اس کے اونٹوں پر دیبا اور قیمتی قیمتی کپڑوں
 کی جھولیں ڈالیں اور بہ نظر عزت افزائی مصر سے مکہ تک کی راہ کی حکومت عتاب
 کی اور اس کے بلا و پر سعد ایتاخی خادم کو بطور رزیدنٹ کے مقرر فرمایا سعد نے

اپنی طرف سے محمد قنی کو مامور کیا چنانچہ محمد قنی اس کے ساتھ واپس آیا اور ہر چار طرف بلاوجہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔

صوائف

سنہ ۲۳۸ھ میں رومیوں کا ایک بیڑہ جس میں سو کشتیاں تھیں ساحلِ میاط پر پہنچا اتفاق یہ کہ اُس وقت سرحدی فوج کو عنسہ بن اسحاق صہبی والی مصر نے کسی ضرورت سے مصر میں طلب کر لیا تھا تھوڑی سی فوج ساحلِ میاط پر موجود تھی رومیوں نے موقع مناسب پا کے خاطر خواہ میاط کو ٹوٹا جامع مسجد کو جلایا اور کشتیوں کو مال و اسباب اور قیدیوں سے بھر کر تینس کی طرف کوچ کر دیا تینس میں بھی پہنچ کے رومیوں نے یہی برتاؤ کئے کسی کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔

اسی سنہ میں علی بن یحییٰ ارمی افسر صوائف نے لشکر صائف کے ساتھ جہا کیا اور سنہ ۲۴۱ھ میں ندورہ ملکہ روم نے مسلمان قیدیوں کو بجز و تعدی عیسائی بنایا جس نے کچھ بھی چون و چرا کیا اُس کو قتل کیا ایک گروہ کثیر نے عیسائیت قبول کر لی مگر کچھ سوچ سمجھ کے خود ہی مفادات کی خواستگار ہوئی خلیفہ متوکل نے سیف خادم کو بہ ہمراہی قاضی بغداد جعفر بن عبدالواحد مفادات کی غرض سے روانہ کیا اور بغداد میں عمدہ قصار پر ابن ابی الشوارب کو مامور فرمایا چنانچہ نہر لاس پر رومیوں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ دیکے ایک دوسرے کے قید سے رہا کرایا بعد اسکے پھر رومیوں نے بد عہدی کی عین زربہ پر شیخون مارا۔ جس قدر وہاں زط تھے سمجھوں کو معہ عورتوں اور لڑکوں کے گرفتار کر لیا۔ اور صائف سے علی بن یحییٰ ارمی کی واپسی کے بعد میساط کی جانب قدم بڑھائے آمد تک قتل و غارت کرتے ہوئے چلے گئے سیکڑوں مسلمانوں کو سٹ ایک دوسرے کو فدیہ دیکر اپنے قیدیوں کو چھڑانا۔

مارڈالا ہزارہا مکانات ٹوٹ لئے سرحدی اور جزیریہ بلاؤ کو تاخت و تاراج کر دیا
 اور تقریباً دس ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے واپس گئے قرشاس، عمر بن عبدالمطلب
 اور ایک گروہ مجاہدین نے تعاقب کیا مگر بے نیل مرام واپس آئے۔ اس کے بعد
 اسی سنہ میں خلیفہ متوکل نے علی بن یحییٰ کو صائفہ کے ساتھ بلاوروم میں جہاد
 کرنے کو روانہ کیا اور ۲۴۴ھ میں بغداد سے دمشق چلا آیا۔ اس کے ساتھ کل کین
 دولت بھی دمشق میں آگئے۔ شاہی دفاتر اور کل محکمہ جات جن کو خلافت پناہی
 سے تعلق تھا بغداد سے دمشق میں منتقل ہو آئے دو مہینے تک مقیم رہا بعدہ اتفاق
 وقت سے دمشق میں دبا پھوٹ نکلی اسوجہ سے پھر بغداد لوٹ گیا۔ روانگی
 سے پہلے بغا کبیر کو ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ بلاوروم میں جہاد کرنے کو
 بھیجا پس اس نے بلاوروم میں داخل ہو کے جنگ و خونریزی کا بازار گرم کر دیا
 روم کے بڑے بڑے گروں کش اور سورما پہلوان کام آگئے سیکڑوں دیہات
 قصبات اور شہر ویران کر دئے گئے۔ جب ہر سمت سے الامان الامان کی پکار
 ہوئی تو بغا کبیر نے بلاوا سلامیہ کی طرف مراجعت کی۔ پھر ۲۴۵ھ میں رومیوں
 نے سمیسا طہر دھاوا کیا جو کچھ پایا لوٹ لیا اور صائفہ نے بسر افسری علی بن
 یحییٰ ارمنی کر کرہ پر جہاد کیا اہل کر کرہ اپنے بطریق سے بگڑ گئے گرفتار کر کے خلیفہ
 متوکل کے خدام کے حوالہ کر دیا بادشاہ روم نے ایک ہزار مسلمان قیدیوں کو
 رہا کر کے بطریق کو چھوڑا لیا۔ ۲۴۶ھ میں عمر بن عبید اللہ اقطع نے صائفہ
 کے ساتھ بلاوروم پر چڑھائی کی چار ہزار اس کو مویشیان ہاتھ آئیں، فرشاس
 پانچہزار اس گرفتار کر لیا، فضل بن قاران ایک بیڑہ جہازات کو لے گئے تھیں
 بیس کشتیاں تھیں قلعہ انطاکیہ پر چڑھ گیا اور اس کو بزور تیغ مفتوح کر کے
 ہلکا جو رہا اور بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا عیسائی گرفتار کر لئے گئے

اور علی بن یحییٰ نے پانچ ہزار عیسائی دس ہزار اس جانور گرفتار کئے اسی سنہ میں
اسی کے ہاتھ عیسائی اور مسلمان قیدیوں کا مبادلہ کیا گیا فریقین نے دو ہزار تین سو
قیدی رہا کر لئے۔

۲۳۲ھ میں خلیفہ متوکل نے بلا و فارس پر محمد بن ابراہیم
عمال کی تفصیل

بن مصعب کو مقرر کیا تھا انہوں نے موصل کی حکومت پر قائم بن حمید طوسی تھا۔
اس کے اوایل زمانہ خلافت میں محمد بن عبدالمدین الزیات قلمدان وزارت کا
مالک تھا اور دیوان الخراج (محکمہ مال یا بورڈ آف ریونیو) کا یحییٰ بن خاقان خراسانی
(ازد کا غلام) افسر اعلیٰ تھا اسی زمانہ میں فضل بن مروان معزول کیا گیا اور بجائے
اس کے دیوان نفقات پر ابراہیم بن محمد بن خنول مامور ہوا۔ ۲۳۳ھ میں
محمد بن عیسیٰ کو معزول کر کے حرین، یمن، اور طائف کی گورنری اپنے بیٹے منصور
کو عنایت کی اور جب ایساخ حج کو چلا گیا تو حجابت پر وصیف خادم کو مامور کیا۔
۲۳۵ھ میں اپنے بیٹوں کی ولیعهدی کی بیعت لی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا
اور بعد وفات اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب اس کے بیٹے ابراہیم
کو بغداد کی پولیس پر مامور کیا اسکی (یعنی اسحاق بن ابراہیم کی) اور حسن بن
سہل کی وفات ایک ہی سنہ میں واقع ہوئی۔ ۲۳۶ھ میں عبید اللہ بن
یحییٰ بن خاقان عمدہ سکرٹری سے بعد از وزارت سے سرفراز کیا گیا اور
صوبہ ارمینیہ و آذربایجان کے صیغہ جنگ و خراج پر یوسف بن ابی سعید محمد بن
یوسف مروزی کو اس کے باپ کی وفات کے بعد مقرر کیا چنانچہ اس نے
ارمینیہ و آذربایجان میں پہونچ کے بطارقہ کے ساتھ کچ ادا کی کے برتاؤ کئے
اہل ارمینیہ و آذربایجان نے بغاوت کر دی اور اسکو مار ڈالا جیسا کہ تم اوپر
پڑھ آئے ہوا ان لوگوں کی سرکوبی پر خلیفہ متوکل نے ایک لشکر جرار کے ساتھ

بنگا کبیر کو مامور کیا پس اس نے ان لوگوں سے یوسف کے خون کا معاوضہ لیا
 اور معاویہ بن سواد پر عبدالمدین اسحاق بن ابراہیم کو مامور کیا۔ ۲۳۹ھ میں قاضی
 احمد بن ابی واؤد عہدہ قضا سے معزول کیا گیا اور بجائے اس کے یحییٰ بن اکثم
 قاضی القضاة کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز ہوا۔ اسی سنہ میں محمد بن عبدالمد
 بن طاہر خراسان سے دارالخلافہ بغداد میں آیا خلیفہ متوکل نے پولیس بغداد
 کی افسری اور جزیرہ و اعمال سواد کی حکومت عنایت کی ان دنوں مکہ معظمہ
 کی گورنری پر علی بن عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا یہی امیر الحج تھا اس نے
 لوگوں کے ساتھ اس سال حج ادا کیا بعد ازاں سال آئندہ میں بجائے اسکے
 عبدالمد بن محمد بن واؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ مامور کیا گیا اس زمانہ میں جعفر
 بن دینار مکہ معظمہ اور کل بلاد حجاز کے راستوں کی محافظت پر متعین ہوا۔
 حمص میں ابوالمغیث موسیٰ بن ابراہیم رافقی مامور تھا اسی ۲۳۹ھ میں
 اہل حمص نے اس سے سرکشی کی تب بجائے اسکے محمد بن عبدویہ کو حمص
 کی سند گورنری عطا کی گئی اور اسی سنہ میں یحییٰ بن اکثم عہدہ قضا سے معزول
 کیا گیا اور بجائے اس کے جعفر بن عبدالواحد بن جعفر بن سلیمان مقرر کیا گیا۔
 ۲۴۲ھ میں مکہ معظمہ کی گورنری عبدالصمد بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم امام کو
 مرحمت ہوئی دیوان نفقات پر بعد وفات ابراہیم بن عباس صولی حسن بن
 خالد بن جراح مامور ہوا اس سے پیشتر حسن اسی محکمہ میں ابراہیم کی نیابت
 میں تھا ۲۴۵ھ میں خلیفہ متوکل نے ایک جدید شہر موسوم بہ جعفریہ تعمیر کرایا
 سپہ سالاران لشکر اور اراکین دولت کو اس میں آباد کیا دو لاکھ دینار اس کی
 تعمیر میں صرف ہوسے وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل بنام نہاد لولہ بنویا
 جسکی بلندی کل شاہی محسراؤں سے زیادہ تھی۔ اس محل میں صاف و شفا

پانی کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو پہاڑ سے کاٹ کر لائی گئی اس شہر کے متعدد نام تھے کوئی متوکلیہ کہتا تھا کوئی جعفریہ اور ماخورہ۔ اسی سنہ میں جعفر بن دینار کے مرنے پر مکہ معظمہ اور حجاز کے راستہ پر ابوالساج اور دیوان ضیاع و تویع پر نجاح بن سلمہ مامور ہوا تجاہ بن سلمہ بڑے رعب و داب کا آدمی کا اراکین سلطنت اور وزراء اس کا پاس کرتے تھے خلیفہ متوکل بھی اس کی عزت کرتا تھا حسن بن محمد اسکے ساتھ دیوان ضیاع میں تھا اور موسیٰ بن عقبہ دیوان الخراج کا افسر تھا نجاح بن سلمہ نے ان دونوں کی خلیفہ متوکل سے چغلی کر دی اور یہ جڑ دیا کہ یہ دونوں چالیس ہزار غنیمت کر گئے ہیں خلیفہ متوکل یہ سن کے آپس سے باہر ہو گیا نجاح کو حسن و موسیٰ کی تعزیر دینے پر متعین کیا حسن و موسیٰ کو اس کی خبر لگی تو وہ گھبرائے ہوئے عبید اللہ بن یحییٰ بن قاقان وزیر السلطنت کے خدمت میں گئے اور ان حالات سے مطلع کیا وزیر السلطنت نے نجاح سے ان لوگوں کی سفارش کی اور جب وہ کچھ نقد و جنس لے کے درگزر کرنے پر آمادہ ہوا تو ان لوگوں سے معذرت کا خط لکھوا کے نجاح کے پاس بھیج دیا نجاح نے بے سوچے سمجھے پشت خط پر یہ لکھ کر یہ واپس کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار دینار علاوہ فرو و سامان آرائش اور اسباب کے حاضر کرو تو میں تمہاری تعزیر سے درگزر کروں وزیر السلطنت نے اس خط کو جس سے نجاح کی بددیانتی ثابت ہوتی تھی خلیفہ متوکل کی خدمت میں پیش کر دیا خلیفہ متوکل نے اسی دنت نجاح کو یلو کے اس قدر پٹوایا کہ مر گیا اور اس کے لڑکوں اور وکلاء سے جو مختلف بلاد میں پھیلے ہوئے تھے بطور جرمانہ کے مال کثیر وصول کر لیا۔

قتل متوکل و بیعت منتصر
 اگرچہ خلیفہ متوکل نے اراکین سلطنت سے اپنے بیٹے منتصر کی ولیعهدی کی بیعت لی تھی مگر اس وجہ سے

کہ منتصر کی طرف سے اُس کے دلغ میں یہ خیالات قائم ہو گئے تھے کہ یہ جلد باز،
 ناعاقبت اندیش ہے خود کردہ پریشمان اور نادم تھا خلیفہ متوکل اسی وجہ سے
 کہ منتصر میں عجلت کا مادہ زیادہ تھا منتصر کو مستعجل کے لقب سے اکثر یاد کرتا تھا اور
 منتصر کو متوکل سے اسوجہ سے کشیدگی پیدا ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے اسلاف
 کا مذہب (اعتزال اور تشیع) چھوڑ دیا تھا ایسا اوقات سر مجلس اسکے مصاحبین
 علی ابن ابیطالب پر چوٹ کرتے تھے اور متوکل بیٹھا ہوا ہنستا رہتا منتصر کو
 یہ حرکات ناگوار گذرتی تھیں مصاحبین کو موقع محل دیکھ کے دھکی دیتا تھا
 اور کبھی کبھی جب ضبط نہ کر سکتا تو خلیفہ متوکل سے کہہ اٹھتا تھا "یہ بات
 اچھی نہیں ہے علی ہم لوگوں کے بزرگ، سردار اور بنو ہاشم کے شیخ تھے اگر
 آپ کے نزدیک وہ (عیاذ باللہ) برے تھے تو آپ جو چاہتے کہہ لیجئے مگر
 ان کلمینوں اور بیہودوں کو توروک دیجئے" خلیفہ متوکل اس کہنے پر منتصر کی
 تحقیر و تذلیل کرتا، گالیاں دیتا، معزولی و قتل کی دھکی دیتا اور اکثر وزیر السلطنت
 عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کو حکم دیدیتا کہ اسکو گردنی دیکے نکال دو۔ کبھی کبھی
 اپنے بیٹے معتز کو نماز و خطبہ پر مامور کرتا اور گاہے معزول کر دیتا۔ یہی وجوہات
 تھے جن سے لوگوں کو اس سے ناراضی اور کشیدگی پیدا ہوئی انہیں دنوں متوکل
 نے بغا، وصیف کبیر، وصیف صغیر، اور دواجن کو بھی اپنی تلون طبعی سے بد
 کر دیا اور ان لوگوں نے موالی (آزاد غلاموں) خلافت پناہی کی مخالفت
 پر ابھار دیا اسی زمانہ میں بغا کبیر حکم خلیفہ متوکل سیمساط کی طرف بانتظار صوا
 کوچ کر گیا بجائے اسکے اس کا بیٹا موسیٰ جو خلیفہ متوکل کے قالہ کار کا تھا
 مجلس اسے شاہی کی حفاظت پر مامور ہوا اور سر اپدہ خلافت پر بجا شراہی
 صغیر متعین کیا گیا۔ بعد اسکے خلیفہ متوکل نے وصیف سے ناراض ہو گئے

اسکے مال و اسباب اور جاگیر کو اصفہان اور جبل وغیرہ میں تقبی ضبط کر کے فتح بن خاقان کو دیدنی وصیف کو اس سے برہمی پیدا ہوئی۔ منتصر سے بلا تھوڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے دل کا غبار نکالتے رہے بالآخر یہ اسے قائم کی کہ خلیفہ متوکل کی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہئے چنانچہ اس مقصود کے حاصل کرنے کے لئے خدام کی ایک جماعت کو مامور کیا اور اپنے لڑکے صالح اور احمد، عبداللہ اور نصر کو ان کے ہمراہ کر دیا جس رات کو یہ سب مجلس اسے شاہی میں خفیہ طور سے داخل ہوئے حسب عادت منتصر بھی حاضر ہوا چند ساعت بیٹھ کے بدستور قدیم اپنے خادم زرافہ کو لئے ہوئے واپس آیا منتصر کی واپسی کے بعد بغاشرابی نے اور مصاحبین اور حاضرین کو مراجعت کا اشارہ کیا ایک ایک دو دو کر کے رخصت ہو گئے خلیفہ متوکل اور فتح بن خاقان معہ چار مخصوص مصاحبین کے باقی رہ گیا کل دروازے بند تھے صرف باب و جلد کھلا ہوا تھا اسی راستہ سے وہ لوگ دہے پاؤں اس کمرہ میں آئے جس میں خلیفہ متوکل رونق افروز تھا خلیفہ متوکل اور اسکے مصاحبوں کو جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں کے آنے کا احساس ہو گیا سر اٹھا کے دریافت کیا "بغاشرابی! یہ کیا معاملہ ہے؟" عرض کیا "خداوند عالم آج انہیں لوگوں کے پرہ کی باری ہے" خلیفہ متوکل یہ سنکے خاموش ہو گیا ان لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ خلیفہ متوکل ہمارے بے وقت آنے پر متعرض ہوا ہے صبح ہوتے ہی ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیگا مارنے اور مر جانے کی قسمیں کھائیں اور سب کے سب شمشیر بکف خلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے فتح بن خاقان بچاؤ کے قصد سے خلیفہ متوکل پر جا پڑا ان لوگوں نے اسکو بھی قتل کر ڈالا اور خون آلودہ تلواریں لئے ہوئے منتصر کے پاس آئے اس وقت منتصر زندہ

کے مکان میں سو رہا تھا ان لوگوں کے شور و غوغا سے جاگ کر باہر آیا یہ لوگ آدابِ خلافت کے مطابق منتصر کو سلام کر کے زرافہ کی طرف قتل کے ارادہ سے بڑھے منتصر نے ان لوگوں کو روک دیا زرافہ نے ہاتھ بڑھا کے بیعت کر لی۔ بعد اسکے خلیفہ منتصر سوار ہو کے مجلس اسے شاہی میں داخل ہوا حاضرین سے بیعت لی اور وصیف کو لکھ بھینچا کہ میں نے فتح کو اس جرم میں کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا قتل کر ڈالا“ وصیف اس خبر سے مطلع ہو کے حاضر ہوا اور بیعت کی۔ اسی وقت خلیفہ منتصر نے اپنے دونوں بھائیوں معتز اور موید کو بھی طلب کر کے اپنی خلافت کی ان سے بیعت لے لی رفتہ رفتہ یہ خبر عبید اللہ بن یحییٰ تک پہنچی رات ہی کو سوار ہو کے معتز کے مکان پر آیا ملاقات نہ ہوئی بات کی بات میں اس کے پاس دس ہزار آدمی مجتمع ہو گئے جس میں ازومی، ارمی، اور عجمی تھے ان لوگوں نے متفق الکلم ہو کے عرض کیا ”آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم منتصر کا مع اس کے ہمراہیوں کے خاتمہ کر دیں“ عبید اللہ بن یحییٰ نے ان لوگوں کو اس فعل سے روکا اور خود بھی اپنے خیالات پریشان و منتشر کو جمع کر کے جو قصدا سکارا ہو باز آیا۔ صبح ہوئی تو خلیفہ منتصر نے خلیفہ متوکل اور فتح کے دفن کئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ واقعہ چوتھی شوال ۲۲۶ھ کا ہے۔

۱۔ خلیفہ متوکل علی اللہ جعفر ابوالفضل بن معتصم بن رشید کی ماں ام ولد (کنیزک) تھی شجاع نام تھا ۱۸۶ھ میں پیدا ہوا ماہ ذی الحجہ ۳۳۲ھ میں بعد خلیفہ واثق باللہ سریر خلافت پر متمکن ہوا تقریباً چالیس مرتلے عمر کے طے کے چودہ برس دس مہینے تین دن خلافت کی۔ اسکا میلان طبع اہل سنت و جماعت کی طرف تھا ۲۳۲ھ میں اسے تمام ملک محروسہ میں اعلان کر دیا محدثین کو گرا نبھا خلعتیں مرحمت فرمائیں اور احادیث صفات و روایت کی روایت کا عام حکم دیدیا چنانچہ ابو بکر بن ابی شیبہ جامع رصافہ میں اور انکے بھائی عثمان نے جامع منصور میں بیٹھ کے حدیثوں کی روایت بیان کی جسکی سماعت تقریباً تیس ہزار آدمیوں کی

خلیفہ متوکل کے مارے جانے کی خبر مشہور ہونے پر لشکریوں میں ایک شورش سی پیدا ہو گئی بازاری اور اوباش ان کے پیچھے ہولے شور و غوغا مچاتے ہوئے مجلس شاہی کے دروازہ پر پہنچے اراکین سلطنت میں سے ایک شخص باہر آیا اور ان لوگوں کی گفتگو سن کے واپس گیا بعد ازاں خلیفہ منتصر بنفس نفیس مجلس شاہی سے برآمد ہوا اسکے گرد و پیش فوج جاں نثاران کا ایک دستہ تھا ان لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے بعد اسکے کہ ان میں سے چھ آدمی کام آگئے۔

اخبار خلفاء عباسیہ جنہوں نے عہد خلافت منتصر سے

زمانہ حکومت منتصر تک خلافت و حکمرانی کی حیدر آئین فتنہ

ہر طرف مشتعل ہو رہی تھی اور اراکین سلطنت ممالک محروسہ

کو دباے جاتے تھے اور پوجہ خود سری و خود مختاری گورنر

صوبجات قوائے دولت محل اور کمزور رہتے تھے۔

جس وقت بنو عباس کرسی خلافت پر رونق افروز ہوئے تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا سکہ چل گیا جیسا کہ اسکے پہلے بنو امیہ کی حکومت کا چراغ جل رہا تھا اسی زمانہ میں جبکہ بنو امیہ کا بچہ بچہ اس جرم میں کہ وہ خاندان خلافت کا آئندہ ایک ممبر ہو گا قتل ہو رہا تھا ہاشم بن عبد الملک کی اولاد سے عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام نامی ایک شخص اس عام خونریزی سے بہ کمال بے کسی و بے سرو سامانی اپنی جان بچا کر بھاگا۔ دریا عبور کر کے آندلس پہنچا چونکہ

حکمرانی کی بودماغ سے نہ گئی تھی اُنڈلس کو عبد الرحمن بن یوسف فہری کے قبضہ سے نکال کے خود حکمرانی کرنے لگا ایک برس تک خلیفہ سفاح کے نام کا خطبہ اُنڈلس کے مساجد میں پڑھا گیا بعد اسکے جب عبد الرحمن بن معاویہ کے خاندان والے مشرق سے اُنڈلس آگئے تو ان لوگوں نے سفاح کے نام کا خطبہ پڑھنے پر غیرت دلائی اور نصیحت کی عبد الرحمن بن معاویہ کے دل میں اپنی اور اپنی قومی تباہی کی چوٹ موجود تھی سفاح کی دعوت اور اُسکے نام کا خطبہ موقوف کر دیا جس سے اُنڈلس کو دولت اسلامیہ سے جس کے مالک بنو عباس ہو گئے تھے علیحدگی ہو گئی پھر جب عہد خلافت خلیفہ ہادی ۹۲ھ میں علی بن حسن بن علی کا واقعہ پیش آیا اور ان کے سرگروہ حسین بن علی بن حسن مثنیٰ معہ ایک گروہ کے جو ان کے خاندان سے تھا قتل کر ڈالے گئے اور کچھ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے از انجملہ ادریس بن عبد اللہ بن حسن مغرب اقصیٰ کی جانب چلے گئے اور ہیریوں میں اُسی زمانہ سے اپنی دعوت کی بنیاد ڈالی پس اس طرح سے مغرب بھی بنو عباس کے دائرہ حکومت سے باہر ہو گیا اور وہاں انکی ایک حکومت مستقل قائم ہو گئی۔ پھر بعد چندے جو وقت خلیفہ متوکل مارا گیا اُس وقت سے خلافت عباسیہ اور ضعیف ہو گئی ہر چار طرف سے گورنران صوبجات اسلامیہ کی خود مختاری کی صدائیں آنے لگیں حکمرانی کی مشین کے پُرزے ایک دوسرے سے جدا ہو کے بجائے خود ایک مشین کے قائم ہو گئے۔ بغداد میں بغاوت پھوٹ نکلی علویہ نے بلاد اسلامیہ میں نکلنے اپنی دعوت کا نفاذ کیا اور بجا دیا چنانچہ ابو عبد اللہ شیبی نے ۲۸۶ھ میں افریقیہ پہنچنے کے طامہ میں عبید اللہ المہدی بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسمعیل بن جعفر الصادق کی خلافت کی دعوت دی اور ان لوگوں سے عبید اللہ المہدی

کی خلافت کی بیعت لے لی اور افریقیہ کو بنو غلب کے قبضہ سے نکال کے اس پر اور مغرب اقصیٰ، مصر اور شام پر متصرف ہو گئے پس ان کل صوبجات نے خلفاء بنو عباسیہ کے قبضہ اقتدار سے نکل کے ایک جدید دولت کی صورت اختیار کر لی جو دو سو ستر برس تک قائم رہی جیسا کہ ان کے حالات اور اخبار میں بیان کیا جائے گا۔

پھر بعد چند سالہ عہد خلافت مستعین میں علویہ سے حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن سبط معروف بہ داعی نے طبرستان میں خروج کیا اور دہلیم میں جا ملے وہ لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور انھوں نے طبرستان و اطراف طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا بعدہ اسی مقام پر ایک اور دولت و حکومت کا بنیاد ہی پھر سالہ میں بنو حسین سے اطروش کے ہاتھ سے رکھا گیا پھر بنو علی سے عمر داعی طالقان کی حکومت زمانہ مقتدر میں قائم ہوئی جیسا کہ تم آئندہ اسکو پڑھو کے اس اطروش کا نام حسن بن علی بن حسین بن علی بن عمر تھا پھر ان پر دہلیم غالب آئے جس سے ایک دوسری حکومت کی بنا پڑی یمن میں رئیس یعنی ابن طباطبای بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن ثنی کا ظہور ہوا انہوں نے دعوت زیدیہ کا آغاز کیا بعدہ، صنعاء اور بلاط یمن پر متصرف ہو گئے اور یہاں پر ان کی ایک علیحدہ حکومت قائم ہوئی جو اس وقت تک قائم ہے۔ سب کے پہلے ان میں سے جن کا ظہور ہوا وہ کچی بن حسین بن قاسم تھے جنہوں نے سالہ میں خروج کیا بعد ازاں زمانہ فتنہ میں دعاۃ علویہ سے صاحب رنج اس دعویٰ سے کہ وہ احمد بن عیسیٰ بن زید شہید ہے سالہ عہد خلافت مہندی میں ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس کے نسب میں طعن و جرح کی تو اس نے اپنے کو کچی بن زید شہید جرجان کی طرف منسوب

کر دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے کو طاہر بن حسین بن علی کی جانب منسوب
 کیا تھا مگر محققین کے نزدیک یہ علی بن عبد الرحیم بن عبد القیس ہے۔ چنانچہ
 اسکی اور اسکی اولاد کی ایک حکومت اطراف بصرہ میں زمانہ فتنہ سے قائم ہوئی
 جس کا انقراض و خاتمہ خلیفہ معتضد کے ہاتھ ہوا۔ پھر اطراف بحرین اور عمان میں
 قرظ کا ظہور ہوا یہ کوفہ سے ۲۷۹ھ عہد خلافت معتضد میں وارد بحرین ہوا اور
 اپنے کو اسماعیل امام بن جعفر صادق کی طرف جھوٹے دعویٰ سے منسوب کیا
 حسن جمالی اور زکرونہ قاشانی اس کے ہمراہیوں اور مشیروں سے تھا ان کو گول
 نے اس کے بعد بھی اس دعوت کو قائم رکھا اور عبد المہدی کی خلافت و
 امارت کی دعوت دیتے رہے چنانچہ بصرہ اور کوفہ پر متصرف ہو گئے بعد ازاں
 اس سے منقطع ہو کے بحرین اور عمان کے طرف چلے گئے اور وہاں پر ایک
 علیحدہ سلطنت قائم کر لی جس کا انقراض و خاتمہ قبائل عرب کے بنو سلیم اور
 بنو عقیل کے ہاتھوں آخری چوتھی صدی میں ہوا۔ انہیں واقعات کے اثنائے
 میں بنو سامان نے اطراف ماوراء النہر میں خود سری کا آخری ۲۷۶ھ میں اعلان
 کیا مگر دعوت خلافت کو بدستور قائم رکھا بایں ہمہ خلفاء کے احکام کی تعمیل
 نہ کرتے تھے انکی حکومت آخری چوتھی صدی ہجری تک قائم رہی بعد اس کے
 ایک دوسری حکومت ان کے موالی (آزاد غلاموں) کی غزنہ میں چھٹی صدی
 ہجری تک ان سے ملحق و متصل رہی اور ابتداء ۲۷۵ھ زمانہ فتنہ سے ا غالب
 تیروان و افریقیہ کی ایک دوسری سلطنت مصر و شام میں خود مختاری و خود سری
 کی وجہ سے آخری تیسری صدی ہجری تک قائم رہی پھر انکے بعد ہی ایک جداگانہ
 حکومت ان کے موالی بنو طفیح کی قائم ہوئی جس کا قیام ۳۷۴ھ تک رہا ان
 واقعات کے اثنائے میں دولت عباسیہ کے قوائے حکمرانی مضحل و کمزور

ہوتے گئے اور انکی حکومت کا دائرہ تنگ ہوتا گیا یہاں تک کہ ان کے قبضہ سے سواد
 و جزیرہ بھی نکل گیا صرف بغداد انکے قبضہ و تصرف میں رہا۔ بعد ازاں ایک دوسری
 سلطنت ولیم کی قائم ہوئی جس نے کل صوبجات مالک اسلامیہ پر قبضہ حاصل کر کے
 بغداد کا قصد کیا اور اس پر بھی مستولی ہو گئے ۳۳۳ھ عہد خلافت مستکفی سے خلیفہ
 برائے نام سریر خلافت پر متمکن رہا درحقیقت دوسروں کے قبضہ اقتدار میں زمام خلا
 رہی سلطنت ولیم کل سلطنتوں سے جو بجاالت کمزوری دولت عباسیہ قائم ہوئی
 تھیں باعتبار اقتدار اور وسعت ملکی کے بڑی اور شاندار تھی۔ پھر ان کے ہاتھوں
 سے ملک و حکومت کو سلجوقیہ نے غز سے جو ترک کی ایک شاخ ہے لے لیا
 پس ۴۲۷ھ زمانہ خلافت قائم سے آخری چھٹی صدی ہجری تک یہ حکومت
 قائم رہی ان کی حکومت و سلطنت بھی دنیا کی اعظم ترین سلطنتوں سے شمار
 کی جاتی ہے پھر اس سے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی بنا پڑی جو اس وقت تک
 قائم ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر کیا جائیگا۔

اس کمزوری کی حالت میں خلفا بنی عباس مابین دجلہ، فرات، صوبجات
 سواد اور بعض صوبہ فارس میں اپنا قدم استقلال کے ساتھ جمائے رہے تا آنکہ
 تاتاریوں نے چین کی جانب سے سر اٹھایا اور دولت سلجوقیہ پر ٹوٹ پڑے
 اس وقت تک تاتاری مذہب مجوسی کے پابند تھے بعد ازاں بغداد پر چڑھ آئے
 خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا اور خلافت اسلامیہ کے شیرازہ حکومت کو درہم و
 برہم کر دیا یہ واقعہ ۵۰۴ھ کا ہے بعد اس واقعہ کے تاتاری دائرہ اسلام میں
 داخل ہوئے ان کی بہت بڑی دولت ہوئی بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں
 اس سے نکلیں جو اس وقت تک اطراف و جوانب میں باقی ہیں جیسا کہ ہم
 انکو انکے موقع پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

معتز و موید | خلیفہ منقصر نے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں بیعت خلافت
کی معزولی لینے کے بعد دیوان مظالم پر ابو عمر اور احمد بن سعید کو دمشق پر
 عیسیٰ بن محمد نوشتری کو ہامور فرمایا قلمدان وزارت احمد بن خصیب کے سپرد تھا مالک
 محروسہ میں کسی قسم کی بد نظمی نہ واقع ہوئی چونکہ وصیف، بغا اور احمد بن خصیب کو بوجہ
 قتل خلیفہ متوکل معتز اور موید کی سطوت سے آئندہ خطرہ کا اندیشہ تھا خلیفہ منقصر
 کی تخت نشینی کے چالیسویں روز ان دونوں کے معزول کرنے پر منقصر کو آمادہ کرنا
 خلیفہ منقصر نے ان دونوں کے پاس معزولی کا پیغام کہلا بھیجا موید نے منظور کر لیا
 اور معتز نے انکار کر دیا وصیف وغیر ہم کی بن آئی طرح طرح کی اسپر سختی کی اور
 قتل کی بھی دھمکی دی موید یہ رنگ دیکھ کے معتز سے تنہائی میں ملا نرمی اور ملاطفت
 سے اونچا نیچا سمجھایا یہاں تک کہ معتز بھی اس کی رائے سے متفق ہو گیا اور اپنے
 آپ کو معزول کر دیا۔ بعد اسکے دونوں اپنے قلم خاص سے اپنی معزولی کا محضر
 لکھ کے دربار خلافت میں حاضر ہوئے خلیفہ منقصر نے کمال احترام سے اپنے
 پاس بٹھالیا اور اطاعت شکاری کا نتیجہ دیکھ کے معذرت کرنے لگا کہ میں نے
 امراء دولت کے کہنے سننے سے تم لوگوں کے معزول کرنے کا اسوجہ سے قصد کیا
 تھا کہ مبادا یہ لوگ تم کو کسی قسم کا صدمہ پہنچائیں اب چونکہ تم لوگوں نے اپنی
 معزولی اپنے قلم خاص سے لکھی ہے وہ اندیشہ جاتا رہا۔ ان دونوں نے
 دست بوسی کی شکر یہ ادا کیا قضاة، سرداران بنو ہاشم، سپہ سالاران لشکر، ارکین
 دولت اور زسا، شہر نے اس محضر پر اپنی اپنی گواہی لکھی خلیفہ منقصر نے اس مضمون
 کا ایک گشتی فرمان اپنے تمام مالک محروسہ اور نیز بغداد میں محمد بن عبدالمدین طاہر
 کے پاس بھیج دیا۔
 احمد بن خصیب کو جب ان دونوں ولیعهدوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا

اور ان کی معزولی میں اسکو پوری پوری کامیابی ہوگئی تو وصیف کے درپے ہو گیا کہ جس طرح ممکن ہو خلیفہ کی نظر سے دور پھینک دینا چاہئے کیونکہ ان دونوں میں ایک مدت سے آن بن ہو رہی تھی خلیفہ منتصر نے احمد بن خصیب کے اشارہ سے وصیف کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد وصیف نے حاضر ہو کے دست بوسی کی خلیفہ منتصر نے اس سے مخاطب ہو کے ارشاد کیا ”وصیف! ہم کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ رومی گمراہوں نے سرحدی مالک میں داخل ہو کے بد نظمی پھیلا دی ہے اس حالت میں ان کی سرکوبی کے لئے تم کو یا مجھ کو لشکر کے ہمراہ ضرور جانا چاہئے وصیف نے عرض کیا ”خادم کے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے“ خلیفہ منتصر نے احمد بن خصیب کو وصیف کی روانگی کا سامان مہیا کرنے کا حکم دیا لشکریوں کو حسب حاجت آلات جنگ اور رسد و غلہ مرحمت فرما کے روانہ کیا اور وصیف کو یہ ہدایت کی کہ لشکر اسلام حد و ملتہ میں جا ملنا۔ اس کے مقدمتہ الجیش پر مرزا حم بن خاقان (فتح کا بھائی) اور رسد رسانی لشکر اور مال غنیمت کے فراہم و تقسیم کرنے پر ابوالولید قیروانی تاصدور حکم ثانی مقرر کیا گیا۔

منتصر کی موت | خلیفہ منتصر نے اپنی تخت نشینی کے چھٹے مہینے پانچویں
منتصر کی موت | ربيع الاول ۲۲۸ھ میں بعارضہ و بجز وفات پائی بیان
کیا جاتا ہے کہ کسی طبیب نے مجھ زہر آلو وہ لگا دیا تھا جس سے اسکی موت

۱۵ خلیفہ منتصر باسد محمد بن متوکل بن معتمد بن رشید بن حمدی بن منصور کی ماں ام ولد رومیہ حبشیہ
نامی تھی ۲۲۳ھ مقام سامرہ میں پیدا ہوا چھ مہینے کی عمر پائی سامرہ میں انتقال ہوا احمد بن محمد معتمد نے
تازہ جنازہ پڑھائی۔ ملیح صورت، گندم رنگ اور بارعب داب تھا علوں کے ساتھ خاص رعایتیں کرتا تھا۔
تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۴۴۔ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۲۲۔ قوات الوقیات جلد ۲ صفحہ ۱۸۲۔

وقوع میں آئی۔

خلیفہ منقر کے مرنے پر اراکین سلطنت اور خدام خلافت مجلس اسے شاہی میں
 مجتمع ہوئے جس میں بغا صغیر، بغا کبیر، اور تامش وغیر ہم تھے خلیفہ بنانے کی بابت
 رائے زنی کرنے لگے سپہ سالاران اتراک اور سرداران مغاربہ اور اشروشیہ نے
 طلع اٹھا کے بیان کیا کہ جس کو بغا کبیر، بغا صغیر اور تامش خلیفہ مقرر کریں گے
 اسی کو ہم لوگ بھی اپنا سردار اور امیر تسلیم کریں گے چنانچہ یہ لوگ مشورہ کی عرض
 سے ایک طلحہ کمرہ میں گئے اس کمیٹی میں احمد بن حسیب وزیر السلطنت بھی
 تھا یہ لوگ باتفاق اسے اس خیال سے کہ مبادا آئندہ کسی قسم کا صدمہ نہ اٹھانا
 پڑے خلیفہ متوکل کی اولاد سے اعراض کر کے اولاد خلیفہ معتصم کی طرف نظر
 انتخاب سے دیکھنے لگے بالآخر احمد بن محمد بن معتصم کو طلب کر کے ہاتھ پر
 خلافت کی بیعت کی اور مستعین باللہ کا خطاب دیا احمد بن حسیب کو بطور
 قائم مقامی عہدہ کتابت (یعنی سکرٹری شپ) اور تامش کو عارضی طور سے
 عہدہ وزارت دیا گیا (یہ واقعہ چھٹی ربیع الثانی ۲۲۸ھ شب دو شنبہ کا ہے)
 اگلے دن صبح ہوتے ہی خلیفہ مستعین خلافت کی شان سے دارالعوام میں آیا ابراہیم
 بن اسحاق شمشیر برہنہ لئے ہوئے آگے آگے تھا عساکر اسلامیہ اور خدام دولت
 دورویہ صف بستہ کھڑے ہوئے تھے سرداران عباسیہ اور طالمبیہ علی حسب مراتب
 موجود تھے یکایک شور و غل کی آواز آنے لگی تھوڑی دیر کے بعد لشکریوں کی
 ایک جماعت نے دارالعوام کے دروازہ پر پہنچے ایک ہنگامہ برپا کر دیا
 دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ محمد بن عبدالسد بن طاہر کے ہمراہی ہیں
 اور معتز کو سر پر خلافت پر بٹھانے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بازار یوں

۱۰ ابن اثیر جلد ۱، صفحہ ۲۲۲۔

اور تماشائیوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ دو جن کے ہمراہیوں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہو گیا اس اثنائے میں سفید پھریرے والے اور شاگردیہ آپہونچے دوسری جانب سے مغاریہ اور اشروشیہ نے حملہ کر دیا معرکہ کارزار گرم ہو گیا زمین اور آلات جنگ خزان شاہی اور دارالعوام سے لوٹ لئے گئے بغا صغیر نے پہونچکے اُن غوغائیوں اور بلوائیوں کو ہٹایا اور انہیں سے چند لوگوں کو قتل کر ڈالا اسی ہنگامہ کے اثنائے میں قیدیوں نے جیل کا دروازہ توڑ ڈالا نکل آئے اس مابین میں ترکوں نے خلیفہ مستعین کی بیعت کر لی سحیت کرنے والوں کو انعامات اور جائزے ملنے لگے بعد اس کے محمد بن عبدالمدین طاہر کے پاس بیعت کرنے کا پیام بھیجا۔ اُس نے اور سبھوں نے جو بغداد میں تھے خلیفہ مستعین کی بیعت کر لی۔

تکمیل بیعت کے بعد یہ خبر لگی کہ طاہر بن عبدالمدین طاہر والی خراسان کا خراسان میں اور اس کے چچا حسین بن طلہر کا مرو میں انتقال ہو گیا خلیفہ مستعین نے ۲۴۸ھ میں محمد بن طاہر کو بجائے طاہر بن عبدالمدین کے مرو پر اور محمد بن عبدالمدین طاہر کو خراسان پر مامور کیا اور اس کے ایک چچا طلحہ کو نیشاپور کی اس کے بیٹے منصور بن طلحہ کو مرو، سرخس، اور خوارزم کی، اور دوسرے چچا حسین بن عبدالمدین کو صوبجات ہرات کی تیسرے چچا سلیمان بن عبدالمدین کو طبرستان کی اور چچا زاد بھائی عباس کو جرجان اور طالقان کی حکومت عنایت فرمائی۔ بغا کبیر کے مرنے پر اس کے بیٹے موسیٰ کو اس کے کل صوبجات پر متعین کیا۔

ترکی سپہ سالاروں میں سے ابو جور کو بسرافسری ایک لشکر کے عمودِ ثعلبی کی جانب روانہ کیا پس اس نے اُس کو قتل کر ڈالا۔ اسی ۲۴۸ھ میں عبدالمدین کبیری بن خاقان نے اداسیج کی اجازت چاہی خلیفہ مستعین نے اجازت دیدی مگر

اس کے روانہ ہونے کے بعد ہی ایک شخص کو اپنے سرداروں میں سے عبدالمد
بن یحییٰ کو جلاوطن کر دیئے پر مامور کیا چنانچہ اس نے اس کوچ سے روک کر رقبہ
کی طرف جلاوطن کر دیا انھیں دونوں ترکوں نے معتز اور موید کے قتل کا قصد کیا
احمد بن خصیب نے ان لوگوں کو اس سے منع کیا خلیفہ مستعین نے ان دونوں
شہزادوں کو جو سق میں نظر بند کر دیا بعد اس واقعہ کے احمد بن خصیب موروثی
ہوا خدام دولت نے اس کا اور اس کے لڑکوں کا مال و اسباب ضبط کر کے قریش
کی جانب جلاوطن کر دیا تاش کو عہدہ وزارت پر مستقل کیا مصر اور مغرب کی
سند حکومت عطا کی بغاشرابی کو حلوان، ماسندان اور مہر جانقذق پڑشاہک
خادم کو مجلس اسے شاہی، فوج جان نشان اور خاص خاص کاموں پر اور اثناس
کو بقیہ اراکین سلطنت پر متعین فرمایا علی بن یحییٰ ارمی کو ثغور شامہ سے صوبجات
ارمنیہ اور آذربجان کی گورنری پر تبدیل کر دیا۔ صوبہ حمص پر کندر نامی ایک شخص
تھا اہل حمص نے بلوہ کر کے اسکو نکال باہر کیا دربار خلافت سے فضل بن قارن
برادر مازیار مامور ہوا اس نے اہل حمص کا خون مباح کر دیا اور ان کے سرداروں
کو سامرہ میں گرفتار کر لایا۔ وصیف کو جو ثغر شامی میں تھا صائفہ کے ساتھ جہاد
کرنے کا حکم بھیجا گیا چنانچہ وصیف نے اس حکم کے مطابق بلاد روم میں داخل
ہو کے قلعہ قروریہ کو فتح کر لیا۔ پھر ۲۴۹ھ میں جعفر بن دینار بسرافسری لشکر صائفہ
جہاد کرنے کو گیا اور مطاسیر کو فتح کر کے واپس آیا۔ عمر بن عبدالمد قطع نے بلاد روم
پر جہاد کرنے کی دربار خلافت سے اجازت حاصل کی مجاہدین اہل ملطیہ کی ایک
جماعت کے ساتھ بلاد روم پر فوج کشی کی پادشاہ روم پچاس ہزار فوج سے مرج
استف میں مقابلہ پر آیا عساکر اسلامیہ کو ہر جہا طرف سے گھیر لیا عمر بن عبدالمد
دو ہزار مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ اس واقعہ سے رومیوں کے حوصلے بڑھ گئے

شہزادہ جزیروہ پر چڑھائی کر دی علی بن یحییٰ کو جس وقت کہ وہ ارمینیہ سے سیاقاقلین کو جا رہا تھا یہ خبر لگی جوش حمیت قومی سے لوٹ پڑا ایک عظیم خونریزی کے بعد معہ چار سو آدمیوں کے شہید ہو گیا۔

اہل بغداد و سامرا کا جوش
جس وقت ان دونوں نامی سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر بغداد تک پہنچی اہل بغداد کی آنکھوں سے خون ٹپک پڑا سو مجہدوں سے کہ یہ دونوں شہید جہاد کے سخت حریف، اسلام اور اسلامیوں کے دلی دوست تھے ملک اور قوم کو ان کی ذات سے بڑی تقویت تھی ترکوں پر غفلت اور لاپرواہی کا الزام لگایا خلیفہ متوکل کے مارے جانے اور امور سلطنت پر ترکوں کے متصرف و غالب ہو جانے کا تذکرہ کرتے ہی جوش انتقام سے بھر ا اوٹھے عوام الناس نے مجتمع ہو کر جہاد جہاد کا شور برپا کر دیا فوج شاکریہ اس منادی کو سن کے ان لوگوں میں جا ملی دربار خلافت سے اپنی تنخواہیں طلب کیں۔ جیل کے دروازے توڑ کے قیدیوں کو نکال گیا بغداد کا پل توڑ ڈالا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے سکریٹری کے مکانات ٹوٹ گئے امرار بغداد نے بہت سامان و اسباب مجاہدین کو دیا جبال، فارس اور اہواز سے مجاہدین کا گروہ دل بادل کی طرح اُٹ آیا مرتب و مسلح ہو کے جہاد کے غرض سے نکل کھڑے ہوئے خلیفہ مستعین اور اراکین دولت نے دم تک نہ مارا۔ بعد اس کے عوام الناس نے سامرہ میں آتش فساد روشن کر دی جیل کے دروازے توڑ کے قیدیوں کو نکال لیا۔ خدام دولت کی ایک جماعت اس طوفان کے روک تھام کو آئی عوام الناس ان پر ٹوٹ پڑے خدام دولت کو ہزیمت ہوئی بے صیغہ اور تاش سوار ہو کے ترکوں کی فوج لے کے آہو پچھے ایک گروہ کثیر عوام الناس کا مارا گیا اور ان کے مکانات ٹوٹ گئے فتنہ و فساد فرو ہو گیا۔

قتل اتامش خلیفہ مستعین نے سریر خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد اتامش اور اسکی ماں اور شاہک خادم کو اس قدر آزادی دیدی کہ یہ لوگ بلا ہتفاس بیت المال اور خزانہ شاہی سے جس قدر چاہتے لے لیتے جو چاہتے کر گرتے جو ہرایا اور تحائف اطراف و جوانب سے آتے بے تکلف تصرف کر ڈالتے اور جوان لوگوں کے دستبرد سے بچتا اور سکوتا مش عباس بن مستعین کے صرف کے بہانہ سے لے لیتا کیونکہ یہ اس کی نگرانی میں پرورش پاربہ تھا اس سے بغا اور وصیف کو ناراضی پیدا ہوئی اتراک اور فراغنے کا حال پتلا ہو گیا بغا اور وصیف کو اس امر کا احساس ہو گیا انہوں نے ان لوگوں سے سازش کی کہ او بھار دیا چنانچہ ان میں سے اہل شہر اور مجلس اس شاہی کے محافظین اٹھ کھڑے ہوئے جو سق کا قصد کیا جہاں پر اتامش خلیفہ مستعین کے ساتھ مقیم تھا اتامش نے اس سے مطلع ہو کے بھاگنے کا قصد کیا مگر نہ بھاگ سکا خلیفہ مستعین کے پاس پتہ گزین ہونے کا ارادہ کیا خلیفہ مستعین نے پناہ نہ دی دور ورتک محاصرہ میں رہا تیسرے روز بلوائیوں نے جو سق کا دروازہ توڑ ڈالا ہٹاڑ مچا کے گھس پڑے اس کو اور اسکے کاتب شجاع بن قاسم کو قتل کر کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔

خلیفہ مستعین نے بجائے اس کے ابو صالح عبد اللہ بن محمد بن علی کو عہدہ وزارت سے ممتاز کیا وصیف کو اہواز کی اور بغا صغیر کو فلسطین کی سند حکومت عطا کی بعد چندے بغا صغیر اور وزیر السلطنت ابو صالح سے ان بن ہو گئی ابو صالح بخوف بغا صغیر بغداد بھاگ گیا تب خلیفہ مستعین نے قلمدان وزارت محمد بن فضل جرجانی کے سپرد کر دیا اور دیوان رسائل پر سعید بن حمید کو مامور فرمایا۔

ظہور یحییٰ بن عمر یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید شہید کوفہ میں رہتے تھے
کنیت ابو الحسنین تھی ان کی ماں عبدالمد بن جعفر کی نسل سے تھیں یہ بنو طالب
کے مشاہیر بزرگوں سے تھے غربت اور کس پرسی کی وجہ سے افلاس اور تنگ
دستی نے گھیر لیا تھا نان شبینہ کو محتاج ہو رہے تھے انھیں دنوں عمر بن فرج کوفہ
میں عہد حکومت متوکل میں بنو طالب کا سردار مقرر ہو کے خراسان سے آیا
ابو الحسنین اس سے ملنے کو گئے اپنی مقروضی، افلاس، تہیدستی اور کثرت عیال
کا حال بیان کر کے ہمدردی اور صلہ رحمی کے خواستگار ہوئے عمر بن فرج نے
سخت و درشت الفاظ سے مخاطب کر کے قید کر دیا جب لوگوں نے ضمانت کی
تو رہا کیا۔

ابو الحسنین قید سے رہا ہو کے بغداد پہنچے پھر بغداد سے سامرا آئے وصیف سے
ملاقات کی اپنی بے کسی اور محتاجی کو بیان کر کے کچھ وظیفہ مقرر کئے جانے کی بابت
عرض و معروض کیا وصیف بھی بد مزاجی سے پیش آیا سخت و ناملائم الفاظ کہہ کے
نکلوا دیا۔ بہ مجبوری بحال پریشان کوفہ واپس آئے ان دنوں محمد بن عبدالمد بن
طاہر کی جانب سے ایوب بن حسین بن موسیٰ بن جعفر بن سلیمان بن علی والی کوفہ
تھا۔ ابو الحسنین نے کوفہ میں پہنچنے کے باوجود نشینان عرب اور اہل کوفہ کو بقصد خروج
مجمع کیا اور آل محمد کی حمایت اور ان سے راضی ہونے کی ترغیب دی سبھوں نے
بطیب خاطر اس دعوت کو منظور و قبول کیا جیل کے دروازے توڑ کے قیدیوں
کو نکال لیا عمال شاہی کو شہر سے نکال باہر کیا شاہی و فائر کو جلا دیا بیت المال
کے دروازے توڑ ڈالے دو ہزار دینار سرخ اور ستر ہزار درہم لوٹ لئے پیرچہ
نویس نے محمد بن عبدالمد بن طاہر کو اس سے مطلع کیا محمد بن عبدالمد نے عبدالمد
بن محمود خسی گورنر سواد کو لکھ بھیجا کہ ایوب بن حسین کے ساتھ جنگ یحییٰ بن عمر

چلے جاؤ چنانچہ عبدالمدن بن محمود اور ایوب نے ابو الحسین سے صف آرائی کی ابو الحسین نے پہلے ہی معرکہ میں انکو ہزیمت دیدی جو کچھ ان کے ساتھ تھا کوٹ کے سوا کو فہ کی جانب قدم بڑھائے زید یہ اور اطراف و جوانب کے رہنے والوں کا ایک گروہ ساتھ ہولیا۔ سر زمین واسط پر پہنچتے پہنچتے ایک عظیم الشان لشکر مجتمع ہو گیا۔ محمد بن عبدالمدن نے گھبرا کر حسین بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کو اس بڑھتے ہوئے طوفان کے روک تھام پر مامور کیا اس حکم کے مطابق حسین بن اسماعیل اپنا لشکر مرتب کر کے ابو الحسین کے طرف روانہ ہوا اور ابو الحسین نے کوفہ کی طرف مراجعت کی عبدالرحمن بن خطاب معروف بوجہ الفلّس سے مڈ بھیر ہو گئی ابو الحسین اسکو ہزیمت دیکے کوفہ چلا گیا اور عبدالرحمن بن خطاب نے میدان جنگ سے بھاگ کر شاہی میں دم لیا۔

اہل بغداد اور کوفہ کے عوام و خواص نے زید یہ کی امداد پر کمریں باندھ لیں ابو الحسین کے پاس جوق جوق آکے مجتمع ہونے لگے اس اثناء میں حسین بن اسماعیل کوفہ کے قریب آپہنچا عبدالرحمن بن خطاب بھی یہ خبر پا کے اس سے آٹلا ابو الحسین نے کوفہ سے نکل کے صف آرائی کی تمام رات ترتیب لشکر میں مصروف رہا صبح ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ حسین بن اسماعیل کے ہمراہیوں نے سنبھل کے ایسا پر زور دھاوا کیا کہ ابو الحسین کے رکاب کی فوج میدان جنگ سے گھونگھٹ کھا گئی ہنگامہ وازو گیر و قتل برپا ہو گیا سیکڑوں آدمی کام آگئے ایک گروہ کثیر ابو الحسین کے متبعین کا گرفتار کر لیا گیا از انجملہ مصعب عجل تھا بالآخر یحییٰ بن عمر (یعنی ابو الحسین) کے مارے جانے پر لڑائی کا خاتمہ ہوا سر اتار کے نامہ بشارت فتح کے ساتھ محمد بن عبدالمدن ظاہر کے پاس بھیجا گیا اور محمد بن عبدالمدن ظاہر نے خلیفہ مستعین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ خلیفہ مستعین نے ایک صندوق

میں بند کر کے سلاح خانہ میں رکھوا دیا۔ اور قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا یہ واقعہ
پندرہویں رجب ۱۱۵۷ھ کا ہے۔

طبرستان میں دولت | جس وقت محمد بن عبدالسد بن طاہر کو یحییٰ بن عمر پر
علویہ کا آغا ساز | فتحیابی حاصل ہوئی جیسا کہ تم اوپر پڑھ آئے ہو خلیفہ

مستعین نے اس حسن خدمت کے صلہ میں طبرستان میں جاگیریں مرحمت فرمائیں
از انجملہ ایک جاگیر مدو دلیم کے قریب اوساوس نامی تھی اس جاگیر کے متعلق ایک
قطعہ زمین تھی جس میں بکثرت سبزہ زار اور چراگاہیں تھیں جس سے قرب و جوار کو
فائدہ اٹھاتے تھے ان دنوں محمد بن عبدالسد بن طاہر کی جانب سے اسکا چچا
سلیمان بن عبدالسد بن طاہر (محمد بن عبدالسد بن طاہر جاگیر دار کا بھائی) عامل
طبرستان تھا۔ محمد بن اوس بلخی نامی ایک شخص سلیمان عامل طبرستان کی ناک بال
ہو رہا تھا جو چاہتا تھا کہ گزرتا سلیمان دم تک نہ مارتا اس نے اپنی اولاد کو طبرستان
کے شہروں میں مختلف عہدوں پر مقرر کر دیا رعایا کو ان لوگوں کی عادات و
خصائل خسیہ سے شکایتیں پیدا ہوئیں طرہ اس پر یہ ہوا کہ محمد بن اوس
بلاد دلیم میں داخل ہو کے ایک گروہ گرفتار کر لایا حالانکہ اہل دلیم اور طبرستان
والوں سے مصالحت تھی اس سے ان لوگوں کو برہمی پیدا ہوئی منحرف ہو گئے
اس ابتداء میں محمد بن عبدالسد کا نائب ان جاگیرات پر قبضہ کرنے کو وارد
طبرستان ہوا اور اس قطعہ زمین پر قابض و متصرف ہونے کا قصد کیا جس سے
وہاں کے رہنے والے مستفید ہوتے تھے محمد و جعفر پسران رستم نے مزاحمت
کی اور ان لوگوں کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئے جو اس بلاد میں ان کے
مطیع و فرمانبردار تھے محمد بن عبدالسد کا نائب ان لوگوں سے خائف ہو کے
سلیمان عامل طبرستان کے پاس چلا آیا۔ رستم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دلیم

کے پاس بھیجا کہ سلیمان والی طبرستان کے مقابلہ پر ہماری مدد کرو بعد اسکے طبرستان میں علویوں میں سے محمد بن ابراہیم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ امارت کا دعویٰ کیجئے ہم آپ کے احکام اور اوامر کی تعمیل کریں گے محمد بن ابراہیم نے اس سے خود تو انکار کر دیا مگر یہ ہدایت کر دی کہ تم رے میں جا کے حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن سبط کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرو وہ ہم لوگوں کے سردار اور مقتدا ہیں۔ رستم نے اپنے ایک خاص آدمی کو معہ محمد بن ابراہیم کے خط کے حسن بن زید کی خدمت میں روانہ کیا حسن بن زید اس درخواست اور محمد بن ابراہیم کے خط کو دیکھ کے پھولے نہ سمائے رے سے طبرستان آپہنچے اس عرصہ میں اہل کلار سالوس، ریان اور ولیم کا ایک مجمع ہو گیا پسران رستم ان کے سردار اور پیشوا تھے ان سب لوگوں نے باتفاق حسن بن زید کی امارت کی بیعت کی اور سلیمان و محمد بن اوس کے عمال کو طبرستان سے نکال باہر کیا سلیمان و محمد بن اوس کے عمال کے نکال دینے کے بعد جبال طبرستان والے بھی اس گروہ میں آئے ایک خاصہ لشکر مرتب ہو گیا۔ حسن نے میدان خالی دیکھ کے آمد پر چڑھائی کر دی محمد بن اوس ساریسے آمد کے بچانے کو آیا لیکن پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کے ساریسے میں سلیمان سے جا ملا حسن نے آمد پر قبضہ حاصل کر کے ساریسے کا رخ کیا سلیمان نے اپنا لشکر مرتب کر کے میدان کا راستہ لیا غلطی یہ ہوئی کہ شہر کی حفاظت کا کچھ انتظام نہ کیا اور اسکا احساس حسن بن زید کے سپہ سالاروں کو ہو گیا پس جب وقت شہر کے باہر ایک میدان میں صف آرائی اور دونوں حریف باہم گتھ گتھ گئے حسن بن زید کے دو ایک سپہ سالار میدان جنگ کا راستہ کاٹ کے شہر میں گھس پڑے سلیمان یہ خبر پا کے حواس باختہ بھاگ کھڑا ہوا حسن بن زید نے کامیابی کے ساتھ ساریسے پر قبضہ کر لیا اور سلیمان کے

اہل و عیال کو ایک کشتی پر سوار کر کے سلیمان کے پاس جرجان بھیج دیا۔
 بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان نے بالقصد ہزیمیت اٹھائی تھی اسوجہ سے کہ کل بنی
 طاہر کا میدان تشیع کی جانب تھا۔

ساریہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حسن بن زید نے اپنے چچا زاد بھائی قاسم
 بن علی بن اسماعیل یا بروایت بعض مورخین محمد بن جعفر بن عبداللہ عقیقی بن حسین
 بن علی بن زین العابدین کو لیسرا فسرہی ایک فوج کے رے کی جانب روانہ کیا چنانچہ
 انھوں نے رے پر بھی قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر دربار خلافت تک پہنچی خلیفہ
 مستعین نے ایک لشکر سہدان کی جانب حسن بن زید کے قبضہ و تصرف سے بچانے
 کو روانہ کیا۔

محمد بن جعفر (حسن بن زید کا سپہ سالار) رے پر قابض ہونے کے بعد اہل رے
 سے بدسلوکی کرنے لگا اہل رے کو کشیدگی پیدا ہوئی محمد بن عبداللہ بن طاہر نے
 اپنے ایک سپہ سالار محمد بن میقال برادر شاہ بن میقال کو لیسرا گروہی ایک فوج رے
 کی جانب روانہ کیا محمد بن میقال نے پہنچتے ہی رے پر قبضہ کر کے محمد بن جعفر کو
 گرفتار کر لیا حسن بن زید نے واجن نامی ایک سپہ سالار کو مامور کیا ابن میقال مقابلہ
 پر آیا لڑائی ہوئی ابن میقال کو ہزیمیت ہوئی اثنائے داروگیر میں مارا گیا اور رے پر
 دوبارہ حسن بن زید کا قبضہ ہوا۔ بعد چندے سلیمان بن طاہر نے جرجان طبرستان
 کی جانب مراجعت کی اور اسکو حسن بن زید کے قبضہ سے نکال لیا حسن بن زید
 طبرستان کو خیر آباد کہہ کے ولیم چلے گئے اور سلیمان نے ساریہ و آمد کی طرف کوچ
 کر دیا اس کے ہمراہ قارن بن شہر زاد کے لڑکے بھی تھے سلیمان نے ان کی عفو
 تقصیر کر دی اور اپنے ہمراہیوں کو ان تکلیف دینے سے روک دیا۔

اس واقعہ کے بعد موسیٰ بن یغاکبیر لیسرا فسرہی ایک لشکر جرجان وارڈ رے ہوا

اور لکڑیوں کے قبضہ سے نکال لیا بعد اسکے ایک لشکر صوبجات طبرستان کی جانب روانہ کیا حسن بن زید سے لڑائی ہوئی آخر الامر حسن بن زید صوبجات طبرستان سے بھاگ کے ولیم چلے گئے موسیٰ بن بغا کبیر نے صوبجات طبرستان پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کر لیا اور حسن بن زید کے مکان اور فوجی کمپ کو ویران کر کے رے کے طرف لوٹ آیا۔

قتل باغرا باغتر کی ترکوں میں ایک نامور سپہ سالار اور بغا صغیر کے مصاحبوں سے تھا خلیفہ متوکل کے قتل کے جانے کے بعد اسکا وظیفہ بڑھا دیا گیا کئی گانوں سواد کوفہ میں بطور جاگیر مرحمت کئے گئے۔ ایک شخص نے اہل بار و سما سے ان دیہاتوں کو دو ہزار دینار پٹھیکہ لے لیا اتفاق وقت سے ابن ماریہ نامی ایک شخص باغتر کے وکیل سے اُچھ گیا اور اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا بعد چن بے باغتر کا وکیل رہا ہونے کے سامرا پہونچا دلیل بن یعقوب نصرانی سے ملا جس کے قبضہ میں اندونوں زمام حکومت تھی اور یہ ابن ماریہ کا دوست تھا اس نے باغتر کے وکیل کی کچھ سماعت نہ کی باغتر کا وکیل باغتر کے پاس گیا کل واقعات بیان کئے باغتر کو اس سے برہمی پیدا ہوئی اسی وقت بغا صغیر کے پاس گیا دلیل نصرانی کی شکایت کی سخت وسست الفاظ سے اسکو یاد کیا بغا صغیر نے تشفی و تسلی آمیز کلمات میں کہا ”تم گھبراؤ نہیں میں بہت جلد اس نصرانی سے بدلہ لوں گا چونکہ امور خلافت اسکے ہاتھ میں ہیں عجالت اچھی نہیں میں ذرا اس کے کاموں کا انتظام کر لوں تو تم جو اسکے ساتھ چاہتا کرنا“ باغتر کا جوش اس فقرہ کے سننے سے قدرے فرو ہو گیا لوٹ آیا بغا صغیر نے دلیل نصرانی کو ان کل واقعات سے مطلع کر دیا اور نیز یہ کہلا بھیجا کہ باغتر کے تیور اچھے نظر نہیں آتے ذرا ہوشیار رہنا اور باغتر سے یہ ظاہر کیا کہ میں نے دلیل کو معزول کر دیا ہے مگر پھر بھی باغتر کا غصہ کم نہ ہوا

دوبار خلافت کی آمدورفت بند کر دی ایک روز بغا صغیر حسب عادت قدیمہ اپنا منصبی
 فرض ادا کرنے کو خلیفہ مستعین کی خدمت میں حاضر ہوا خلیفہ مستعین نے وصیف سے
 ایلتاخ کے اعمال اور باغری کیفیت دریافت کی وصیف نے عرض کیا "امیر المؤمنین
 اس معاملہ کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں لیکن میرے نزدیک باغرا اچھا آدمی نہیں ہے"
 خلیفہ مستعین یہ سن کے بغا صغیر کی طرف رائے طلب کرنے کے غرض سے متوجہ
 ہوا اس نے صاف انکار کر دیا۔ باغرا کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ان
 ہمراہیوں کو مجتمع کیا جنہوں نے خلیفہ متوکل کے قتل کا اس سے عہد و پیمان کیا
 تھا اور ان لوگوں سے دوبارہ خلیفہ مستعین اور وصیف کو مار ڈالنے اور خلیفہ معتصم
 یا واثق کے اولاد کو سریر خلافت پر بٹھانے کا اقرار لیا۔ اس شرط سے کہ زمام حکومت
 اس کا رووائی کرنے کے بعد انہیں کے ہاتھ میں ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر خلیفہ مستعین
 کے کانوں تک پہنچ گئی بغا صغیر اور وصیف کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد دونوں حاضر
 ہوئے خلیفہ مستعین نے ان سے یہ واقعات بیان کئے بغا اور وصیف نے قسم
 کھاکے اس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی خلیفہ مستعین نے باتفاق رائے بغا اور
 وصیف باغرا کو معہ ان دو ترکوں کے جو اس کے ہمراز تھے گرفتار کر کے قید کر دینے
 کا حکم دیا جسکی تعمیل حکم کے صادر ہوتے ہی نہایت مستعدی سے کر دی گئی۔
 ترکوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ آگ بگولہ ہو گئے مسلح ہو کے نکل کھڑے
 ہوئے شاہی اصطلب کو لوٹ لیا خاصے کے گھوڑوں پر سوار ہو ہو کے مجلس
 شاہی کی طرف آئے اور اسکو ہر چار طرف سے گھیر لیا۔ وصیف نے ترکوں کی
 یہ حالت دیکھ کے باغرا کے قتل پر ایک سردار کو متعین کیا تھوڑی دیر بعد باغرا
 سر بغا اور وصیف کے رو برو آ گیا۔

باغرا کے قتل ہونے پر جیسا کہ بغا اور وصیف کا خیال تھا ترکوں کا جوش فرو

نہ ہوا بلکہ مضبوطی اور استقلال کے ساتھ ترقی پذیر ہوا سامرا میں جس طرف نظر اٹھتی تھی بلوایوں کا جھنڈ نظر آتا تھا ہر کوچہ و بازار میں ترکوں نے طوفان بے امتیازی برپا کر رکھا تھا مجبوراً بعا و صیف، شاہک خادم احمد بن صالح بن شیرزاو اور خلیفہ مستعین سامرا سے نکل کے بغداد چلے آئے اور محرم ۲۵۱ھ میں محمد بن عبدالمدین طاہر کے مکان پر فروکش ہوئے۔ ان لوگوں کے چلے آنے کے بعد بقیہ سپہ سالاران لشکر، کتاب، اعمال اور کل بنو ہاشم بائستنا، جعفر خیاط اور سلیمان بن یحییٰ بن معاذ سامرا سے بغداد میں آگئے۔

سامرا سے ان لوگوں کی روانگی بعد ترکوں کو خود کردہ پریشانی ہوئی چھ سرداران لشکر سوار ہو کے خلیفہ مستعین اور اس کے ہمراہیوں کو واپس لانے کے غرض سے روانہ ہوئے مگر ان لوگوں نے ان کے عرض و معروض کرنے پر خیال نہ کیا ناامید ہو واپس آئے اور معتز کو خلیفہ بنا سنے کے بابت غور و فکر کرنے لگے۔

معتز کی بیعت | جس وقت خلیفہ مستعین نے دار الخلافت بغداد میں بظاہر مستعین کا محاصرہ مستقل سکونت اختیار کر لی ترکوں کو اس سے ایک گونہ تشویش پیدا ہوئی چند سرداران لشکر عذر خواہی کے لئے بغداد میں خلیفہ مستعین کے پاس آئے خود کردہ پریشانی ظاہر کی مراجعت پر ہمت و خوشامد اصرار کرنے لگے خلیفہ مستعین اپنے احسانات اور انکی بے وفائیوں اور بدعہدیوں کا اظہار کر کے بات بات پر جھڑک دیتا تھا بالآخر خلیفہ مستعین نے اپنی خوشنودی مزاج ظاہر کر دی ترکوں میں سے کسی نے کہا ”اچھا اگر امیر المومنین ہم سے راضی ہو گئے ہیں تو بسم اللہ آٹھ اور ہمارے ساتھ سوار ہو کے سامرا کا راستہ کو“ محمد بن عبدالمدین طاہر نے اس بیباکانہ اور غیر مہذب گفتگو کرنے پر یسارک کیا خلیفہ مستعین نے سن کے ارشاد کیا ”یہ لوگ جاہل ہیں عجبی ہیں ان کو ادب شاہی کی خبر نہیں ہے“ محمد بن عبدالمدین

یہ سن کے خاموش ہو گیا خلیفہ مستعین نے ترکوں سے مخاطب ہو کے فرمایا "بالفعل تم لو
سامرا واپس جاؤ تمہارا وظیفہ بحال رہے گا اور عنقریب میں بھی آؤنگا" ترک واپس ہو
مگر خلیفہ مستعین کے نہ آنے اور محمد بن عبدالمد کے اعتراض کرنے سے کشید خاطر
آئے نتیجہ یہ ہوا کہ معتز کو بیل سے باہر نکالا اور اسکی خلافت کی بیعت کر لی ملازمین کو
دو دو ماہ کی تنخواہیں تقسیم کیں۔

بیعت عامہ کے وقت ابو احمد بن الرشید بھی بلائے گئے تھے انہوں نے
بیعت کرنے سے انکار کر کے معتز سے مخاطب ہو کے تعریفاً کہا "تم نے تو اپنے
آپ کو معزول کر دیا تھا؟" معتز نے جواب دیا "ہاں! مگر باکراہ و جبر" ابو احمد بولے
"مجھے اس کی کیا خبر۔ میں تو اس کی (مستعین کی) بیعت کر چکا ہوں اب میں تمہارے
اتھ پر کس طرح بیعت کروں" معتز نے معقول ہو کے چھوڑ دیا۔

تکمیل بیعت کے بعد محکمہ پولیس پر ابراہیم ویرج مامور کیا گیا کتابت و دوادین
(فوج) اور بیت المال (خزانہ) کا انتظام بھی اس کے سپرد ہوا۔ سپہ سالاروں
میں سے جنہوں نے معتز کی بیعت کی تھی۔ عتاب بن عتاب بغداد بھاگ کر چلا گیا۔
محمد بن عبدالمد کو معتز کی بیعت کی خبر لگی تو اس نے انتظاماً سلیمان بن عمران
والی موصل کو لکھ بھیجا کہ اہل سامرا کا رسد و غلہ بند کرو اس اثناء میں مالک بن طو
معہ اپنے اہل و عیال اور لشکر کے آہو نچا۔ حو بن قیس والی انبار کے نام فراہمی لشکر
کا فرمان روانہ کیا۔ بیرونی انتظام کرتے کے بعد بغداد کی قلعہ بندی شروع کر دی۔
شہر پناہ کو درست کرایا ہر دروازے پر منجیقین نصب کرائیں، کار آزمودہ سپہ
مقرر کئے، فصیلوں پر نامی نامی قدر اندازوں اور جنگ آوروں کو مامور کیا اور
شہر کے دونوں جانب عمیق خندقیں کھدوائیں۔ اس انتظام دورستی میں تین
لاکھ تیس ہزار دینار صرف ہوئے۔ وظائف اور روزیتے واقف کاروں کو

سپردے گئے کہ عند الضرورت لوگوں کو دیا کریں۔ خلیفہ مستعین نے بھی گورنران صوبجات
 مالک محروسہ کے نام فرامین جاری کئے کہ خراج وغیرہ تا صدور حکم ثانی بجائے سامرا
 کے بغداد روانہ کرو۔ ترکوں کے سرداروں کو لکھا کہ اس وقت تک جو کچھ تم نے کیا
 ہم نے اس سے درگزر کیا اب بھی اپنے باغیانہ خیالات اور ناشائستہ افعال سے
 باز آؤ اور خلافت پناہی کی اطاعت قبول کرو۔ معتز اور محمد بن عبدالممد میں خط و کتابت
 شروع ہوئی معتز محمد سے اپنی بیعت کرنے کو کہتا تھا خلیفہ متوکل کی بیعت کی
 یاد دہانی کراتا تھا جو اس سے لی گئی تھی کہ بعد منتصر کے معتز کو سر پر خلافت کا مالک
 سمجھنا۔ اور محمد معتز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ خیالات سے
 باز آنے کی ترغیب دیتا تھا ایک مدت تک دونوں میں خط و کتابت جاری رہی
 کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ موسیٰ بن بغا کبیر ان دنوں بقصد جنگ اہل حمص شام گیا ہوا
 تھا خلیفہ مستعین اور معتز اس سے خط و کتابت کر رہے تھے اور ہر ایک اس کو
 اپنی طرف مائل کیا چاہتا تھا آخر الامر موسیٰ بن بغا کبیر معتز کی جانب مائل ہو گیا خلیفہ
 مستعین کی بیعت خلافت توڑنے کے معتز کے پاس چلا گیا عبدالمد بن بغا کبیر سامرا
 سے بغداد آیا خلیفہ مستعین کی دست بوسی کی اور یہ ظاہر کیا کہ میں آپ کے قدموں پر
 جان نشاری کو آیا ہوں بعد چندے جب موسیٰ بن بغا کبیر معتز سے جا ملا تو یہ بھی
 بغداد سے بھاگ کے سامرا پہنچا اور معتز سے یہ بیان کیا کہ میں مستعین کے حالات
 دریافت کرنے کو بغداد گیا تھا معتز نے اس معذرت کو قبول کر لیا اور اس کے حمدہ
 پر اس کو بجال رکھا۔ بعدہ حسن بن افسین سامرا سے بغداد آیا خلیفہ مستعین نے
 خلعت فاخرہ سے سرفراز فرما کے اشروسیہ کی سرداری عنایت کی۔

جس وقت امراء شہر دارا کین دولت جس کو جس طرف ملنا تھا مل گئے اور ایک
 سکون کا عالم جانیں پر طاری ہوا اس وقت معتز نے اپنے بھائی احمد بن متوکل

ملقب بہ موفوق کو جنگ بغداد کا پھر ہرہ عنایت کیا اور ایک بہت بڑا لشکر مرتب کر کے
بسرانفسری نامی سپہ سالار کلبا تکین ترکی موفوق کی ماتحتی میں دیا چنانچہ موفوق پچاس ہزار
کی جمعیت سے حین میں اتراک، فراعنہ، اور مغار بہ تھے بغداد کی جانب سیلاب کی طرح
بڑھا۔ ماہین عکبر اور بغداد کے جس قدر قصبات اور دیہات تھے سمجھوں کو لوٹ لیا
بغا صغیر کے ہمراہیوں کی ایک جماعت موفوق کے پاس چلی آئی موفوق کا لشکر
بڑھتے بڑھتے باب شماسیہ تک پہنچا۔ خلیفہ مستعین نے حسین بن اسماعیل بن ابیہم
بن حسن بن مصعب کو باب شماسیہ پر مامور کیا اور چند نامی نامی سپہ سالاروں کو اسکی
ماتحتی میں کام کرنے کا حکم دیا۔ نویں صفر ۲۵۱ھ کو ترکوں کا پتروں آہستہ آہستہ
باب شماسیہ کے قریب پہنچا محمد بن عبدالمدین طاہر نے شاہ بن میکال اور
بیدار طبری کو حسین بن اسماعیل کی کمک پر روانہ کیا اور اگلے دن کہ ماہ صفر ۲۵۱ھ
کی دسویں تاریخ تھی محمد بن عبدالمدین طاہر معہ بغا و صیفت اور فقہا و قضاة کے سوا
ہوئے موفوق کے لشکر کے قریب آئے اور یہ کہلا بھیجا کہ تم لوگ خلیفہ وقت سے
بغاوت نکر و جیسا کہ اس کے پیشتر تم لوگ اسکی اطاعت میں تھے اسی طرح
اب بھی دائرہ اطاعت میں آ جاؤ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ معتز کو خلیفہ مستعین کے بعد
سرِ خلافت کا مالک بنائیں گے، موفوق کے لشکریوں نے منظور نہ کیا لوٹ آئے۔
دوسرے دن ان سپہ سالاروں کی جو باب شماسیہ پر متعین تھے بغرض صدور حکم جنگ
یہ رپورٹ آئی کہ ترکوں کا آج قصد جنگ کرنے کا ہے باب شماسیہ سے وہ لوگ
بہت قریب آگئے ہیں، محمد بن عبدالمدین طاہر نے پشت رپورٹ پر لکھ بھیجا
کہ بالفعل تم لوگ اپنے حملہ نہ کرو جہاں تک ممکن ہو جنگ کو آئندہ دنوں پر ٹالو اور
اگر وہ حملہ بھی کریں تو تم بجز مدافعت کے جنگ نہ کرو، اسی روز عبدالمدین سلیمان

لے موفوق کا لشکر باب شماسیہ پر ساتویں صفر ۲۵۱ھ میں پہنچا تھا۔ تاریخ کامل جلد ۵ صفحہ ۵۵ -

نائب بغا صغیر مکہ معظمہ سے تین سو آدمیوں کی جمعیت سے آپہنچا محمد بن عبدالمدین طاہر نے انعام اور جائزے مرحمت کئے اس کے دوسرے دن ترکوں نے باب شماسیہ کی طرف پھر پیش قدمی کی حسین بن اسماعیل معہ اپنے لشکر کے مقابلہ پر آیا لڑائی چھڑ گئی دونوں طرف کے بہت سے آدمی کام آئے سیکڑوں زخمی ہوئے۔ بالآخر حسین بن اسماعیل کے لشکر کو ہزیمت ہوئی ترکوں میں سے ایک گروہ نے نہروان کا رخ کیا۔ محمد بن عبدالمدین طاہر اس سے مطلع ہو کے اپنے سپہ سالار کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ ترکوں کے روک تھام کو روانہ کیا۔ ترکوں نے اس سپہ سالار کو شکست دیکے خراسان کے راستہ پر قبضہ کر لیا اور بغداد کو خراسان سے بے تعلق کر دیا۔ بعد اسکے معتز نے ایک دوسرا لشکر بغداد کی جانب روانہ کیا جسکی تعداد چار ہزار تھی اس لشکر نے بغداد کے جانب مغربی مورچہ قائم کیا ابن طاہر نے اس کے مقابلہ پر شاہ ابن میکال کو متعین کیا فریقین خم ٹھونک کے میدان میں آئے لڑائی ہوئی شاہ ابن میکال نے معتز کے لشکر کو ہزیمت دی مظفر و منصور میدان جنگ سے واپس ہو کے بغداد آیا ابن طاہر نے اسکو اور ان کل سپہ سالاروں کو جو اس معرکہ میں اس کے ہمراہ تھے ہر ایک کو چار چار غلعتیں، سونے کے کنگن اور طوق مرحمت کئے۔ جنگی ضرورتوں کے خیال اور میدان جنگ کے وسیع ہونے کے لحاظ سے باب شماسیہ تک جس قدر مکانات، باغات اور دوکانیں تھیں منہدم کرادیں۔ اس اثناء میں فارس اور اہواز کا خراج منگجور اشروسنی کے ساتھ آپہنچا ترکوں نے لوٹ لینے کا قصد کیا ابن طاہر کو اسکا خطرہ پہلے ہی سے پیدا ہو گیا تھا ایک جماعت کو اسکی حفاظت پر مامور کیا ترکوں کی ایک بھی پیش نہ گئی منگجور معہ خراج فارس و اہواز بغداد میں داخل ہو گیا۔

جب ترکوں کو اس غارتگری میں کامیابی نہ ہوئی تو کھسیاتے ہوئے نہروان

کی طرف گئے اور پل کی کشتیوں کو جلا دیا۔

اس سے پیشتر خلیفہ مستعین نے محمد بن خالد بن یزید بن مزید کو سرحد جزیرہ کا والی مقرر کیا تھا چنانچہ محمد بن خالد بانتظار لشکر و فراہمی مال و اسباب وہاں ٹھہرا ہوا تھا اتفاقاً ترکوں کی بغاوت اور خلیفہ مستعین کے محصور ہو جانے کی خبر لگ گئی جھٹ پٹ کوچ کر دیا اور براہ رقبہ بغداد آپہونچا ابن طاہر نے اس کو بھی خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا اور ایک عظیم الشان لشکر کا افسر اعلیٰ بنا کے ترکوں سے جنگ کرنے کو روانہ کیا ترکوں نے اسکو بھی ہزیمت دیدی بھاگ کر سواد چلا گیا اور وہیں پر مقیم رہا ابن طاہر کو اس واقعہ کی خبر ہوئی بیساختہ بول اٹھا "یا یفلح احد من العرب الا ان یکن معہ نبی ینصرہ اللہ بہ"۔

ان واقعات سے ترکوں کی جرأت بڑھ گئی کمال تیزی سے شہر کے طرف بڑھے نہایت شدت سے لڑائی شروع کر دی لڑتے لڑتے شہر پناہ کی دیوار تک پہنچنے لگے گرد و نواح کے بازاروں کو لوٹ لیا۔ اس روزانہ جنگ و خونریزی سے اہل بغداد پر عرصہ جہان تو تنگ ہو ہی رہا تھا ناگاہ سرحد سے یہ خبر وحشت اثر پہنچی کہ بلکا جو ر لوگوں سے معتز کی بیعت خلافت لے رہا ہے اراکین سلطنت یہ سن کے گھبرا اٹھے ابن طاہر بولا "وہ ایسا نہیں ہے غالباً اسکو خلیفہ مستعین کے مرنے کا گمان پیدا ہو گیا ہے" ابن طاہر کا یہ خیال درحقیقت نہایت صحیح تھا چنانچہ جس وقت بلکا جو ر کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ مستعین صحیح و سلامت سریر خلافت پر رونق افروز ہے اسی وقت معتز کی فسخ بیعت کر کے خلیفہ مستعین کی تجدید بیعت کی اور ایک اطلاعی عرضداشت مشعر اطاعت و فرمانبرداری دربار خلافت میں بھیج دی۔

موسیٰ بن بجا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ترکوں کے ہمراہ تھا لیکن پھر کچھ

سوج سمجھ کے خلیفہ مستعین سے ملنے کا قصد کیا ہمراہیوں نے اس رائے سے مخالفت کی مکالمہ سے مباحثہ شروع ہو گیا اور پھر مباحثہ سے مجادلہ کی نوبت پہنچ گئی چند آدمی کام آگئے موسیٰ بن بغا مجبور ہو کے اپنے ارادہ سے باز آیا۔ اس واقعہ کے بعد بصرہ سے دس کشتیاں آگئیں ہر کشتی میں تقریباً پینتالیس پینتالیس آدمی تھے جن میں اکثر لفاظ تھے باب شماسیہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کے ترکوں نے حملہ کرنے کا قصد کیا ان لوگوں نے ترکوں پر رومن لفظ کی پچکاریاں خالی کرنی شروع کر دیں۔ ترکوں کو نقصان اٹھانے کے سچھے ہٹنا پڑا۔ محمد بن عبدالسدد بن طاہر کو ترکوں کا جوش جنگ آئے دن ترقی پذیر دیکھ کے اور بلاد اسلامیہ کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑا۔ اپنے سپہ سالاروں میں سے ایک کار آزمودہ سپہ سالار کو مدائن کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا اور تین ہزار سواروں کو اس کی کمک پر متعین کیا۔ حوہ بن قیس کو انبار بھیجا۔ ڈیڑھ ہزار فوج اسکی امداد پر روانہ کی گئی۔ حوہ نے انبار میں پہنچنے کے فرات کو انبار کی خندق سے نہر کاٹ کے ملا دی ساری خندق پر آب ہو گئی۔ معتز کی طرف سے اسحاقی انبار پر قبضہ کرنے کو آیا ہوا تھا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ابن طاہر کی فوج پہنچ گئی تھی انبار کے باہر دونوں فوجیں لڑ گئیں ایک سخت و خونریز جنگ کے بعد ابن طاہر کی امدادی فوج میدان جنگ سے گھونگھٹ کھا گئی اسحاقی انبار کی جانب بڑھا حوہ نے ان واقعات کو سنے بعد اوسکی طرف مراجعت کر دی۔ ابن طاہر نے حسین بن اسماعیل کو

سے لفاظ اسکو کہتے ہیں جو رومن لفظ پچکاری یا کسی اور ذریعہ سے مکانات اور فوجی کیپ وغیرہ پر پھینکے۔ اس زمانہ میں اسکا بہت رواج تھا۔ اولاً رومن لفظ پھینکتے تھے بعد اسکے آگ۔ جس سے آگ لگ جاتی تھی۔

سے حسین بن اسماعیل حسب حکم ابن طاہر بغداد سے تیسویں جاری الاول ۲۵۱ھ یوم پنجشنبہ کو انبار کی طرف روانہ ہوا۔ دس ہزار فوج اسکے رکاب میں تھی۔ تاریخ کامل جلد ۵، صفحہ ۵۹۔

ترکوں کے دستبرد سے انبار کے بچانے پر مامور کیا اور سپہ سالاروں کی ایک
 جماعت کو معہ ایک بہت بڑے لشکر کے اُسکی ماتحتی میں دیا ترکوں کے پتروں
 سے مقام و ماہ پر مقابلہ ہو گیا حسین بن اسماعیل کا لشکر زیادہ تھا ترکوں کو
 ہزیمت ہوئی بھاگ کر انبار پہنچے حسین بن اسماعیل نے آگے بڑھنے کے قریب
 انبار قیام کرنے کا قصد کیا اس اثناء میں کہ اس کے لشکر میں اسباب وغیرہ اتارنے
 اور رکھنے میں مشغول تھے ترکوں کی فوج آپہنچی لڑائی ہونے لگی حسین کے
 ہمراہیوں نے ترکوں کو ہزیمت دینے سے پیچھے ہٹا دیا اور جوش کامیابی میں بڑھتے
 چلے گئے ترکوں نے اس کے پہلے سے چند دستہ فوج کو کمینگاہ میں بیٹھا دیا
 جسوقت حسین کی فوج اُس کمینگاہ سے آگے بڑھی ترکوں نے کمینگاہ سے نکل کے
 پیچھے سے حملہ کر دیا اور آگے سے ترکوں نے سنبھل کے دھاوا کیا اس اچانک
 حملہ سے حسین کے ہمراہیوں کے ہوش و حواس جاتے رہے گھبرا کر میدان
 جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا فرات
 میں ڈوب گیا ایک جماعت کو ترکوں نے گرفتار کر لیا کچھ لوگ بھاگ کے
 اواخر ماہ جمادی الثانی میں یاسر یہ پہنچے ابن طاہر نے ان لوگوں کو بغداد
 میں داخل ہونے سے روک کے انبار کی طرف واپس جانے کا حکم دیا اور
 ایک دوسری تازہ دم فوج کو انکی کمک پر متعین کیا۔ چنانچہ حسین نے دوبارہ
 اپنی فوج کو مرتب کر کے یاسر یہ سے انبار کی طرف کوچ کیا۔ (اٹھویں رجب
 ۲۵ھ یوم شنبہ کو) ایک جاسوس نے آگے یہ خبر دی کہ ترکوں کا لشکر فرات
 کے چند پایاب مقامات سے عبور کر کے شہر پر حملہ کرنے والا ہے حسین نے
 اسی وقت حسین بن علی بن یحییٰ ارمینی کو لیسرا فرسی دوسو قدر اندازوں کے

ان پایاب مقامات پر متعین کیا جہاں سے ترکوں کا لشکر عبور کرنے والا تھا چنانچہ ترکوں کا لشکر عبور کرنے کو آیا حسین بن علی نے مزاحمت کی ایک دو سو سے گتھ گئے آخر الامر حسین کو ہزیمت ہوئی ایک کشتی پر سوار ہو کے بھاگ کھڑا ہوا ترکوں نے اس کے لشکر گاہ اور کل مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ منہزموں کا ایک گروہ اسی شب کو بھاگ کے بغداد پہنچا اور سپہ سالاروں کی ایک جماعت اس کے لشکر سے جدا ہو کے معتز سے مل گئی جس میں علی و محمد پسران خلیفہ واثق بھی تھے یہ واقعہ اوایل رجب ۲۵ھ کا ہے۔

بعد اس واقعہ کے فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں جانسین سے ہزار ہا آدمی کام آئے انہیں لڑائیوں کی اٹنار میں ایک مرتبہ ترکوں کا لشکر بغداد میں داخل ہو گیا اور پھر اہل بغداد نے ان کو مار کر نکال باہر کیا بعد ازاں ترکوں نے مدین کی طرف کوچ کر دیا ابوالساج والی مدین سے متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر ابوالساج ترکوں کی مدافعت نہ کر سکا ترکوں نے مدین پر قبضہ کر لیا اس اثناء میں وہ ترکی لشکر جو انبار میں تھا سو او بغداد میں غزنی جانب سے قتل و غارت کرتا ہوا آپہنچا صرصر اور قصر ابن ہیرہ تک لوٹتے ہوئے بڑھ آئے ماہ ذیقعدہ ۲۵ھ تک سلسلہ محاصرہ قائم رہا۔ ماہ ذیقعدہ کی کسی تاریخ میں بہت بڑی خونریز لڑائی ہوئی جسکی نظیر پیشتر کی لڑائیوں میں نظر نہیں آتی۔ ایک روز ابن طاہر نے ماہ مذکور میں طول محاصرہ سے گھبرا کے اپنے نامی نامی سپہ سالاروں اور سرداران لشکر کو جمع کیا دیر تک اپنی پرزور تقریر سے ان کو ابھارا جب ان لوگوں کے چہرہ سُرخ ہو گئے اور سُرخ سُرخ آنکھوں سے جوش انتقام جنگ کا خون ٹپکنے لگا تو ابن طاہر نے نصر من اللہ فتح قریب کہہ کے حملہ کا حکم دیا لشکری اس حکم کے صادر ہوتے ہی شیر غزاں کی طرح ڈکارتے ہوئے

ترکوں کے لشکر پر چارپے ہنگامہ قتل و خونریزی گرم ہو گیا اس واقعہ میں ترکوں کو ہزیمت ہوئی ایک حصہ کثیر انکی فوج کا کام آگیا۔ بغا اور وصیف کے رکاب میں جو ترکی دستہ تھا اپنی قوم کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کے ترکوں سے جا ملا اس سے ترکوں کو ایک گونہ قوت ہو گئی تب ہو کے پھر لوٹ پڑے اہل بغداد شکست کھا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

ماہ ذی الحجہ ۲۵۱ھ میں رشیدین کا ووس اور افشین فریقین میں صلح کرانے کی غرض سے ترکوں کے لشکر میں امن حاصل کر کے کیا لوگوں نے ابن طاہر پر خلیفہ مستعین کے معزول کرنے کی تہمت لگائی جب رشید ترکوں کے لشکر سے واپس آیا اور اہل بغداد کو معتز اور اس کے بھائی ابو احمد کا سلام پہنچایا اہل بغداد نے اس کو اور ابن طاہر کو گالیاں دیں سخت و سست کلمات سے مخاطب کیا اور منہدم کر دینے کے قصد سے رشید کے مکان کی طرف لپکے ابن طاہر خلیفہ مستعین سے اس ہنگامہ کے فرو کرنے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اُس فعل سے جسکو وہ کیا چاہتے تھے روکا۔ الزامات سے اپنی برأت کی۔ اہل بغداد کے خیالات اس کے سمجھانے سے درست ہو گئے فتنہ فرو ہو گیا اپنے اپنے مکانات پر واپس آئے۔

پھر ابن طاہر اور ابو احمد میں خط و کتابت شروع ہوئی عوام الناس اور لشکریوں کو بدظنی کا موقع مل گیا خیالات فاسدہ جو اس کے طرف سے قبل اس کے پیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ تازہ ہو گئے لشکریوں نے اپنی تنخواہیں اور روزینے طلب کئے ابن طاہر نے ان لوگوں کو فتنہ فرو کرنے کا حکم دیا اور دو مہینے کی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا لشکریوں نے ایک زبان ہو کے کہا ”ہم اُس وقت تک اس فعل سے باز نہ آئیں گے جب تک ہم کو خلیفہ مستعین کی صحیح

صحیح رائے معلوم نہ ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم کو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ مبادا
 ترکی لشکر بغداد پر متصرف و قابض نہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ
 نہ کرے جیسا کہ اہل مدین اور انبار کے ساتھ کر چکا ہے۔ ابن طاہر نے یہ کل
 واقعات خلیفہ مستعین سے حاضر ہو کے بیان کئے خلیفہ مستعین دارالعوام کی
 چھت پر آیا ایک ہاتھ میں ردا و خلافت تھی دوسرے میں عصا تھا قسم شرعی کھانے
 کہا ”تم لوگ کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو محمد بن عبدالمدین طاہر نے جو بیان کیا
 ہے وہ سب صحیح ہے اور درست ہے“ اہل بغداد کو خلیفہ مستعین کی قسم کھانے
 سے اعتبار ہو گیا خیالات فاسدہ دور ہو گئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے
 فتنہ و فساد کا ہنگامہ فرو ہو گیا۔

ابن طاہر نے اہل بغداد کا آئے دن یہ رنگ و ڈھنگ دیکھ کے بغداد سے
 مدین چلے جانے کا قصد کیا روسا شہر نے حاضر ہو کے معذرت کی کہ یہ فعل
 بازیوں کا ہے ہم لوگ اس سے بری ہیں اور اگر ہم ہی تقصیر وار سمجھے جاتے
 ہیں تو معاف فرمائیے، ابن طاہر نے ان لوگوں کو کمال شایستگی سے نہایت معقول
 جواب دیکے واپس کیا، انہیں دنوں خلیفہ مستعین مصلحتاً ابن طاہر کے مکان سے
 اٹھ کے رصافہ میں رزق خادم کے مکان پر چلا آیا۔ مگر سپہ سالاران لشکر اور
 سرداران بنی ہاشم کو ابن طاہر کے ہمراہ رہنے اور اس کے ساتھ ہو کے جنگ
 کرنے کی ہدایت و تاکید کی۔

ایک روز ابن طاہر بقصد جنگ مسلح ہو کے مکان سے باہر آیا سوار ہو کے
 لشکریوں کی طرف گیا اور سرداران لشکر کو مجتمع کر کے کہنے لگا ”والمد میں خلیفہ
 مستعین کے سوا اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے
 اس وقت تک خلافت پناہی کی بہتری اور بہبودی کا خواہاں رہوں گا“ لوگوں کے

دل اس فقرے کے سننے سے بھر آئے مرحبامرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ چلا آٹھے
 ابن طاہران لوگوں سے رخصت ہو کے خلیفہ مستعین کی طرف چلا اثنائراہ میں
 کسی فتنہ پرداز نے یہ پٹی دی کہ تم کس خیال میں ہو جسکی ہمدردی اور خیر خواہی کر رہے
 ہو اُس نے تو بجا اور وصیف کو تمہارے قتل پر مامور کیا تھا مگر ان لوگوں نے اس
 حکم کی تعمیل نہ کی "اس خبر کے سننے سے ابن طاہر کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اسی تردد
 و انتشار کی حالت میں اپنے مکان واپس آیا اس اثناء میں احمد بن اسرائیل اور
 حسین بن ابی محمد آگئے ان دونوں نے بھی خلیفہ مستعین کی طرف سے اسی قسم
 کی خبر بد سنائی تب تو ابن طاہر کا طایر پوش پٹاں ہوا طرح طرح کے خیالات
 دل میں آتے لگے مگر کمال استقلال سے انکو ضبط کیا کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا
 تا آنکہ عید الاضحیہ کا دن آگیا۔

نازعید الاضحیٰ کے بعد ابن طاہر خلیفہ مستعین کی خدمت میں سلام کرنیکو
 حاضر ہوا اسوقت فقہار و قضاة اور اراکین دولت بھی موجود تھے ابن طاہر
 نے عرض کی "امیر المؤمنین کی اگر مرضی و حکم ہو تو ابواحمد سے مصالحت کر لیجا
 اور صلحنامہ بھی لکھ دیا جائے" خلیفہ مستعین نے کہا "بہتر" ابن طاہر رخصت
 ہو کے باب شماسیہ کی جانب آیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کے خلیفہ مستعین کی خدمت
 میں پھر واپس گیا اور یہ عرض کی کہ صلحنامہ من کل الوجوہ مرتب ہو گیا ہے اور
 شرائط صلح یہ ہیں (۱) آپ اپنے کو خلافت سے معزول کیجئے (۲) پچاس ہزار
 دینار نقد لشکریوں کو مرحمت کیجئے تیس ہزار کی جاگیر دیجئے۔ (۳) دار الخلافۃ
 چھوڑ کے حجاز میں مابین حرمین قیام فرمائیے (۴) بغا کو گورنری حجاز اور یمن
 کو حکومت حبیل دیجائیے (۵) خراج کا تیسرا حصہ ابن طاہر اور لشکر بغداد
 کو دیا جائے اور باقی دو تہا موالی اور اتراک کو" خلیفہ مستعین نے اولاً

اس زعم فاسد سے کہ وصیف اور بنامیر سے ہوا خواہ ہیں ان شرائط کو منظور نہ کیا
لیکن جب یہ راز سر بستہ کھل گیا کہ یہ دونوں بھی ابن طاہر کے ہم صنفی ہیں راضی ہو گیا
علاوہ ازیں جن شرائط کو اس نے پسند کیا لکھا 'فقہاء و قضاة کو طلب کر کے اس
امر کا اُن کو شاہد کیا کہ میں نے اپنے کل کاموں کو ابن طاہر کے سپرد کر دیا ہے
بعد اسکے سپہ سالار دن کو بلا بھیجا جب وہ سب حاضر آئے تو یہ بیان کیا کہ اس
میرا یہ مقصود ہے کہ خو زیزی نہ ہو تم لوگوں کی جانیں ناحق معرض زوال میں نہ پڑیں
لہذا تم لوگ میری اس تحریر کے ساتھ بھرا ہی ابن طاہر معتز کے پاس جاؤ اور میرے
اقرار کی شہادت دو چنانچہ یہ لوگ مع ابن طاہر کے جبکہ محرم ۲۵۲ھ کی چھپڑا
گزر چکی تھیں معتز کے پاس آئے۔

مستعین کی معزولی اور قتل جس وقت وہ صلح نامہ جس کو ابن طاہر نے مرتب کیا
تھا بدستخط سپہ سالاران لشکر اور معتز مکمل ہو گیا اہل

بغداد سے معتز کی خلافت کی بیعت لی گئی جامع مسجد بغداد میں اس کے
نام کا خطبہ پڑھا گیا معزول خلیفہ مستعین نے بھی بیعت کی اور اپنی معزولی کا
اعلان کیا خلیفہ معتز نے اسکو رصافہ سے قصر حسن بن سہل میں لاکے ٹھہرایا اسکے
ہمراہ اسکے اہل و عیال بھی تھے۔ چادر، عصا اور خاتم خلافت لے لی مکہ معظمہ
جانے کی مانگت کر دی بصرہ جانے کی درخواست پیش کی یہ بھی نامنظور
کی گئی مزید براں یہ ہوا کہ قصر حسن بن سہل سے کشتی پر سوار کرا کے واسطاً بھیج دیا۔
ان واقعات کے بعد امور سلطنت میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئیں
خلیفہ معتز نے احمد بن ابی اسرائیل کو قلمدان وزارت سپرد کیا۔ ابو احمد (فایض
معتز کا بھائی) بغداد سے سامرا واپس آیا۔ آخر محرم ۲۵۲ھ میں اہل الساج
دیو وادین دیو دست مراجعت کر کے وارد بغداد ہوا ابن طاہر نے موادن اور

انتظام اسکے سپرد کیا چنانچہ اس نے اتراک اور مغارہ کی مدافعت پر اپنے نائب کو
 مقرر کیا اور خود کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بعد اسکے خلیفہ معتز نے ابن طاہر کو لکھ بھیا
 کہ بغاوت و صیغ اور ان لوگوں کے اسماء جو ان کے ہم آہنگ ہیں دفتر شاہی سے
 خارج کر دئے جائیں۔ اس اشار میں محمد بن ابی عون نامی ایک شخص نے جو ابن
 طاہر کے سپہ سالاروں میں تھا ابواسحاق کی سازش سے بغاوت اور و صیغ کے قتل کا
 بیڑہ اٹھالیا اور بارگاہ خلافت سے اس حسن خدمت کے صلہ میں پیامہ بکیرین
 اور بصرہ کی سند گورنری مرحمت کی گئی۔ اتفاق یہ کہ بغاوت اور و صیغ تک یہ خبر پہنچ گئی
 سوار ہو کے ابن طاہر کی خدمت میں آئے کل حالات سے مطلع کیا لوگوں کی
 بد عہدی اور پتیاں شکنی کی شکایت کی ابن طاہر نے ان کو تسلی دیکے واپس کیا
 بعد اسکے و صیغ نے اپنی بہن سعاد کو موید کے پاس بھیجا (موید نے اس کے
 اغوش تربیت میں پرورش پائی تھی) موید خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور و صیغ کی سفارش کر کے عفو تقصیر کرائی۔ ایسا ہی ابواحمد بن متوکل نے
 بغاوت کے ساتھ ہمدردی کی خلیفہ معتز نے عفو تقصیر کر کے ایک فرمان مشعر خوشنود
 مزاج ان دونوں کے نام بھیجا یا بعد اسکے پھر ترکوں نے ادم خلیفہ معتز سے
 کہہ سن کے بغاوت اور و صیغ کے نام سامرا میں حاضری کا فرمان بھیجا اور ادم
 ابن طاہر کو لکھ بھیجا کہ بغاوت اور و صیغ اگر سامرا آئے گا قصد کریں تو ہرگز نہ آئے
 دینا۔ بغاوت اور و صیغ نے خلافت پناہی کا فرمان پاتے ہی سامرا کی طیاری
 کر دی ابن طاہر نے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رے کے بغداد سے روانہ ہو کے سامرا
 پہنچے خلیفہ معتز نے ان دونوں کو خلعت فاخرہ سے سرفراز فرما کے ان کی گوزریوں
 پر انکو بحال رکھا اور موسیٰ بن بغا کبیر کے پاس اس کے وکیل کو واپس کر دیا۔
 ماہ رمضان ۲۵۲ھ میں ماہین لشکر بغداد اور ابن طاہر ایک فتنہ برپا ہو گیا

یہ لوگ اپنی تنخواہیں طلب کرنے کو ابن طاہر کے پاس آئے۔ تھے ابن طاہر نے جواب دیا "میں نے بارگاہ خلافت میں تمہاری تنخواہوں کی بابت ایک عرضداشت بھیجی تھی خلافت پناہی نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر تم نے لشکر بغداد کو اپنے لئے رکھا ہے تو اس کے مصارف تم برداشت کرو اور اگر ہمارے لئے رکھا ہو تو ہم کو اس کی حاجت نہیں ہے موقوف کردو" بغدادی لشکر یہ سن کے شور و غل مچا لگا ابن طاہر نے مجبور ہو کر دو ہزار دینار دئے ہنگامہ فرو ہو گیا اپنے فرو و گاہ پر واپس آیا بعد اسکے پھر دوبارہ لشکر بغداد نے یورش کی اس مرتبہ اس کے ساتھ پھریرے اور طبل بھی تھے سرداران لشکر کے لئے باب شماسہ پر خیمے نصب کئے اور عام سپاہیوں کے لئے اور لکڑیوں کے مکانات بنائے۔ محمد ابن ابراہیم نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مجتمع کیا اور صحن مکان کو جنگ آوروں سے پر کر لیا۔ ان غوغائیوں کا یہ قصد ہوا کہ جمعہ کے روز خطیب کو معترز کے حق میں دعا کرنے سے روک دیں خطیب یہ خبر پا کے گھر بیٹھ رہا علالت طبیعت کا بہانہ کر دیا لشکر بغداد پل توڑنے کی غرض سے پل کی طرف بڑھا ابن طاہر کی فوج نے مدافعت کے خیال سے مقابلہ کیا لڑائی ہوئی بالآخر ابن طاہر کی فوج اپنے ارادہ میں کامیاب ہوئی بعد ازاں لشکر بغداد نے جانب شرقی لشکر کی مدد سے ابن طاہر کی فوج کو شکست فاش دی غوغائیوں نے پولیس کپ کو لوٹ لیا ابن طاہر نے اس ہنگامہ ہوش رُبا کو دیکھ کے ان دو کانوں کے جلادینے کا حکم دیا جو دروازہ پل پر تھیں۔ ان دو کانوں میں آگ کا لگنا تھا کہ لشکر بغداد کا آگے بڑھنا موقوف ہو گیا فریقین میں آگ حائل ہو گئی ابن طاہر کی فوج نے پانسماں ہونے سے نجات پائی اور تمند گروہ اپنے کپ میں واپس آیا۔ ابن طاہر نے پھر اسی وقت سے فراہمی لشکر کی طرف توجہ کی اپنے نامی

نامی سپہ سالاروں اور جنگ آوروں کو جمع کیا کارآمد مودہ سپاہیوں سے ایک تازہ دم فوج مرتب کی اس اثناء میں لشکر بغداد سے دو شخص ابن طاہر کے پاس آئے اور لشکر بغداد کا ایک پوشیدہ راستہ بتلا دیا ابن طاہر نے شاہ بن میکال کو چند سپہ سالاروں اور تھوڑی سی فوج کے ساتھ اُس راستہ کی طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ یہ معرکہ بہت جانگداز اور روح فرسا تھا لشکر بغداد کا نامی سپہ سالار ابن خلیل اس لڑائی میں مارا گیا اس کے دوسرے سردار ابو القاسم عبدون بن فوق نے ابن طاہر پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی کبھی انھیں لڑائیوں کے اثناء میں مر گیا۔

ماہ رجب ۲۵۲ھ میں خلیفہ معتز نے اپنے بھائی موید کو ولیعہدی سے معزول کیا اس وجہ سے کہ علاء بن احمد عامل ارمینہ نے موید کے پاس پانچ ہزار دینار کسی ضرورت کے لئے بھیجے عیسیٰ بن فرخان شاہ کو خبر لگ گئی اثناء راہ سے لے لے موید نے اتراک اور مغارہ کو عیسیٰ بن فرخان شاہ کی مخالفت پر او بجا رو یا عیسیٰ نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کے موید کی شکایت جڑدی معتز نے موید اور ابو احمد کو اسی وقت گرفتار کر کے قید کر دیا اسی زمانہ میں موید سے اسکی معزولی کا محضر لکھوایا بعدہ خلیفہ معتز تک کسی نے یہ خبر پہنچادی کہ اتراک موید کو جیل سے نکال لانے کا ارادہ رکھتے ہیں خلیفہ معتز نے موسیٰ بن بغا سے استفسار کیا موسیٰ بن بغا نے لاطلی طاہر کی خلیفہ معتز نے اگلے دن موید کو جیل سے باہر لانے کا حکم دیا چنانچہ موید باہر نکالا گیا تو مردہ تھا اسکی ماں نے اسکی تمیز و تکفین کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ناک اور منہ بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے دم گھٹا مر گیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ برف میں بٹھا دیا گیا تھا اور ایک بہت بڑا ٹکڑا سر پر رکھ دیا تھا اس سبب

اسکی موت وقوع میں آئی غرض موید کے مرجانے کے بعد اسکا بھائی ابوالاحمد بھیر جبل میں بیڑیاں کھڑکھڑانے کے لئے بھیجا گیا۔ خلیفہ معتز نے موید کے قتل کے بعد معزول خلیفہ مستعین کے قتل کا قصد کیا محمد بن عبدالسدر بن طاہر کو لکھ بھیجا کہ بد نصیب معزول خلیفہ مستعین کو سپہ خادم کے حوالہ کر دو۔ ابن طاہر نے سپہ خادم کی معرفت ایک خط حسب مضمون مندرکہ بالا ان دو شخصوں کے نام لکھ بھیجا کہ جو مستعین کی نگرانی پر واسطی میں مامور تھے بیان کیا جاتا ہے کہ احمد بن طولون کی معرفت یہ خط روانہ کیا گیا تھا چنانچہ احمد بن طولون معزول خلیفہ کو واسط سے لے کر قاطول آیا اور سعید بن صالح کے حوالہ کر دیا سعید بن صالح نے اس قدر مارا کہ معزول خلیفہ مستعین مر گیا بعضے کہتے ہیں کہ مستعین کے پاؤں میں پتھر باندھ کے وجہ میں ڈال دیا بہر کیف مستعین کے مرجانے کے بعد اسکی سواری کا جانور بھی سر پٹک کے مر گیا۔ مستعین کا سر اتار کے بارگاہ خلافت میں بھیجا یا خلیفہ معتز نے حکم دیا کہ سر دفن کر دیا جائے اور اس حسن خدمت کے صلہ میں سعید بن صالح کو پچاس ہزار درہم اور نصیرہ کی سند گورنری مرحمت کی جائے۔

اتراک اور مغارہ | غرہ ماہ رجب ۲۵۲ھ میں مابین اتراک اور مغارہ پہل گئی اور خوب چلی۔ ترکوں نے موید کے اشارہ سے ایک روز عیسیٰ بن فرخانشاہ کو گرفتار کر کے مارا گھوڑا چھین لیا مغارہ کو اس سے اشتعال پیدا ہوا مجمع ہو سکے باہم مشورہ کیا اور موقع پا کے چوسق پر دھاوا کر دیا ترکوں کو اسکی خبر نہ تھی مغلوب

۱۵ خلیفہ مستعین باسد ابوالعباس احمد بن معتمد بن رشید برادر خلیفہ متوکل ۲۲۱ھ میں پیدا ہوا اسکی ماں ام ولد (کنزک) مخارق نامی تھی بلج صورت سفید رنگ چہرہ پر چیک کے دماغ تھے زبان میں لٹخ یعنی لگتھی حروف را، لام، غین اور شین کو ادا کر سکتا تھا تقریباً اکیس برس کی عمر میں سب کے پہلے اسنے چھوٹی ٹوپیاں اور پتھریا استینوں کا پہنا شروع کیا اسکی استینیں تین بالشمت چوڑی ہوتی تھیں۔ والد اعلم۔ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۴۵۔

ہو گئے اُن کے گھوڑوں کو لے لیا اور اسپر سوار ہو کے بہت المال کی طرف آئے قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے اس ہزیمت کے بعد ان لوگوں کو اپنی جماعت میں ملا کے صرف آرائی کی جوان میں سے کرخ اور شاہی مکانات میں تھے بازاری اور فنا کر یہ مغارہ سے مل گئے اس سے ترکوں کی قوت گھٹ گئی ہنگامہ کارزار گرم کرنے کی جرأت نہ ہوئی جعفر بن عبدالواحد دونوں فریق میں مصالحت کی کوشش کرنے لگا زلقین نے چند روز حیلہ و حوالہ میں رکھا بعد ازاں جس وقت مغارہ متفرق و منتشر ہو گئے ترکوں نے پھر مجمع کیا۔ محمد بن ارشد اور نصر بن سعید یہ خبر پانے کے محمد بن عون کے مکان میں جا چھپے ترکوں کو یہ خبر لگ گئی شور و غل مچاتے ہوئے محمد بن عون کے مکان پر چڑھ گئے اور ان دونوں کو گرفتار کر کے اسی مکان میں مار ڈالا۔ خلیفہ معتز نے یہ سن کے محمد بن عون کو اس جرم میں کہ اس نے ان دونوں کی جان بچانے میں غفلت کی قتل کرنے کا قصد کیا مگر لوگوں کی سعی و سفارش سے قتل تو نہ کیا جلا وطن کر دیا۔

حالات مساور | موصل کی گورنری پر عقبہ بن محمد بن جعفر بن محمد بن اشعث
خارجی | بن ہانی خزاعی تھا اور موصل جدید کی پولیس حسین بن بکیر

کی ماتحتی میں تھی مساور بن عبدالمدین مساور بجلی خارجی بوارق میں رہتا تھا ایک روز حسین بن بکیر افسر پولیس نے مساور کے حوثرہ نامی لڑکے کو موصل جدید میں گرفتار کر لیا حوثرہ ایک حسین نو عمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے باپ مساور کو لکھ بھیجا کہ حسین بن بکیر افسر پولیس نے مجھے جبراً گرفتار کر لیا ہے دن کو تو میں قید و تنہائی کی مصیبت جھیلتا ہوں اور شب کے وقت وہ مجھ سے خلاف وضع فطرت کے فعل کا ارتکاب کرتا ہے مساور کو اس خط کے دیکھنے سے سخت اشتعال پیدا ہوا قرب و جوار کے لوگوں کو مجتمع کر کے موصل جدید کا قصد کیا حسین بن بکیر یہ خبر

پاکے روپوش ہو گیا مساور نے اپنے بیٹے حوشرہ کو جیل سے نکال لیا رفتہ رفتہ
 اکرا اور اعراب کے کانوں تک یہ خبر پہنچی ان میں بھی جوش پیدا ہو گیا مستعد و
 آمادہ ہو کے مساور کے پاس آئے ان لوگوں کے آٹنے سے مساور کی جمعیت
 بڑھ گئی فوج مرتب کر کے موصل کا رخ کیا اور جانب شرقی میں پہنچنے لڑائی کا
 نیزہ گاڑ دیا چند دنوں تک عقبہ بن محمد والی موصل سے لڑتا رہا۔ پھر وہاں سے
 مراجعت کر کے خراسان کے راستہ پر اٹھیا خراسان کی راہ کی محافظت پر بندار
 اور مظفر بن شبک مامور تھے بندار یہ خبر پاکے تین سو کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا
 مساور کے ہمراہ سات سو خوارج تھے لڑائی ہوئی مساور نے بندار کے ہمراہیوں
 کو ہزیمت دیکے سمجھوں کو مار ڈالا از انجملہ بندار بھی تھا صرف پچاس آدمی جانبر ہوئے
 مظفر بن شبک بھاگ کے بغداد پہنچا اور خوارج جلو لار کی جانب چلے آئے
 اہل جلو لار اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں فریقین کے سیکڑوں
 آدمی کام آگے بعد ازاں بارگاہ خلافت سے خط مش مامور کیا گیا ایک عظیم
 لشکر کے مقابلہ پر آیا مساور نے اس کو بھی ہزیمت دیدی اور اکثر
 اعمال موصل پر قابض ہو گیا۔

پھر ۵۲ھ میں ایوب بن عمر بن خطاب تغلبی کو موصل کی حکومت دی گئی
 اس نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے حسن کو بطور نائب کے موصل پر متعین کیا
 اس نے ایک بڑا لشکر فراہم کیا جس میں حمدون بن حرث بن لقمان دامراہ بنی حمدان
 کا دادا اور محمد بن عبدالمدین سید بن انس بھی تھا۔ حسن نے لشکر مرتب کرنے
 کے بعد بقصد جنگ مساور کو چھ لاکھ اور نہر زاب کو عبور کر کے مساور کے سر پر
 جا پہنچا مساور اپنا کیمپ چھوڑ کے پیچھے ہٹ آیا حسن نے بڑھ کے وادی ریاست
 میں طبل جنگ بجوا دیا لڑائی کا بازار گرم ہو گیا لشکر موصل کو ہزیمت ہوئی محمد بن

سید ازوی مارا گیا حسن بن ایوب مضافات اربل کی جانب بھاگ گیا۔

اس واقعہ کے بعد ۲۵۵ھ میں ایک خلیفہ (معتز) کی معزولی دوسرے خلیفہ (مہندی) کی خلافت اور گورنر موصل کی تبدیلی سے خوارج نے فائدہ حاصل کر لیا۔ کوشش کی عبدالسد بن سلیمان ایک نا تجربہ کار شخص موصل کی گورنری پر مقرر کیا گیا مساور نے موقع پا کے موصل پر چڑھائی کر دی عبدالسد بن سلیمان والی موصل خوف جنگ سے چھپ رہا مساور نے شہر میں پہنچنے کے بلا مزاحمت و جنگ قبضہ کر لیا اہل موصل میں سے کسی کے کان پر چوں تک نہ رہی اس اثنائے جمعہ کا دن آگیا جامع مسجد میں معہ اپنے ہمراہیوں کے نماز ادا کرنے کو گیا خطبہ دیا نماز پڑھی اور بعد ادا کے نماز جمعہ موصل جدید کی طرف چلا گیا جو اس کا دارالہجرہ تھا۔

۲۵۶ھ میں خوارج میں سے ایک شخص عبیدہ بن زہیر عمری نامی نے مساور کی مخالفت کا علم پلندہ کیا عبیدہ اور مساور سے توبہ خاطر (گنہگار) کی بابت بہت بڑا مباحثہ ہوا عبیدہ کہتا تھا کہ خاطر کی توبہ قبول ہی نہ کی جائے گی۔ اور مساور اس کے خلاف تھا خوارج کا ایک گروہ عبیدہ کے ساتھ ہو گیا مساور نے موصل جدید سے عبیدہ کی طرف بقصد جنگ خروج کیا بہت سخت لڑائی ہوئی عبیدہ مارا گیا اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھوڑے دنوں بعد بنی زہیر سے ایک دوسرا شخص طوق نامی مساور کی مخالفت پر اٹھا حسن بن ایوب بن احمد عدوی نے اس کے لئے ایک عظیم الشان لشکر فراہم کیا طوق نے ۲۵۵ھ یا ۲۵۶ھ میں مساور سے صفت آرائی کی لیکن ناکامی کے ساتھ پسپا ہو گیا۔ مساور نے عراق کے اکثر بلاد پر قبضہ کر لیا اور

۵۰ لڑائی موصل کے قریب اطراف جبینہ میں ہوئی سختی مخالفت ۲۵۶ھ میں پیدا ہوئی اور جنگ

ماہ جمادی الاول ۲۵۶ھ میں ہوئی۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۷، صفحہ ۸۹۔

خراج کا بھیجنا بند کر دیا۔ موسیٰ بن بغا اور بابکیاں نے بسرافسری ایک عظیم الشان لشکر کے
 مساور پر فوج کشی کی۔ سن تک بڑھ آئے۔ ہنوز لڑائی نہ چھڑنے پائی تھی کہ خبر پائے کہ ترکوں
 نے خلیفہ ہندی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور سریر خلافت سے اس کو اتارنے
 کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامرا واپس آئے۔ پس جس وقت خلیفہ معتد رونق افروز کیا
 سریر خلافت ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مفلح کو جنگ مساور پر
 روانہ کیا مساور نے حدیثہ سے نکل کے اُن دو پہاڑوں کا قصد کیا جو اس کے مقابل
 میں تھے مفلح یہ خبر پائے کہ مساور کے لشکر کے پچھلے حصہ پر جا پڑا اور نہایت تیزی سے
 معرکہ کارزار گرم کر دیا مساور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور مفلح اس کا محاصرہ کئے ہوئے
 دامن کوہ میں ٹھہر گیا ایک مدت تک دونوں فریق میں متعدد لڑائیاں ہوتی رہیں چونکہ سارا
 کے ہمراہیوں میں زمانہ جنگ عبیدہ سے اس لڑائی تک زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ
 ہو گئی تھی اسوجہ سے موقعہ پا کے پہاڑ کی چوٹی سے اتر آیا صبح ہوئی تو میدان جنگ میں
 صرف مفلح کا لشکر نظر آیا مفلح نے اپنے حریف سے میدان کو خالی دیکھ کے موصل کا
 رخ کیا پھر موصل سے روانہ ہو کے دیار ربیعہ پہنچا اور دیار ربیعہ سے سنجا ربیبین
 ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انتظام کر کے موصل واپس آیا دو ایک روز قیام کر کے
 حدیثہ کی طرف کوچ کر دیا جوں ہی مفلح نے موصل کو چھوڑا مساور کوٹ پڑا اور اسکے
 لشکر کے پچھلے حصہ پر قتل و غارت کا ہاتھ صاف کرتا ہوا حدیثہ تک پہنچا مفلح کے
 ہمراہی روزانہ جنگ اور سفر سے تھک گئے تھے لڑائی سے جان چیرانے لگے مفلح
 نے چند روز حدیثہ میں قیام کر کے رمضان ۲۵۶ھ میں بغداد کی جانب مراجعت
 کر دی اور مساور نے دوبارہ ان شہروں پر قبضہ کر لیا ان واقعات سے اس کا رعب
 و داب بڑھ گیا۔ بعد اسکے ۲۵۸ھ میں مسرور بلخی نے حدیثہ پر چڑھائی کی اور
 ۲۵۹ھ میں تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۹ صفحہ ۹۰ سے لکھا ہے اصل کتاب میں جگہ خالی ہے (منہج)

سپہ سالاران ترک سے جملان نامی سپہ سالار کو ایک فوج کثیر کے ساتھ حدیثہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر ۲۵۱ھ میں حکمرانان خراسان سے یحییٰ بن جعفر مساور کی خونریز لڑائی کے نذر ہو گیا مسرور نے اسکا تعاقب کیا موفق نے بھی اس تعاقب میں مسرور کا ساتھ دیا مگر ان دونوں نے اسکو نہ پایا۔

قتل و صیفت و بعا ۲۵۳ھ عہد خلافت خلیفہ معتز میں اتراک، افرعینہ، اور اشتر کی فوجیں مجتمع ہو کے چار چار مہینے کی تنخواہیں مانگنے لگیں شور و غوغا مچاتی ہوئی دربار خلافت تک پہنچیں بعا، صیفت اور سیاطویل ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے آئے صیفت نے آگے بڑھ کے کہا ”بالفعل خزانہ خالی ہے چار چار مہینے کی تنخواہیں کہا دیجائیں“ لشکریوں نے جواب دیا ”ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جہاں سے پاؤ دو“ صیفت ایک مٹھی خاک اٹھا کر بولا ”اے لو یہ مٹی حاضر ہے تنخواہ کے عوض لے جاؤ“ لشکریوں کو اس جواب سے برہمی پیدا ہوئی بعا نے کہا ”ذرا صبر کرو میں امیر المؤمنین سے استفسار کر کے آتا ہوں تم لوگ شناس کے مکان میں چلو وہیں یہ معاملہ طے کیا جائے گا“ لشکری اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی شناس کے مکان کی طرف دوڑ پڑے اور وہیں بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ بعا اور سیاطویل معتز کے خدمت میں حاضر ہو کے لشکریوں کے معاملہ میں عرض و معروض کرنے لگے اور صیفت انہیں لشکریوں کے پاس رہا لشکریوں نے یورش کر کے اسکو مار ڈالا اور سر اتار کے نیزہ پر نصب کر دیا۔

وصیفت کے مارے جانے کے بعد ہی لشکریوں کا جوش خود بخود فرو ہو گیا خلیفہ معتز نے بغاشرانی کو وہی عہدہ عنایت کیا جو وصیفت کا تھا تاج پہنایا خلعت قاخرہ سے سرفراز کیا لیکن بعد چندے اس خیال سے کہ بغاشرانی کو امور سلطنت میں دخل تام ہو گیا ہے مبادا کسی وقت فتنہ و بغاوت کا بانی مبنی نہ ہو جائے

خفیہ طور سے باکیال کی طرف نائل ہو گیا اور آہستہ آہستہ اسکو انتظامی امور میں دخل دیتا گیا آخر میں یہ بھی وعدہ کر لیا کہ بعد بغاشرابی کے میں تم کو اس کے جگہ پر بنا دوں گا ہنوز کوئی امر ظہور پذیر نہ ہوا تھا کہ بغاشرابی نے اپنی بیٹی آمنہ کا عقد صالح بن وصیف سے کر دیا اور اس کی رخصتی کے سامان میں مصروف ہوا اس اثنا میں خلیفہ معتز معہ حمدان بن اسرائیل کے سوار ہو کے باکیال کے پاس کو شک سامرا میں گیا چونکہ اس اور بغا سے دلی رنجش تھی یہ خبر پا کے پانچ سو آدمیوں کی جمعیت سے سوار ہوا جس میں اکثر اسکے خدام، لڑکے اور سپہ سالار تھے مگر ان ہمراہیوں کا زیادہ حصہ اس سے منحرف و کشیدہ خاطر تھا۔ سن میں پہونچکے قیام کر دیا خلیفہ معتز کو اس سے خطرہ پیدا ہوا جان کے خوف سے مسلح ہونے لگا بغا کے ہمراہیوں نے شدت سرا کی شکایت کی بیماری کا حیلہ کیا بغا نے براہ دریا بغداد کی طرف مراجعت کی رات کے وقت پل پر پہونچا غرض یہ تھی کہ ملازموں کو عبور کرنے کی اطلاع نہ ہو اتفاق سے ملازموں کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی خلیفہ معتز سے اطلاع کی خلیفہ معتز نے قتل کا حکم دیدیا ملازمین نے سر اتار کے دربار خلافت میں بھیج دیا جو دروازہ سامرا پر نصب کر دیا گیا اور مغار بن نے اسکی لاش کو جلا دیا۔

بغا کا اس پوشیدہ طور سے آنے کا یہ مقصود تھا کہ صالح بن وصیف کے مکان میں جا کے چھپ رہونگا اور حالت غفلت میں خلیفہ معتز پر حملہ کر کے اسکی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا لیکن اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوا پل کے ملازموں کے ہاتھ مارا گیا۔

آغاز حکومت صفار | یعقوب بن لیث اور اسکا بھائی عمرو سجستان میں تانبے پیتل کی دوکان رکھے ہوئے تھا اسی زمانہ میں ایک شخص ہوا خواہان اہل بیت کے صالح بن نصر کنگانی نامی اس اطراف میں ظاہر ہوا اور خوارج سے معرکہ آرائی میں

مصروف ہو گیا چونکہ اس کے ہمراہی مطوعہ کے نام سے موسوم ہوئے اسوجہ سے
لوگ اسکو صالح مطوعی کہنے لگا امرار و رؤساء شہر اور عوام الناس کا ایک گروہ
اس کے معتقدوں میں داخل ہو گیا از انجملہ درہم بن حسن اور یہی یعقوب بن لیث
تھا۔ تھوڑے دنوں میں صالح نے بزور جنگ حکمت عملی سحستان پر قبضہ کر کے طاہر
بن عبدالمد والی خراسان کونکال دیا اتفاق یہ کہ اس کے بعد ہی صالح کی پر جو صلہ
زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ درہم بن حسن بجائے اس کے مطوعہ پر حکومت کرنے لگا
اس کے زمانہ میں معتقدین کی بہت کثرت ہوئی مگر یہ حد درجہ کا بزدل اور سادہ
لوح تھا والی خراسان نے بحیلہ و مکر اسکو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا مطوعہ نے
مجمع ہو کے یعقوب بن لیث کو اپنا امیر بنا یا یعقوب بن لیث ایک شجاع و باتبر
شخص تھا اس نے شرارت سے جنگ چھیڑ دی اور کمال مردانگی سے لڑ کر ان کو زیر کیا
ان کے قصبات اور گاؤں کو ویران کر دیا آدمی ہوشیار اور چالاک تھا دربار خلافت میں
ایک عرضی اس مضمون کی بھیجی کہ میں نے خلافت پناہی کے مخالفین (شرارت) کو
لڑنے کے زیر کر دیا ہے اور میں ہر طرح خلیفۃ المسلمین کا مطیع و فرمانبردار ہوں اور آہستہ
آہستہ حکمت عملی سحستان پر قبضہ کر کے اس کے راستوں کی حفاظت کا انتظام کر لیا
لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وعظ و پند کرنے لگا اس سے اس کی
وجاہت ظاہری میں ترقی ہوئی اراکین دولت بھی اسکی عزت کرنے لگے بعد چندے
یعقوب بن لیث نے سحستان سے اطراف خراسان کی جانب کوچ کیا ان دنوں
خراسان کی حکومت پر محمد بن عبدالمد بن طاہر تھا اور اس کی جانب سے ہر اہل
محمد بن اوس انباری۔ محمد بن اوس یعقوب کی آمد کی خبر سن کے ایک لشکر مرتب
کر کے مقابلہ پر آیا یعقوب سے لڑائی ہوئی میدان جنگ یعقوب کے ہاتھ رہا
محمد بن اوس بھاگ بکھڑا ہوا یعقوب نے ہر اہل اور بوئخ پر اپنی کامیابی کا جھنڈا

گاڑ دیا اس واقعہ سے والی خراسان اور اطراف و جوانب کے امراء کے ہوش و
حواس جاتے رہے ان کے دلوں پر اسکی ہیبت اور رعب کا سکہ بیٹھ گیا۔
اسی زمانہ میں علی بن حسین بن شبل نامی ایک شخص فارس کی گورنری پر تھا باوجود
اس نے خراج دربار خلافت میں ایک مدت سے نہ بھیجا تھا لیکن سجستان پر یعقوب
کے تصرف و قبضہ کو گوارا نہ کر کے کرمان کی گورنری کی درخواست خلیفہ معتز کی خدمت
میں بھیج دی چونکہ خلیفہ معتز ان دونوں (علی بن حسین اور یعقوب بن لیث) کی
حال سے بخوبی واقف تھا دونوں کے پاس سند گورنری کرمان بھیج دی تاکہ وہ
لڑ بھڑ کر ختم ہو جائیں اور کم از کم یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور فنا ہو جائے
اور علی بن حسین نے فارس سے طوق بن غلس کو اپنا نائب مقرر کر کے کرمان
بھیجا اور سجستان سے خلافت پناہی کا فرمان پاتے ہی یعقوب صفا بھی کرمان
کی طرف روانہ ہو گیا مگر اسکے پہنچنے کے پہلے طوق نے کرمان میں پہنچنے کے قبضہ
کر لیا یعقوب نے قریب کرمان پہنچنے کے قیام کر دیا دو مہینے تک طوق کے انتظام
میں ٹھہرا رہا جب طوق نے کرمان سے قدم باہر نہ نکالا تو یعقوب نے سجستان
کی طرف کوچ کر دیا طوق نے اسکی مراجعت کے بعد بجائے آراستگی لشکر اور طیار کی
جنگ کے ہووے کی مجلس منعقد کر دی ہنوز یعقوب سجستان ہی کے راستہ میں تھا
کہ جاسوسوں نے اسکی اطلاع کر دی کوٹ پڑا وودن کی مسافت کو ایک دن میں
طے کر کے طوق کے سر پر آپہنچا اور ہر چہا ر طرف سے گھیر کے قتل و غارت کا بازار
گرم کر دیا طوق اور اس کے مصاحبین کا نشہ بہرہ ہو گیا حواس باختہ ہو کے بھاگ
کھڑے ہوئے یعقوب نے کرمان پر قبضہ حاصل کر لیا اور طوق کو پابزنجیر
جیل میں ڈال دیا۔

علی بن حسین کو اسکی خبر لگی جب وقت یہ شیراز میں تھا سننے کے ساتھ بدن میں

اگسی لگ گئی یہ سمجھ کے کہ اب شیراز کی بھی خیر نہیں ہے یعقوب اس طرف ضرور آئیگا۔ فوراً ایک لشکر مرتب کر کے شیراز کے باہر ایک ایسے مقام پر اتر پڑا جس کے ایک جانب تو سر بہ فلک پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور دوسری طرف نہر تھی راستہ ایسا تنگ تھا کہ دو آدمی ایک ساتھ نہ چل سکتے تھے۔ یعقوب بھی انتظام کرمان سے فارغ ہو کے شیراز کی طرف بڑا اور علی بن حسین کے مقابلہ پر پہنچنے پر اوکرویا راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑی دوسرے دن یعقوب نے اپنے رکاب کی فوج سواران کو مرتب کر کے ایک پر جوش خطبہ دیا اور گھوڑے کو ہمیز کر کے نہر میں ڈال دیا اس کے پیچھے فوج سواران نے بھی نیزے اڑنے کر کے گھوڑوں کو نہر میں ڈال دیا رکاب سے رکاب ملائے باتیں کرتے ہوئے بات کی بات میں نہر عبور کر کے علی بن حسین سے جا بھڑے گھمسان لڑائی ہونے لگی بالآخر علی بن حسین کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور علی بن حسین گرفتار کر لیا گیا یعقوب نے اس کے لشکر گاہ کو ٹوٹ کے شہر کا رخ کیا اور شیراز پر کامیابی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے سجستان کی طرف واپس آیا۔ یہ واقعہ ۲۵۵ھ کا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بعد عبور نہر علی بن حسین اور یعقوب سے سخت لڑائی ہوئی جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ علی بن حسین کو ہزیمت ہوئی اس کا لشکر تقریباً پندرہ ہزار تھا جس میں مولیٰ (آزاد غلام) اور اکراد تھے۔ علی بن حسین کا لشکر شکست کھا کے غروب آفتاب کے وقت شیراز کی طرف لوٹا۔ شہر پناہ کے دروازہ پر منہزموں کا ایک جگھٹا تھا ہر یہ جاہتا تھا کہ جس طرح ممکن ہو سب کے پہلے میں شیراز میں داخل ہو جاؤں کچھ لوگ اطراف فارس میں منتشر و متفرق ہو کے اہواز تک پہنچ گئے۔ اس معرکہ میں علی بن حسین کے ہمراہیوں میں سے پانچ ہزار آدمی کام آئے۔

یعقوب نے فارس پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد علی بن حسین کو طرح طرح کی

ایذا میں دین اور بجز وعدہ می ایک ہزار چھتے جو اہرات اگھوڑے، آلات حرب اور عمدہ عمدہ
 قیمتی قیمتی اسباب جس کی کوئی انتہاء تھی وصول کئے اور دربار خلافت میں اپنی اطاعت
 و فرمانبرداری کی ایک عرضداشت بھیج دی اور اسکے ساتھ ہی نفیس تحائف اور قیمتی
 قیمتی ہدایا بھی بھیجے از انجملہ دس بازات سفید، ایک باز ابلق چینی اور سونے فیشک
 کے تھے روانگی تحائف اور عرضداشت کے بعد یعقوب نے بھتان کی جانب
 کوچ کر دیا اس کے ساتھ علی بن حسین اور طوق بھی تھا خلیفہ معتز نے اس کے بعد
 فارس کو اپنے مالک محروسہ میں شامل کرنے کے غرض سے اپنے گورنروں کو روانہ کر دیا۔
مصر میں ابن طولون کی حکومت کی ابتدا چونکہ باکیاں منجملہ ان سربراہان اور وہ اراکین دولت کے
 تھا جو بغاوت و عصیان اور سیاطویل کے ساتھ رہتے تھے
 جس وقت اندرونی فتنہ برپا ہونے لگا اور گورنران صوبجات کی سرتابی اور خود مختاری
 سے قوائے حکومت مضطرب ہو چکے اس وقت اطراف و جوانب کے عمال نے دست
 درازی شروع کر دی جو جہاں تھا اسکو اپنا موروٹی ملک سمجھ کے دبا بیٹھا انہیں دنوں
 خلیفہ معتز نے باکیاں کو بجائے ابن مدبر کے صوبہ مصر کی گورنری عنایت کی اس وقت
 باکیاں حفیہ میں مقیم تھا اس نے اپنی طرف سے احمد بن طولون کو بطور
 نائب کے مامور کیا۔

طولون ترکی النسل تھا اس کا باپ فرغانہ کی لڑائی میں قید ہو کے آیا تھا اس نے
 ناندان خلافت میں پرورش پائی اس کا بیٹا احمد نے بھی وہیں نشوونما پائی۔ ہوش
 سنبھالا حکمرانی اور انتظام کے طریقے سیکھے۔

باکیاں کو سند حکومت مصر ملنے کے بعد ایک یہ بڑی نگر و امنگیر ہوئی کہ کس کو
 نیابت دی جائے اور کون کون سے مصر پر میری جانب سے بھیجا جائے مشیروں نے
 احمد بن طولون کی طرف اشارہ کیا چنانچہ باکیاں نے اسکو اپنا نائب بنا کے

مصر بھی دیا اس نے مصر پر باستانہ مضافات مصر اور اسکندریہ قبضہ حاصل کر لیا پھر جب خلیفہ ہندی نے بابکیال کو قتل کر کے یارکوج ترکی کو مصر کی گورنری مرحمت فرمایا یارکوج نے احمد بن طولون کو چونکہ اس سے مراسم قدیمہ تھے اس کے عہدہ پر بحال رکھا بلکہ کل بلاد مصریہ کا اپنی جانب سے نائب مقرر کر دیا اس سے حکومت مصر پر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور بعد اُس کے اُسکے بیٹے وارثتہ ملک مصر کے حکمراں ہوئے اور خوب زور و شور سے انکی حکومت و دولت کا سکھ چلا۔

سلیمان ابن طاہر کی گورنری ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ محمد بن عبدالمدین طاہر بن حسین عراق و سواد کی گورنری پر تھا، اس کے اعزہ و اقارب

حکمتہ پولیس وغیرہ کی انگری کر رہے تھے مگر یہ خود بذاتہ بغداد میں مقیم اور خلیفہ مستعین کے ساتھ سرفروشی کر رہا تھا بالآخر مستعین اور معتز سے مضاحمت ہو گئی اور خلیفہ معتز نے مستقل طور سے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی ۲۵۳ھ عہد خلافت خلیفہ معتز میں

محمد بن عبدالمدین طاہر کا انتقال ہو گیا۔ وقت وفات اس نے حکومت دولت

اور مال غرض جو کچھ اس کے قبضہ میں تھا اپنے بھائی عبیدالد کے سپرد کر دیا۔

محمد بن عبدالمدین کے مرنے پر اس کے بیٹے طاہر اور عبیدالد میں نماز جنازہ پڑھا

کی بابت نزاع ہوئی عوام الناس کا میلان طبع طاہر کی طرف تھا اور سپہ سالاران

لشکر بہ خیال وصیت عبیدالد کا ساتھ دے رہے تھے۔ دربار خلافت سے بوجہ

وصیت خلعت فاخرہ سے عبیدالد سرفراز فرمایا گیا اور خلعت کے ساتھ چاسن

دراہم عنایت کئے گئے۔ بعد اسکے خلیفہ معتز نے سلیمان بن عبدالمدین طاہر

کو خراسان سے طلب کر کے عراق اور سواد کی حکومت بجائے اس کے بھائی

محمد بن عبدالمدین کے مرحمت کی اور عبیدالد کو معزول کر دیا عبیدالد یہ خبر پا کے

بیت المال میں جو کچھ تھا اُس کو لے کے براہِ غربی و جلد چلتا پھرتا نظر آیا۔ سلیمان

معاہدہ نامی سپہ سالار محمد بن اوس بغداد میں داخل ہوا اس کے ہمراہ خراسان کا ایک
 عظیم الشان لشکر بھی تھا ان لوگوں نے اہل بغداد کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیے کچھ ادا
 سے پیش آئے باشندگان بغداد کو اس سے ناراضی اور بیدلی پیدا ہوئی۔ باقی
 رہا بغداد کا لشکر اس کو اس سے برہمی پیدا ہوئی کہ سلیمان بن طاہر نے
 بیت المال میں جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس کو لشکر بغداد اور شاکریہ کی حق تلفی
 کر کے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا لشکریوں نے متفق ہو کر بلوہ کر دیا جیل
 کے دروازے توڑ ڈالے محمد بن اوس دجلہ عبور کر کے جزیرہ کی طرف بھاگا
 عوام الناس اور لشکریوں نے تعاقب کیا لڑائی ہوئی آخر الامر محمد بن اوس کو
 شکست فاش ملی۔ لشکر بغداد نے باب شامیہ سے اس کو نکال باہر کیا اور
 اس کے مکان سے دو لاکھ درہم کے قیمتی اسباب لوٹ کے لشکر گاہ کی جانب
 گیا اور اس کو بھی لوٹ لیا۔ سلیمان نے مجبور ہو کر بغاوت و منگامہ بلوہ فرور کرنے
 کی غرض سے لشکر خراسان کو خراسان کی جانب واپس کر دیا۔

پھر زمانہ معزولی خلیفہ معتز اور خلافت مہندی میں ایک قیامت خیز منگامہ
 برپا ہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ مہندی نے آخری ماہ رجب ۲۵۵ھ
 میں سلیمان بن عبداللہ کے پاس بغداد میں اپنی خلافت کی بیعت لینے کا پیام
 بھیجا اتفاق یہ کہ ان دنوں ابوالاحمد بن متوکل بھی بغداد میں موجود تھا جس کو
 خلیفہ معتز نے اس شور انگیز طوفان کے روک تھام کو بغداد روانہ کیا تھا
 سلیمان نے حکمت عملی سے اسکو چھپا دیا لشکریوں اور عوام الناس نے اسی وجہ
 سے بلوہ کر دیا اور مجمع ہو کر سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے ہمراہیوں
 نے مقابلہ کیا شام تک لڑائی ہوتی رہی اگلے دن جامع مسجد میں خلیفہ معتز
 کے نام کا خط پڑھا گیا بلوہ فرور ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے مجمع ہو کر ابوالاحمد

کی بیعت کرنے کی عوام الناس کو ترغیب دی اور اسکے دیکھنے کی خواہش کی سلیمان نے
 ابو احمد کو ہانہ نکال کے اُن لوگوں کو دکھلایا اور جس چیز کے وہ خواہاں تھے اُس کے
 دینے کا وعدہ کیا بلوائیوں کا مجمع منتشر ہو گیا سلیمان نے ابو احمد کی حفاظت پر چند
 لوگوں کو متعین کر دیا اور بعد اسکے اسی سزہ کے شعبان میں ہمدی کی خلافت کی بیعت لگائی
 کرخ اصفہان | ہم اوپر ابو دلف کے حالات عہد خلافت خلیفہ مامون میں بیان
 اور ابو دلف | کر آئے ہیں اور یہ کہ ابو دلف کرخ میں مقیم تھا اور خلیفہ مامون نے
 اس کی اس تقریر کو کہ اُس نے اُسکی امداد سے خاموشی اختیار کر لی تھی معاف کر دیا
 تھا اور اس نے اُس کی مرضی کے مطابق اس اطراف میں قیام کیا تھا۔ اس کے
 مرجائے پر اس کا بیٹا عبدالعزیز جالشین ہوا جن دنوں خلیفہ مستعین اور معتز میں
 چل رہی تھی اُس وقت مصلحتاً اس نے خلیفہ مستعین کی اطاعت قبول کر لی خلیفہ
 مستعین نے وصیف کو جبل اور اصفہان کی گورنری مرحمت فرمائی وصیف نے
 عبدالعزیز کو بلا و مذکورہ کی نیابت کو لکھا اور خلعت نیابت روانہ کی اس کے
 بعد خلیفہ مستعین کی خلافت کا شیرازہ درہم و برہم ہو گیا خلیفہ معتز سریر خلافت پر
 رونق افروز ہوا اس نے موسیٰ بن بنگا کبیر کو ماہ رجب ۲۵۳ھ میں جبل و اصفہان
 کے فتح کرنے کا لوہا مرحمت کیا اس کے مقدمتہ ابجیش مفلح تھا عبدالعزیز بن
 ابی دلف نے بیس ہزار کی جمعیت سے ہمدان کے باہر صف آرائی کی ایک
 نہایت سخت اور خونریز جنگ کے بعد عبدالعزیز کی فوج میدان جنگ سے
 گھونگھٹ کھا گئی اسکے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آگئے مفلح نے کامیابی کے
 جوش میں کرخ کا قصد کیا عبدالعزیز اپنی فوج کو از سر نو مرتب کر کے دوبارہ میدان
 جنگ میں آیا مگر شومی بخت سے اس مرتبہ بھی شکست کھانے کے بھاگ کھڑا ہوا
 مفلح نے اپنی فوج کی جھنڈا کرخ پر گاڑ دیا۔ بد نصیب عبدالعزیز بھاگ کے

قلعہ نہاوند پونچا اور وہیں قلعہ بند ہو گیا۔ مفلح نے اس کے اہل و عیال اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔

اس واقعہ کے بعد عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا دلف بن عبدالعزیز اس کا بیٹا جانشین ہوا قاسم بن مہاۃ نامی ایک شخص نے اہالی اصفہان سے دلف سے معرکہ آرائی کی۔ دلف کو شکست ہوئی قاسم نے اثناء گیر و دار میں دلف اور اس کے چند ہمراہیوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اس سے دلف کی فوج پر بہت بڑا اثر پڑا چند سپاہی قاسم پر دفعۃً ٹوٹ پڑے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ قاسم کے مارے جانے سے محمد لشکر کا بھی حوصلہ پست ہو گیا ہزیمت یافتہ گروہ کی طرح حسرت اور مایوسی کے ساتھ اپنے فرود گاہ پر واپس آئے۔ دلف کے ہمراہیوں نے متفق ہو کر اس کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کو ۲۴۰ھ میں اپنا امیر بنا لیا ۲۶۶ھ میں عمر صفار نے جبکہ خلیفہ معتد نے اس کو اصفہان کی حکومت عنایت کی اپنی طرف سے احمد کو اصفہان پر مامور کیا۔ ۲۶۹ھ میں کعلیغ ترکے اس سے برسر مقابل آیا احمد نے اس کو شکست دے دیکے صمیرہ کی جانب نکال دیا۔ اس سے پیشتر ۲۶۸ھ میں عمر صفار نے احمد کے پاس خراج کا تقاضا بھیجا تھا چنانچہ احمد نے روانہ کر دیا بعد اسکے ۲۶۶ھ میں خلیفہ موفوق نے بقصد احمد اصفہان کی جانب کوچ کیا احمد خلیفہ موفوق کے قیام کے لئے شہر اور اپنا آراستہ مکان چھوڑ کے چلا گیا۔ ۲۸۰ھ میں اس کی وفات ہوئی عمرو بن عبدالعزیز (اس کا بھائی) جانشین ہوا۔ بکیر اپنے بھائی کے مشورہ سے کام کرنے لگا خلیفہ معتقد کے حکم سے رافع بن لیث سے برسر مقابلہ آیا رافع بن لیث نے ان کو ہزیمت دیدی حبیبیہ کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ بعد ازاں ۲۸۱ھ میں خلیفہ معتقد نے اصفہان نہاوند اور کرخ کی حکومت پر عمرو بن عبدالعزیز کو مامور کیا اور عمرو بن عبدالعزیز

اظہار اطاعت کے خیال سے دربار خلافت میں حاضر آیا۔

معتز کی معزوبی
مہندی کی خلافت

صالح بن وصیف بن یحییٰ خلیفہ معتز کی ناک کا بال ہور ہاتھ جو چاہتا دعویٰ سے کر گزرتا خلیفہ معتز دم تک نہ مارتا۔ احمد بن

اسرائیل اسکا کاتب (سکرٹری) اور حسن بن محمد عمدہ وزارت پر تھا۔ کتاب (مکرر یوں)

میں ابو نوح عیسیٰ بن ابراہیم کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا جو اور سکرٹریوں کو نہیں

تھا۔ ترکوں نے مجمع کر کے ایوان خلافت کو گھیر لیا اپنی تنخواہیں، روزیے اور وظا

طلب کرنے لگے صالح نے خلیفہ معتز سے عرض کی "بیت المال میں اب ایک

حبہ باقی نہیں ہے جو کچھ تھا وزیروں اور سکرٹریوں نے لے لیا" احمد بن اسرائیل

نے مخالفت کی صالح نے پھر اس کی تردید کی احمد بن اسرائیل نے سختی سے جواب

دیا دونوں میں لڑک جھوک کی ہونے لگی صالح بات کرتے کرتے طیش میں آ کے

احمد بن اسرائیل پر گر پڑا اس کا گرتا تھا کہ اس کے ہمراہی جو قصر خلافت کے دروازے

پر تھے برہنہ شمشیر لئے ہوئے گھس آئے صالح نے حسن، احمد اور ابو نوح کی طرف

اشارہ کر کے حکم دیا "ان تینوں کبختوں کو قید کر لو" سرہنگوں میں سے دو چار شخصوں

نے بڑھ کے حسن، احمد ابو نوح کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ معتز نے ان لوگوں کی سفارش

کی مگر پزیرا نہ ہوئی بالآخر بہت سا مال لے کے ان لوگوں کو رہا کیا۔

جب لشکریوں کو اس فعل قبیح کے ارتکاب سے کچھ فائدہ نہ ہوا اور کل مال جو

معاوضہ میں ملا تھا صالح نے ہڑپ کر لیا تو ان کو اس مال سے کچھ ملا اور نہ ان کی

تنخواہیں بلیں طرہ اس پر یہ ہوا کہ لشکریوں پر تہمت لگائی جائے لگی کہ انہوں نے

رشوت اور سازش سے یہ حرکت کی ہے حالانکہ یہ امر ایسا نہ تھا۔ صالح سے برہم

ہو گئے مجمع ہو کے اپنی تنخواہیں پھر مانگنے لگے اور خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر

ہو گئے یہ درخواست پیش کی کہ کجمنت صالح نے ان کو بہت بڑی زک دی ہے آپ

ہم کو پچاس ہزار دینار مرحمت فرمائے ہم اس کا کام تمام کر دینگے تاکہ ہم کو اور نیز
 آپ کو آئندہ راحت ملے۔" پیچارے خلیفہ معتز کے پاس کیا تھا بیت المال کو
 امراء اور اراکین سلطنت نے پہلے ہی سے خالی کر دیا تھا شاہ شطرنج کی طرح نام
 کا خلیفہ تھا۔ اپنی ماں کی طرف دوڑا گیا کل حالات عرض کیے پچاس ہزار کی درخواست
 کی۔ ماں نے بھی نہ دیا۔ لشکری جاہل مزاج تو ہوتے ہی ہیں یہ خبر پا کے کہ امیر المؤمنین
 کے پیگاہ سے درخواست نامنظور ہوئی ہے بگڑ گئے اور اسکی معزولی پر متفق الکلمہ ہو
 ہڑ مچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ صالح بن وصیف، محمد بن بغا عرف ابولضر، اور
 بابکیاں مسلح قصر خلافت کے دروازہ پر آئے۔ خلیفہ معتز کو بلا بھیجا خلیفہ معتز نے معذرت
 کی اور ان میں سے بعض کو حاضری کی اجازت دی سب کے سب گھس پھس خلیفہ
 معتز کا پاؤں پکڑ کے دروازہ تک کھینچے ہوئے لائے، مارا، گالیاں دیں، صحن مکان
 میں برہنہ سرو صوب میں کھڑا کیا۔ اور جو شخص گذرتا تھا پانچہ مارتا تھا۔ العرصن جب کوئی
 دقیقہ بے توقیری اور زد و کوب کا باقی نہ رہا اسوقت قاضی ابن ابی الشوارب کو اس جلسہ
 میں بلوایا قاضی ابن ابی الشوارب معہ چند اراکین دولت کے آیا پیچارے معتز کی معزولی کا
 محضر لکھا گیا قاضی ابن ابی الشوارب اور حاضرین جلسہ نے گواہی لکھی صالح بن وصیف
 اس کی ماں، بہن، لڑکوں اور خود اسکی ماں کا گواہ بنایا گیا۔ مگر اسکی ماں فتیحہ بذریعہ رنگ
 جو اسکے مکان میں تھی بھاگ گئی اور غریب معتز کو اس کے دشمنوں کے حوالہ کر گئی ان لوگوں
 نے اسکو ایک شہ خانہ میں بے آب و دانہ بند کر دیا یوں سمجھے کہ زندہ درگور کر دیا سرداران
 بنی ہاشم اور اراکین دولت نے اس کے مر جانے کی شہادت دی یہ واقعہ

۱۔ خلیفہ معتز باند محمد ابو عبد اللہ خلیفہ متوکل بن معصوم بن رشید کا بیٹا تھا ۲۳۲ھ میں مقام سرمن سے پیدا ہوا اسکی ماں ام ولد (کنیز) رومیہ فتیحہ نامی تھی چار برس چھ ماہ اور چند یوم خلافت کی چوبیس برس
 کی عمر پائی۔ تاریخ کامل جلد ۷، صفحہ ۷، و تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۲۵۔

آخری ماہ رجب ۲۵۵ھ کا ہے۔

جس وقت خلیفہ معتز نے ترکوں کے دباؤ سے اپنے آپ کو معزول کر لیا اور اس امر کا اقرار کر لیا کہ میں خلافت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہوں اور نجوشی و غیبت تمام ہو۔ خلافت کو مہندی کے سپرد کرتا ہوں اس وقت کل اراکین دولت، امراء لشکر، رؤساء شہر اور عوام الناس نے خلیفہ معتز کے چچا زاد بھائی محمد بن واثق کو سریر خلافت پر بٹھلایا اور اس کے ہاتھ پر اطاعت و خلافت کی بیعت کی مہندی بالمد کا لقب دیا۔ تم اور ابھی پڑھ آئے ہو کہ فیتہ اپنے بیٹے خلیفہ معتز کو دشمنوں کے ہالہ کر کے براہ سرنگ بھاگ گئی۔ خلیفہ معتز کے بعد لوگوں نے اس کو دھوونڈھا نہ پایا۔ بھاگنے کا یہ سبب تھا کہ حسب وقت صلح نے وزراء کے ساتھ بے عنوانی کی بے توقیری سے پیش آیا، ان کی ابرو ریزی کی اور ان لوگوں سے بجز وعدی روپیہ وصول کر کے رہا کیا اس وقت بہ تحریک فیتہ انھیں وزراء میں سے دو ایک شخص صلح سے بدلہ لینے پر تمل گئے اتفاق سے صلح کو اسکی اطلاع ہو گئی صلح نے ترکوں کو جمع کر کے بغاوت پر ابھار دیا فیتہ نے یہ سمجھ کے کہ اب میرا زفاش ہو جائے گا اور میں کسی طرح زندہ نہ بچوں گی چکے چکے اپنے مجلس سے ایک سرنگ گھدوائی اور خزانہ شاہی میں جو کچھ مال و اسباب اور جو اہرات اس کو برآمد کر کے بطور امانت کسی کے پاس رکھ دیا پس جب لوگوں نے خلیفہ معتز کو آکے گھیر لیا تب فیتہ نجوف جان براہ سرنگ بھاگ گئی۔ اب ظاہر ہونے کا واقعہ سنئے کہ ہنگامہ فرو ہونے کے بعد صلح کے پاس اس کا پیام بھیجا صلح نے ماہ رمضان ۲۵۵ھ میں فیتہ کو بلا بھیجا۔ فیتہ نقاب ڈال کے حاضر ہوئی پانچ لاکھ دینار کی پیش کی صلح نے دم پٹی اور دھکی دیکے اس خزانہ کا پتہ دریافت کر لیا جو زمین کے

۱۰ مہندی کی خلافت کی بیعت یوم چار شنبہ کو لگئی جبکہ ماہ رجب ۲۵۵ھ کی ایک رات

باقی رہ گئی تھی۔ تاریخ کامل جلد ۷ صفحہ ۷۷۔

نیچے تھا اس خزانہ میں ایک کروڑ تین لاکھ دینار ایک ملوک زبردست اس قدر بڑے موتی اور
ایک کیلچہ یا قوت سُرخ تھا جس کا نظیر ملنا من قبیل محالات تھا صالح نے ان سب
مال و اسباب کو برآمد کر کے اپنے قبضہ میں کیا لوگوں نے نتیجہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ
”اس کبخت نے پچاس ہزار دینار کے لئے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا باوجودیکہ اس کے
پاس اس قدر مال تھا“ نتیجہ فقہان، مایہ اور شہادت ہم سایہ نہ برداشت کر سکی مگر
چلی آئی اور وہیں مقیم رہی۔

بعد ازاں صالح نے احمد بن اسرائیل اور زید بن معتز کو گرفتار کرایا تکلیفیں دینے
لگا بالآخر ان کا مال و اسباب بھی ضبط کر لیا اور مارے مارے ان کی زندگی کا بھی خاتمہ
کر دیا بعد اس کے ابو نوح کو گرفتار کرایا اور اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا پھر حسن
بن مخلد کی گرفتاری کرائی یہی برتاؤ اس کے ساتھ بھی کیا گیا حیات مستعار کا
کچھ حصہ باقی تھا نہ مرا۔

خلیفہ مہدی تک ان واقعات کی خبر پہنچی ناراض ہوا چین بچیں ہو کے پولا
”ان لوگوں کی سزا وہی کے لئے قید کی مصیبت کیا کم تھی ناحق قتل کئے گئے
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔“

خلیفہ مہدی نے سریر خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہی لونڈیوں اور مغنیوں
کو سامرا سے نکلوا دیا۔ مجلس رائے شاہی میں جس قدر درندے تھے اُن کے مار ڈالنے
اور کتوں کے نکال دینے کا حکم صادر فرمایا۔ عدل و انصاف کرنے کی غرض سے
دوبار عام کیا حالانکہ ان دنوں ہر چار طرف فتنہ و فساد کا ہوش رُبا طوفان اُٹھ رہا تھا

۱۵ ملوک ایک پیانہ ہے جس میں تین کیلچہ سمائے ہیں۔ اور ایک کیلچہ اسی من کا اور من دو رطل
کا اور ایک رطل بارہ اونسیہ کا اور بحساب شقال نوے شقال کا ہوتا ہے اور بحساب وزن رطل الو
ایک رطل ڈیڑھ پاؤں ۴۴ تولہ کے برابر ہوا۔ (مترجم)

اور دولت عباسیہ اسکے انتظام اور فرو کرنے میں مضطرب تھی خلیفہ ہندی نے اصلاح و انتظام پر کمر ہمت باندھ لی۔ قلمدان وزارت سلیمان بن وہب کے سپرد کیا مگر صالح بن وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انتظامی سے اسکو بھی اپنے قبضہ میں کر لیا اور عیب و دواب کے ساتھ حکومت و سلطنت کرنے لگا۔

قتل صالح بن وصیف

موسیٰ بن بعا عہد خلافت خلیفہ معتز ۲۵۳ھ سے اطراف سے اور انصہان میں روپوش تھا اس کے ساتھ مفلح (ابو السلاج کا غلام) بھی تھا جسوقت خلیفہ معتز کے قوائے حکمرانی کمزور اور اس کے امور سلطنت میں اضطراب و اختلال واقع ہو رہا تھا فتیحہ مادر معتز نے موسیٰ بن بعا کو یہ حالات لکھ بھیجے فتیحہ کا خط موسیٰ کے پاس اسوقت پہنچا جب کہ اس نے مفلح کو حسن بن زید علوی کے مقابلہ پر بھیجا تھا چنانچہ مفلح نے طبرستان میں حسن بن زید سے معرکہ آرائی کی۔ حسن بن زید کو ہزیمت ہوئی مفلح نے اس کے لشکر گاہ پر قبضہ کر کے اس کے محلات کو جو آمدیں تھے جدا کر خاک سیاہ کر دیا اور اس کے تعاقب میں ولیم تک چلا گیا موسیٰ بن بعا نے مفلح کی درخواست کے مطابق مراجعت کا حکم دیا اس اثناء میں کہ موسیٰ بن بعا مفلح کے آنے کا انتظار کر رہا تھا خلیفہ معتز کی معزولی و قتل اور ہندی کی بیعت و تخت نشینی کا واقعہ پیش آ گیا رفتہ رفتہ ان واقعات کی اور نیز اس امر کی بھی خبر ہو چکی کہ صالح نے براہ نکر امی خلیفہ معتز کے مال و اسباب کو لے لیا۔ اس کے وزراء اور امراء کی توہین کی ہے اور امیر المومنین کی ماں فتیحہ کا مال و اسباب چھین کے نکال دیا ہے۔ موسیٰ بن بعا کے ہمراہیوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا مجمع ہو کے موسیٰ بن بعا کے پاس گئے کہ سن کے سامرا چلنے پر طیار کر لیا اتنے میں مفلح بھی بلا دو ولیم سے واپس آ گیا ان دنوں موسیٰ بن بعا کے میں تھا موسیٰ بن بعا نے سامرا کی طرف کوچ کیا خلیفہ ہندی نے موسیٰ بن بعا کی آمد کی خبر سن کے رے میں قیام کرنے کا فرمان بھیجا اور آسٹون علویوں کی

بغاوت اور شورش سے ڈرایا مگر موسیٰ بن بغا نے کچھ سماعت نہ کی اس کے ہمراہی نامہ برون کے ساتھ جو خلیفہ ہندی کا خط لائے تھے سختی سے پیش آئے موسیٰ نے دربار خلافت میں معذرت لکھ بھیجی نامہ بروں نے اسکی تصدیق کی اگر موسیٰ بن بغا بموجب حکم والا رہے کی طرف مراجعت کرتا تو اس کے ہمراہی اسکو زندہ نہ چھوڑتے ان لوگوں میں حد درجہ کا اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ خلیفہ ہندی یہ سن کے خاموش ہو گیا اور صلاح بن وصیف کو موسیٰ کی جانب سے خلیفہ ہندی کے برہم کرنے کا موقع مل گیا وقت بہ وقت جب خلیفہ ہندی کا مزاج کسی قدر کسی کی طرف سے برا فروختہ پاتا موسیٰ کی شکایت کا دفتر کھول دیتا بغاوت اور سرکشی کے الزامات اسکے سر تھوپتا تا آنکہ ماہ محرم ۲۵۶ھ میں موسیٰ بن بغا مع اپنے ہمراہیوں کے سامرا آپہنچا صلاح بن وصیف یہ سن کے چھپ چھپا موسیٰ بن بغا سیدھا دربار خلافت کی طرف گیا ماضی کی اجازت طلب کی اس وقت خلیفہ ہندی دربار خاص میں سر ریختا ہوا لوگوں کی داد فریاد سن رہا تھا چند لمحہ تک سکوت کے عالم میں ماضی کی اجازت دینے کے مسئلہ پر غور کرتا رہا اسکے مصاحبین بھی سکوت کے عالم میں سر نیچا کئے ہوئے بیٹھے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صلاح بن وصیف اور اسکے لشکر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ ہندی ٹھہر سکوت توڑ کے بولا "اچھا موسیٰ بن بغا کو ماضی کی اجازت دیجائے" اجازت کا ملنا تھا کہ موسیٰ مع اپنے سرداروں کے پہنچ گیا اور خلیفہ ہندی کو گرفتار کر کے باجوہ کے محل میں نظر بند کر دیا۔ ایوان خلافت میں جو کچھ تھا ٹوٹ لیا۔ گرفتاری کے بعد ہندی نے موسیٰ بن بغا سے معذرت کا خط لکھا لطف و عنایت کا خواستگار ہوا موسیٰ بن بغا نے خلیفہ ہندی سے پہلے اس امر کا عہد و پیمان لیا کہ آئندہ صلاح کو کسی قسم کا اختیار امور سلطنت میں نہ دیا جائے اور ظاہر و باطن مجھے رسم دوستانہ ایکساں رکھی جائے بعد ازاں بیعت کی اور ہر کام میں یہی پیش پیش رہے گا

اگلے دن صالح کو ایوان خلافت میں بلا بھیجا۔ وزراء کے قتل اور خلیفہ معتز کے مال
 و اسباب چھین لینے کا جواب طلب کیا صالح نے دوسرے دن کا وعدہ کیا تو وہی
 رات ہوئی سب ہمراہی ایک ایک دودھ کر کے متفرق و منتشر ہو گئے معدودے چند
 کے سوا کوئی باقی نہ رہا چار تا چار بچوں جان چھپ رہا۔ اور موسیٰ بن بغا کے آدمی اسکی
 جستجو کرنے لگے۔ آخری محرم ۲۵۶ھ میں خلیفہ ہندی نے ایک خط دکھایا جس کو
 سیما شرابی نے اسکی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ ایک اجنبی عورت مجھے
 یہ خط دیکھنے غائب ہو گئی ہے۔ اراکین دولت اور سپہ سالاران لشکر مجتمع کئے گئے
 سلیمان بن وہب نے خط کھولا سو او خط سے یہ ثابت ہوا کہ صالح بن وصیف کے
 ہاتھ کا یہ خط لکھا ہوا ہے۔ اس خط میں وزراء کے قتل کے وجوہات اور خلیفہ معتز
 اور اسکے مال و اسباب کے لینے کے واقعات تحریر کئے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں
 بخت جان اور فتنہ و فساد کے فرو کرنے کے خیال سے سامرا میں چھپا ہوں "مضمون
 خط سن کے خلیفہ ہندی کا دل بھر آیا اراکین سلطنت سے مخاطب ہو کے بولا "صالح
 سے اب تو صلح اور اتفاق کرو تمہارا وہ سردار ہے اگر اس سے کسی قسم کی بغزشت
 ہو گئی ہے تو اس سے درگزر کرو تمہارے ساتھ اس نے کبھی کسی قسم کی برائی نہیں
 کی "سرداران ترک یہ کہہ کے کہ خلیفہ کا میلان پھر صلح کی طرف ہو گیا ہے اور
 اس نے اس سے سازش کر لی ہے اور یہ اسکا پتہ جانتا ہے "اور بار سے اٹھ کے چلے
 آئے۔ اس کے دوسرے دن ایوان شاہی کے اندر موسیٰ بن بغا کے مکان پر ترکوں
 نے مجتمع ہو کے یہ رائے قائم کی کہ خلیفہ ہندی کو سریر خلافت سے اتارو و باکیاں
 نے اس رائے سے مخالفت کی اور ان لوگوں کو اس کی دھکی دی کہ اگر تم لوگ ایسے شنیع
 امر کے مرتکب ہوئے تو یہ یاد رکھنا کہ میں تم لوگوں سے علیحدہ ہو کے خراسان چلا جاؤ۔
 اتفاق یہ کہ خلیفہ ہندی کو اسکی خبر لگ گئی اسی وقت مجلس کارنگ بدل دیا عمدہ نفیس

کپڑے پہنے خوشبو لگائی تلوار جمایل کر کے غصہ کی صورت بنا کے سر پر خلافت پر بیٹھا
 اور بابکیاں وغیرہ کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد بابکیاں معہ چند اراکین دولت کے
 حاضر ہو ا خلیفہ ہمدی نے غضب آلودہ نگاہوں سے دیکھ کے پر غیظ آواز سے ڈانٹ
 کہا "کیوں نا عاقبت اندیشو! تم میں کل کیا مشورہ ہو رہا تھا مجھے تمہارا کل حال معلوم
 ہو گیا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں میں مرنے
 اور مارنے کو کھیل سمجھتا ہوں ورنہ جب تک یہ تلوار میرے قبضہ میں ہے اس وقت
 تک تم میں سے کوئی شخص میرا بال بیکا نہیں کر سکتا واللہ مجھے صالح کا پتہ نہیں معلوم
 ہے تم لوگ خلفاء اسلام کو قتل کر کے بے حد جبری ہو گئے ہو۔ کیوں بابکیاں اور
 محمد بن بغا! تم دونوں صالح کے شریک حال تھے جب اس نے مادر معتز کے اسباب
 اور مال کو ضبط کیا تھا کیا تم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی تنہا اسی کو ہڑپ کر جانے
 دیا؟ دیکھو یاد رکھو کہ مجھے ان سب واقعات کی اطلاع ہے، حاضرین نے اس
 تقریر کا کچھ جواب نہ دیا۔ عوام میں یہ خبر مشہور ہوتے ہی کہ ترکوں نے امیر المومنین
 کی معزولی پر اتفاق کر لیا تھا اور اس امر کے درپے تھے مگر ناکام رہے مساجد میں
 مجتمع ہو کے امیر المومنین کے حق میں دعا کرنے میں مصروف ہوئے اراکین سلطنت
 کی فتنہ پر دازی اور خلیفہ وقت سے سپہ سالاران لشکر کی بغاوت کرنے پر راستوں
 میں رقعے لکھ لکھ کے پھینکے اور ان کو علانیہ سخت و ناملایم خطاب سے یاد کرنے لگے۔
 بعد اسکے (یوم چہار شنبہ چوتھی صفر ۳۵۶ھ) میں ان خدام نے جو کرخ اور شاہی
 محلات میں تھے خلیفہ ہمدی کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ درخواست کی کہ امیر المومنین
 اپنے بھائی ابوالقاسم عبدالمد کو ہم لوگوں کے پاس روانہ فرمائیں جان نثاران
 خلافت پناہی کچھ عرض معروض کیا جاتے ہیں، خلیفہ نے یہ درخواست منظور فرمائی
 اور اپنے بھائی ابوالقاسم کو ان لوگوں کے پاس بھیج دیا ان لوگوں نے متفق الکلمہ

ہو کے کہا ”ہم لوگوں پر موسیٰ ابابکیالی اور ان کے ہمراہیوں کے حالات روز روشن کی طرح ہو پڑا ہیں ہم لوگ خلافت پناہی کے جان نثاروں اور تابعداروں میں ہیں اپنی اشارہ پر ہم سرکٹانے اور کٹانے پر طیار ہیں ان کبخت سپہ سالاران لشکر اور محرم اراکین دولت نے ہماری تنخواہیں بند کر دی ہیں روزینے دیر میں دیتے ہیں بڑی بڑی جاگیرا کے مالک ہیں ہماری بے کسی اور بیچارگی سے غافل اور بے پرواہ ہیں۔ جو خراج آتا ہے اُس کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں مخالف اور ہدایا پر بھی ہاتھ مارتے ہیں“ ابوالقاسم نے اسکا کچھ جواب نہ دیا ان لوگوں نے اسی مضمون کی ایک عرضداشت لکھی اور ابوالقاسم کی معرفت خلافت ماب کی خدمت میں بھیج دی خلیفہ مہندی نے اس عرضداشت کو غور سے پڑھ کے قلم خاص سے تحریر کیا ”تمہاری عرضداشت ملاحظہ سے گذری اللہ تعالیٰ تم کو جزا خیر اور خلیفہ وقت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے میں تمہاری اطاعت اور خواہی سے بہت خوش ہوا میں عنقریب تمہارے روز اور تنخواہوں کا معقول بندوبست کرتا ہوں جاگیرا ت اور مالک محروسہ کا بھی انتظام کرنے والا ہوں والسلام“ ابوالقاسم اس فرمان کو لئے ہوئے شاہی محلات اور کرخ کے خدام کے پاس آیا وہ لوگ اس کو پڑھ کے خوش ہو گئے دعائیں دینے لگے اور تسفیق ہو کے یہ رائے قائم کی کہ ”آج سے کوئی کام بلا حکم امیر المومنین کے نہ کیا جائے اور نہ کوئی خلافت پناہی کے کاموں میں دخیل ہونے پائے اور جیسا کہ خلیفہ مستعین کے عہد خلافت کا دستور تھا ویسا ہی پھر جاری ہو کہ ہر دس پر ایک عرفین ہر چاس پر ایک خلیفہ اور ہر سو پر ایک افسر مقرر کیا جائے عورتوں کی جاگیریں یک قلم ضبط کر لی جائیں۔ ہر دوسرے مہینے وظائف اور تنخواہیں تقسیم کی جائیں ہم لوگ اپنی حالت روائی اور عرض و معروض کرنے کو امیر المومنین کے باب عالی پر حاضر ہو کریں جو شخص ذرا بھی چون و چرا کرے فوراً اُس کا سر اتار لیا جائے اور اگر امیر المومنین کا

ایک بال بھی بیکا ہو تو اُس کے عوض میں موسیٰ بن یغنا یا بکیال اور ماجور کا کام فیہ راتما کر دیا جائے۔ جلسہ برخواست ہونے پر اسی مضمون کی عرضداشت ابوالقاسم کی معرفت دربار خلافت میں ارسال کی گئی۔ یہ عرضداشت خلیفہ ہندی کے پاس اُس وقت پہنچی جبکہ وہ دربار عام میں انفصال قضایا اور خصومات کی غرض سے رونق افروز تھا فقہاء قضاة سپہ سالاران لشکر اور اراکین دولت حسب مراتب کھڑے ہوئے تھے لفافہ کھولا گیا اور عرضداشت اُن لوگوں کے مواجہ میں پڑھی گئی سبوں کے چہروں پر ہوائی سی اڑنے لگی کچھ بن نہ پڑا جن جن امور کو اُن لوگوں نے پیش کیا تھا از اول تا آخر سب کی منظوری کا جواب لکھا ابوالقاسم نے سپہ سالاران لشکر اور اراکین دولت کو عذر و معذرت کرنے کے لئے چند سفیروں کے بھیجنے کی رائے دی چنانچہ سپہ سالاران لشکر اور اراکین دولت نے اس رائے پر عملدرآمد کیا اور ابوالقاسم معہ فرمان خلافت اور ان لوگوں کے سفیروں کے کمرخ اور شاہی مہلات کے خدام کے پاس گیا انہوں نے ان کے عذرات کو گوش التفات سے استماع کیا فرمان خلافت کو سر اور آنکھوں سے لگا کے پڑھا اور ذیل کی پانچ توثیحات کے صدور کی درخواست کی۔

(۱) زیادات کی ضبطی فرمائی جائے۔

(۲) جاگیرات واپس کر دی جائیں۔

(۳) بیرونی خدام خاصہ سے نکال دیئے جائیں۔

(۴) طریقہ سیاست و ملک داری جیسا خلیفہ مستعین کے عہد خلافت میں

تھا ویسا ہی اب اختیار کیا جائے۔

(۵) موسیٰ بن یغنا اور صالح بن وصیف سے حساب نہی کی جائے۔ ہر دوسرے مہینے

تختواہ تقسیم ہو۔ عساکر اسلامی کی افسری پر امیر المؤمنین کا کوئی بھائی یا عزیز و قریب

مقرر فرمایا جائے آزاد غلاموں کے قبضہ سے یہ معزز عہدہ نکال لیا جائے۔

اسی مضمون کا ایک خط سپہ سالاران لشکر اور اراکین دولت کے نام بھی لکھ کے روانہ کیا خلیفہ ہندی نے درخواست کو پڑھ کے توجیحات متذکرہ بالا کے لکھنے اور صادر کئے جانے کا حکم دیا۔ اور سپہ سالاران لشکر و اراکین دولت نے بھی ان لوگوں کو منظور کر لیا جس کے وہ خواستگار تھے۔ علاوہ اسکے موسیٰ بن بغا نے ایک علیحدہ خط مشعر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے اور اس سے حساب سمجھنے کا لکھ بھیجا ان لوگوں نے ان خطوط کو پڑھ کے جواب بھیجے گا وعدہ کرنے جلسہ برخواست کیا گلے دن ابوالقاسم سوار ہونے کے ان لوگوں کی طرف جواب لینے کی غرض سے روانہ ہوا موسیٰ بن بغا بھی ڈیڑھ ہزار آدمیوں کی جمعیت سے اس کے پیچھے چلا اثنار راہ میں ایک مقام پر پہنچے جس طرف ان لوگوں کا راستہ تھا کھڑا ہو گیا ابوالقاسم بھی دوسری طرف سے آ گیا اس عرصہ میں جوق جوق وہ لوگ بھی آ گئے ہر شخص اپنے فہم و ادراک کے مطابق رائے زنی کرنے لگا شور و غل سے کان کے پردے پھٹنے لگے جب وہ لوگ کسی امر پر متفق نہ ہوئے تو ابوالقاسم نے ایوان خلافت کی طرف مراجعت کی اور اپنے ساتھ موسیٰ بن بغا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ ہندی نے محمد بن بغا کو ابوالقاسم کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور ایک فرمان لکھ کے ان کو مرحمت کیا جس میں نہایت تاکید سے صالح بن وصیف کو امان دی گئی تھی ان لوگوں نے یہ درخواست پیش کی کہ موسیٰ اپنے باپ کا قائم مقام کیا جائے اور صالح کو اسکے باپ کا عہدہ عنایت ہو۔ اور لشکر بدستور سابق اسکے قبضہ میں رہے اور امان دینے پر دربار خلافت میں حاضر ہو۔ اراکین دولت نے اسکی بھی منظوری کر لی مگر پھر بھی وہ لوگ متفق الکلمہ ہوئے کرخ سامرا اور شاہی محلات میں منتشر ہو گئے۔

اس کے دوسرے دن بنو وصیف نے اپنے ہمراہیوں کو مجتمع کیا آلات جنگ سے

صبح ہوئے اہل شہر کے جانوروں کو لوٹ لیا اور سامرا میں انکو فوج کی طرح مرتب کر کے ابوالقاسم کے مکان کو جا گھیر اصالح کو لاؤ صالح کو لاؤ چلانے لگے خلیفہ مہندی نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور یہ کہا کہ ”اگر انکے پاس صالح ہو تو اُس کو حاضر کر دیں اس شور و غوغا سے کیا فائدہ ہے“ موسیٰ بن بغا نے یہ حالت دیکھ کے سپہ سالاران لشکر کو طیارے کا حکم دیا چند لمحہ میں سپہ سالاران لشکر معہ اپنے رکاب کی فوج کے طیارہ ہو گئے موسیٰ معہ ان لوگوں کے سوار ہو کے بلوائیوں کی طرف چلا اب اسوقت اس کے ہمراہ چار ہزار فوج تھی بلوائیوں نے موسیٰ کو اس طیارے سے اتے ہوئے دیکھ کے دم نہ مارا کمال خاموشی کے ساتھ نظر بچا بچا کے چلتے پھرتے نظر آئے یہ دن بخیر و خوبی تمام ہو گیا نہ تو کرخوں نے موسیٰ بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سامرا والوں نے چون و چرا کیا۔ موسیٰ بن بغا نے صالح کی جستجو میں بے حد کوشش کی شہر میں چاروں طرف منادی کرادی۔ غوغائیوں میں سے کسی نے اسکو کسی صورت سے گرفتار کر لیا ایوان خلافت کی طرف لے کے چلا عوام الناس کا ایک جم غفیر پیچھے پیچھے تھا موسیٰ بن بغا کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لپک کے صالح پر تلوا چلائی سیدھا ہاتھ موندھے سے اتر گیا بے ہوش ہو کے گرا دوسرے نے دوڑ کے سر اتار لیا اور قشہیر کی غرض سے نیزہ پر نصب کر کے شہر میں پھرایا۔

اس ہنگامہ کے فرو ہونے پر موسیٰ بن بغا شرات سے جنگ کرنے کو سن

کی طرف روانہ ہوا۔

۲۳۸ عہد خلافت متصر میں ایک شخص محمد بن عمر

شاربی نے اطراف موصل میں دولت عباسیہ کے

عہد متصر سے ایام مہندی تک کے صولفت

خلافت علم مخالفت بلند کیا اور بار خلافت سے اسحاق بن ثابت فرغانی اُس کی سرکوبی پر متعین ہوا پس اس نے اُس کو معہ اُس کے چند ہمراہیوں کے گرفتار کر کے

قتل کر ڈالا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ اسی سزہ میں وصیف بسر افسری لشکر صلیبہ
جہاد کرنے کو گیا خلیفہ منقر نے حکم دیا کہ تا صدور حکم ثانی چار برس تک ملطیہ میں قیام
پذیر رہو اور موسم جہاد میں کفار کو آرام و چین سے نہ بیٹھنے دو۔ یہ اندون بلا و سرحدی
شام میں مقیم تھا چنانچہ اس حکم کے مطابق وصیف نے بلا و روم پر فوج کشی کی اور قلعہ
فروریہ کو کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا۔

۲۶۹ء میں جعفر بن دینار نے لشکر صلیبہ کے ساتھ جہاد کیا اور قلعہ مطامیر
پر بزور تیغ قبضہ کر لیا بعد اسکے عمر بن عبداللہ اقطع نے بلا و روم پر فوج کشی کرنے کی
جعفر سے اجازت طلب کی جعفر نے اہل ملطیہ کا ایک لشکر مرتب کر کے بلا و روم پر حملہ
کرنے کی اجازت دی بادشاہ روم سے مرجع اسقف میں ٹھہری ہو گئی پچاس ہزار
لشکر اس کے ہمراہ تھا اس نے مسلمانوں کو جنگی تعداد دو ہزار تھی گھیر لیا عساکر
اسلامیہ نے محاصرہ توڑنے کی ہر چند کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی ایک
بہت بڑی لڑائی کے بعد عمر بن عبداللہ اقطع معاہدے پر ہمراہیوں کے شہید ہو گیا۔
اس واقعہ سے رومیوں کے دل بڑھ گئے جو پیش قدمی میں حدود جزیرہ کی طرف
بڑھے اور حالت غفلت میں پہنچے مسلمانوں کو خوب پامال کیا علی بن یحییٰ ارمینی
کو اسکی خبر ملی اس وقت یہ ارمینیہ سے میا فارقلین کی طرف جا رہا تھا۔ اس موحش
خبر کو سن کے کوٹ پڑا اور رومیوں سے دست بردست لڑ کے معاہدہ چار سو مسلمانوں کے
شہید ہو گیا (یہ واقعہ ۲۶۹ء کا ہے)۔

۲۵۳ء عہد خلافت معتز باللہ محمد بن معاذ نے اطراف ملطیہ سے جہاد شروع
کیا لیکن اتفاق وقت سے شکست کھا کے بھاگا گرفتار کر لیا گیا۔

عمال | خلیفہ منقر نے سریر خلافت پر متمکن ہوتے ہی احمد بن خصیب کو عہدہ
وزارت سے سرفراز فرمایا اور ابو عمر احمد بن سعید (بنی ہاشم کے آزاد غلام) کو صیغہ

فوجداری کی حکومت عنایت کی۔ بعد ازاں (۲۲۸ھ میں) خلیفہ مستعین تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا اس اثنا میں طاہر بن عبدالمد والی خراسان کا انتقال ہو گیا اور بار خلافت سے بجائے اس کے بیٹے محمد کو خراسان کی اور محمد بن عبدالمد کو عراق کی گورنری مرحمت فرمائی گئی حرمین، معاون سواد اور سررشتہ پولیس کی افسری بھی اسکے دی گئی اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی سلیمان بن عبدالمد کو بطور نائب بلستان پر مامور کیا۔ بغاکیہ کی وفات پانے پر اسکا بیٹا موسیٰ مامور ہوا ساتھ ہی اسکے محکمہ خیر رسائی کی افسری بھی اسکے عنایت کی گئی۔ اہل حمص کی سرکشی اور عامل حمص سے بناوٹ کرنے پر فضل بن قارن (مازیار کا بھائی) مستعین کیا گیا اس نے حمص میں پہنچنے کے قتل عام کا حکم دیدیا ایک گروہ کثیر مار ڈالا گیا اور سرداران حمص سے سواد می گرفتار کر کے سامرا بھیج دئے گئے۔ بعد اسکے خلیفہ مستعین نے احمد بن خصیب کو عہدہ وزارت سے معزول کر کے قلمدان وزارت اتامش کے سپرد کیا مصر و مغرب کی حکومت عنایت کی۔ اور معزول وزیر احمد بن خصیب کو بعد معزولی اور غلطی مال و اسباب جزیرہ اقریطش کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ انہیں دونوں بغا شربی کو جلاء ان، ماسبدان اور مہرمان نقدق کی گورنری مرحمت ہوئی (یہ واقعات ۲۲۸ھ کے ہیں) بعد اسکے اتامش کو لوگوں نے مار ڈالا تب خلیفہ مستعین نے بجائے اسکے ابو صالح عبدالمد بن محمد بن داؤد کو عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا اور فضل بن مروان کو دیوان الخراج (یعنی محکمہ مال) سے معزول کر کے عیسیٰ بن فرمانشاہ کو وصیعت کو اہواز پر بنا صغیر کو فلسطین پر مامور کیا بعد اسکے بغا صغیر اور ابو صالح سے آن بن ہو گئی ابو صالح بخون بغا صغیر بغداد بھاگ گیا خلیفہ مستعین نے بجائے اسکے عہدہ وزارت پر محمد بن فضل جرجانی کو اور دیوان الرسائل پر سعید بن جبیر کو مستعین فرمایا جعفر بن عبدالواحد کو عہدہ قضا سے معزول کر کے جعفر بن محمد بن عثمان برقی کو مقرر کیا اور معزول تماشی کو اہرہ کی جانب جلاء وطن کر دیا (یہ واقعات ۲۲۹ھ کے ہیں)۔

۲۵۰ء میں دربار خلافت سے جعفر بن فضل بن عیسیٰ بن موسیٰ معروف بہ بشاش
 کو مکہ کی حکومت دی گئی۔ اہل حمص میں بغاوت پھوٹ نکلی بلوہ کر کے اپنے گورنر فضل
 بن قارن کو مار ڈالا اعلیٰفہ مستعین نے انکی سرکوبی اور گوشمالی پر موسیٰ بن بغا کو مامور فرمایا
 اہل حمص برسرِ مقابلہ آئے متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر اہل حمص کو ہزیمت ہوئی اور
 موسیٰ بن بغا نے حمص کو جلا کے خاک سیاہ کر دیا۔ اسی سنہ میں شاکریہ اور لشکریوں نے
 فارس میں عبدالمد بن اسحاق بن ابراہیم والی فارس پر دفعۃً حملہ کر دیا۔ اور اسکے مکان
 کو تاخت و تاراج کر کے محمد بن حسن بن قارن کو مار ڈالا عبدالمد بن اسحاق کسی طرح
 اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ اطراوت طبرستان میں علویہ کا ظہور بھی اسی سنہ میں ہوا۔
 ۲۵۱ء میں خلیفہ معتز نے بغا اور وصیف کو ان کے عہدوں پر بحال کیا اور محکمہ
 خبر رسانی کی افسری پر موسیٰ بن بغا کو واپس فرمایا۔ اسی سنہ میں محمد بن طاہر نے
 ابو السلاج کو کوفہ کی حکومت پر مامور کیا چنانچہ یہ عبدالرحمن کے پاس گیا جیسا کہ ہم اوپر
 بیان کر آئے ہیں اور یہ طاہر کیا کہ میں اعراب سے جنگ کرے کو آیا ہوں۔ ابو احمد سے
 میل جول پیدا کر کے حکمت علی قید کر کے بغداد بھیج دیا یہ واقعہ ۲۵۲ء کا ہے۔ اسی
 ۲۵۲ء میں خلیفہ معتز نے حسین بن ابی الشوارب کو قاضی القضاة کا معزز عہدہ
 عنایت فرمایا اور محمد بن عبدالمد بن طاہر نے ابو السلاج کو راہ مکہ پر متعین کیا۔ دربار خلا
 سے عیسیٰ بن شیخ بن سلیم شیبانی (یہ حساس بن مرہ بن ذہل بن شیبان کی اولاد سے تھا)
 رملہ کی گورنری پر بھیجا گیا اس نے فلسطین اور دمشق کو مع اسکے مضافات کے دیا لیا۔
 شام کا خراج جو ہمیشہ دارالخلافت کو روانہ کیا جاتا تھا بند کر دیا۔ انہیں دونوں ابراہیم
 بن مدبر مصر کی گورنری پر تھا اس نے سات لاکھ و پینار مصر سے دارالخلافت بغداد اور واپس
 کیا اتفاق سے عیسیٰ کو خبر لگ گئی اثنائے راہ میں قافلہ کو روک کے لوٹ لیا دارالخلافت
 سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے یہ الزام لشکریوں کے سر تھوپ دیا خلیفہ معتز نے

اسکو بنظر انتظام مملکت ارمینیہ کی گورنری پر تبدیل کر دیا اور باجور کو دمشق و شام کی حکومت عنایت فرمائی جسوقت باجور دمشق کے قریب پہونچا عیسیٰ نے اپنے بیٹے منصور کو بیس ہزار جنگ آوروں کی جمعیت سے باجور کو روکنے کی غرض سے روانہ کیا باجور و منصور میں جنگ ہوئی منصور شکست کھا کے بھاگا اور مارا گیا اس واقعہ سے عیسیٰ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے مجبوراً تعمیل فرمان خلافت پناہی براہ سائل ارمینیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ۲۵۶ء کا ہے اسی سنہ میں وصیف نے عبدالعزیز بن ابولہث عجمی کو صوبجات جبل پر اپنی طرف سے متعین کیا۔

۲۵۳ء میں موسیٰ بن بجاہل کی طرف روانہ ہوا اسکے مقدمہ الجیش پر مفلح مولیٰ ابوالسلج تھا عبدالعزیز بن ابی دلف نے صف آرائی کی مگر شکست کھا کے اپنے قلعہ میں پناہ گزین ہو گیا مفلح نے کرخ پر قبضہ کر کے اسکے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا۔ اسی سنہ میں محمد بن عبدالعد بن طاہر نے بغداد میں وفات پائی اسکی وصیت کی مطابق اسکا بھائی عبید اللہ مامور ہوا اس کے بعد خلیفہ معتز نے اسکے دوسرے بھائی سلیمان کو طبرستان سے طلب کر کے بجائے اسکے متعین فرمایا اندون سلیمان بن عمران ازدی موصل کی گورنری پر رکھا اس سے اور ازد سے اطراف موصل میں متعدد ولایاتیاں ہوئیں اسی سنہ میں مزاحم بن خاقان کا مصر میں انتقال ہو گیا یعقوب سفار نے اسی سنہ میں سجستان فارس اور ہرات پر قبضہ حاصل کر کے اپنی دولت و حکومت کی بنیاد قائم کی۔ اور باکیالی نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کو حکومت مصر متعین کیا اسی زمانہ میں بنو طولون کی حکومت کا بنیادی پتھر مصریا رکھا گیا بعد ازاں خلیفہ معتز نے ۲۵۶ء میں یار جوج کو مصر کی گورنری مرحمت فرمائی۔ اس سے اسکی حکومت کو ایک گونہ استقلال اور مضبوطی ہو گئی ۲۵۵ء عہد خلافت مہندی میں مساور قاریجی موصل پر قابض ہو گیا تھا۔ اسی سنہ میں

زنگیوں کے سردار کا ظہور و خروج ہوا اور یہی زمانہ اسکے فتنہ کے آغاز کا ہے۔

زنگیوں کے اکثر دعاۃ علویہ جنہوں نے عہد خلافت معتصم یا بعد اسکے عراق میں خروج
حالات کیا تھا۔ زید یہ تھے۔ انہیں کے آئمہ سے علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ

بن زید شہید تھے جو بصرہ میں رہتے تھے۔ پس جب وقت اُن لوگوں نے خلفاء وقت
سے منازعت شروع کی اور خلفاء وقت نے اُن کی جستجو کی جانب توجہ فرمائی اور اُنکے
ابن عم علی بن محمد بن حسین کا مقام فدک میں کام تمام کیا گیا اسی زمانہ میں ایک شخص
نے رے میں خروج کیا اس دعویٰ سے کہ میں علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ ہوں۔ یہ
واقعہ عہد خلافت مہتدی ۲۵۵ھ کا ہے۔ اور جب ابن علی نے بصرہ پر قبضہ حاصل
کیا تو عمایدین اور مشہور خاندان والوں نے اس پر جرح و قدح شروع
کی اُس وقت اس نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے بھی شہید جرجان برادر
عیسیٰ مذکور کی طرف اپنے کو منسوب کر دیا۔

مسعودی نے اسکو طاہر بن حسین کی جانب منسوب کیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے
کہ حسین۔ طاہر بن یحییٰ محدث بن حسین بن جعفر بن عبدالمدین حسین بن علی کا بیٹا
لیکن ابن حزم نے حسین خبیط کے نسبت یہ لکھا ہے کہ انکا نسلی سلسلہ سوائے علی بن
حسین کے اور کسی سے نہیں چلا سبیری اور ابن حزم وغیرہما محققین کی یہ رائے ہے کہ
یہ شخص عبدالقیس کے قبیلہ سے تھا اور اس کا نام علی بن عبدالرحیم ہے اور شہر رے
کے کسی گائوں کا رہنے والا تھا۔ زید یہ کے متواتر خروج کرنے سے اسکے دل میں خروج
کلاہک۔ ولولہ اور جوش پیدا ہوا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے کو اس خاندان سے
منسوب کر دیا۔ اس دعویٰ کی اس امر سے پوری پوری تائید ہوتی ہے کہ یہ خواج
ازار قہ کے عقاید کا پابند تھا اور ان عقاید سے اہل بیت منزلوں دور ہیں۔
بہر کیف یہ خلیفہ منصر کے حاشیہ نشینوں کے ایک گروہ سے ملا اور انکی تعریف

اور محمد میں قصائد لکھے جس سے اس کا رسوخ ان لوگوں کی مجلسوں میں بڑھ گیا
 بعد ازاں ۲۹ھ میں سامرا سے بحرین چلا آیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں عبدالقدوس بن محمد
 بن فضل بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابیطالب کی نسل سے ہوں، لوگوں
 کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دی اکثر اہل حجر وغیرہ نے اس کی اتباع
 کی اور اسی کی وجہ سے بادشاہ وقت کے لشکر سے لڑے اور بہت بڑے فتنہ و فساد
 کے بانی مہانی ہوئے بعد چندے علی ان لوگوں سے جدا ہو کے احسا چلا آیا اور قبیلہ
 سعد بن تمیم میں بنی شامش کے ہاں فروکش ہوا۔ بحرین سے چند عمائدین بھی اس کے
 ساتھ چلے آئے تھے از انجملہ یحییٰ بن محمد زرق بخرانی اور سلیمان بن جامع تھا یہی دونوں
 اس کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اس سے اور اہل بحرین سے لڑائی ہوئی میدان جنگ
 اہل بحرین کے ہاتھ رہا اور علی شکست کھا کے بھاگا۔ اس ہزیمت سے عرب کا گروہ
 اس سے جدا ہو گیا مگر علی ابن ابان نے ساتھ نہ چھوڑا بصرہ پہنچا اور بنی ضبیعہ
 کے ہاں مقیم ہوا ان دنوں محمد بن رجاہ عامل بصرہ تھا۔ بلالیہ و سعدیہ میں آتش فتنہ
 مشتعل ہو رہی تھی اس نے فریقین سے ایک کے ملائے کی کوشش کی راز افشاں
 ہو گیا محمد بن رجاہ نے اس کی گرفتاری پر چند سپاہیوں کو متعین کر دیا علی یہ خبر پا کے بھاگ
 گیا اسکا بیٹا، اسکی بیوی اور اسکے ہمراہیوں کا ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا علی بہزار
 خرابی بغداد پہنچا ایک برس تک مقیم رہا بغداد میں پہنچ کر اس نے اپنے کو محمد بن احمد
 بن عیسیٰ کی جانب منسوب کیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ ایک گروہ اسکی جانب
 مائل ہو گیا از انجملہ جعفر بن محمد صوحانی (یہ یزید بن صوحان کی اولاد سے تھا) مسروق
 اور رفیق تھا (یہ دونوں بھی ابن عبدالرحمن کے غلام تھے) علی کے مصاحبین میں داخل
 ہونے کے بعد مسروق و رفیق کے نام بدل دئے گئے مسروق کو حمزہ کے نام سے
 موسوم کیا اور کنیت ابواحمد رکھی گئی اور رفیق کو جعفر کے نام سے نامزد کر کے کنیت

ابوالفضل رکھی گئی بعد اسکے روساء بلا لیا یہ وسعدیہ نے متفق ہو کے محمد بن رجا و عامل
بصرہ کو نکال دیا اور جیل کا دروازہ توڑ کے قیدیوں کو رہا کر دیا رفتہ رفتہ ان واقعات
کی خبر بغداد میں علی تک پہنچی ماہ رمضان ۲۵۵ھ میں بصرہ کی جانب مراجعت کی
یحییٰ بن محمد سلیمان بن جامع، مسروق اور رفیق اسکے ہمراہ تھے بصرہ پہنچنے کے بعد قرضی
میں اترے اور زنگی غلاموں کو آزاد کرنے کے وعدہ پر بلایا بات کی بات میں ایک جم غفیر
جمع ہو گیا۔ ایک پرچوش تقریر کے بعد ملک و مال دینے کا وعدہ کیا احسان اور حسن
سلوک کی قسم کھائی اور حریر کے ایک ٹکڑہ پر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم
واموالہم بان لہم الجنة تا آخر آیت لکھ کے راہیت بنایا اور ایک بلند مقام
پر نصب کر دیا زنگی غلاموں کے آقاؤں کا رنگ پتلا پڑ گیا ایک ایک دو دو کر کے علی
کے پاس آئے غلاموں کی بابت کہنے سننے کو آئے علی نے اشارہ کر دیا زنگی غلاموں
نے اپنے آقاؤں کو مارنا اور قید کرنا شروع کر دیا۔ شرفاء بصرہ یہ رنگ دیکھ کے دم بخود
ہو گئے اور علی نے ان لوگوں کو رہا کر دیا جن کو زنگی غلاموں نے قید کر دیا تھا۔ الغرض
یہ راہیت کامیابی کی ہو امیں برابر یوں ہی لہرا رہا تھا اور ہر چہاں طرف سے زنگی غلام
جو جو جوق اسکے نیچے آئے غلامی سے اپنے کو رہا کراتے جاتے تھے اور علی ان لوگوں
کو ہر وقت اپنے پرچوش تقریر سے ابھار رہا تھا اور ملک و مال کے حاصل کرنے کی رغبت
ولا رہا تھا۔ جس وقت ان لوگوں کا ایک خاصہ گروہ مجتمع ہو گیا وجہ کو نہر میمون کی طرف
عبور کیا اور حمیری کو وجہ سے نکال کے قبضہ کر لیا بعد ازاں ایلیہ کی طرف بڑھا ان دنوں
ایلیہ میں ابن ابی عون تھا چار ہزار فوج لے کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی بالآخر ابن عون
کو ہزیمت ہوئی علی کے ہمراہیوں نے بہت سامان و اسباب لوٹ لیا۔ پھر قادیسیہ
کا رخ کیا ہمراہیوں نے اسکے اشارہ سے قادیسیہ کو بھی تاشت و تاراج کیا۔ ان
واقعات سے اسکی قوت بڑھ گئی آلات حرب کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔ اہل بصرہ کا

ایک گروہ آئندہ خطرہ کا خیال کر کے اس سے لڑنے کو آیا اس نے یحییٰ بن محمد کو
 بسرافسری پانچ سو لشکر کے مقابلہ پر بھیجا یحییٰ نے پہلے ہی حملہ میں اہل بصرہ کو ہزیمت
 دیکے ان کے سامان جنگ اور آلات حرب کو چھین لیا بعد اسکے دوسرا چھتر تیسرا گروہ
 اہل بصرہ کا آیا اور وہ بھی نیچا دیکھ کے واپس گیا۔ بعد ازاں بصرہ کے دو نامی سپہ سالار
 خم کھٹونک کے میدان جنگ میں آئے اور شومی بخت سے ہزیمت کھا کے بھاگ کھڑے
 ہوئے سیکڑوں آدمی کام آگے ان کے ہمراہ رسد و غلہ اور سامان جنگ کی کشتیاں تھیں
 جو اسے مخالفت نے کنارہ پر پہنچا دیا علی کے ہمراہیوں نے جی کھول کے لوٹ لیا اور
 جن لوگوں کو اس پر پایا مار ڈالا۔ ان واقعات سے زنگی غلاموں کی جرأت بڑھ گئی بہت
 بات پر فتنہ و فساد برپا کرنے لگے اس اثناء میں انکے شور انگیز طوفان کے فرو کرنے کو
 دربار خلافت سے ابو ہلال قرظی چار ہزار کی جمعیت سے مامور کیا گیا نہر ریان پر
 صف آرائی ہوئی زنگی غلاموں نے اس کو بھی ہزیمت دیدی اسکے لشکر گاہ کو لوٹ
 لیا سیکڑوں آدمی پامال ہو گئے۔ بعد اسکے ابو منصور (یہ بنو ہاشم کا آزاد غلام تھا)
 ایک لشکر عظیم الشان لے کے زنگیوں کی گوشالی کو چلا اس لشکر میں متطوعہ (والغیر)
 کی بہت بڑی جماعت تھی بلالیہ اور سعدیہ کی فوجیں بھی شریک تھیں علی نے اس کے
 مقابلہ پر علی بن ابان کو متعین کیا ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے مدد بھیجی ہوئی علی بن
 ابان نے اسکو شکست فاش دی اور ایک گروہ کو گھاٹ پر بھیج دیا جہاں کہ تقریباً ایک ہزار
 کشتیاں لنگر انداز تھیں اہل کشتی زنگیوں کو آتے ہوئے دیکھ کے بھاگ گئے زنگیوں نے
 بلا جدال و قتال لوٹ لیا اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آگیا مسلح ہو کے خود میدان
 جنگ میں آیا زنگیوں نے نخلستان میں پرہ جہا ابان کے لشکر کے دو ٹکڑے کئے گئے
 ایک علی بن ابان کی ماتحتی میں اور دوسرا محمد بن مسلم کی ماتحتی میں جنگ کرنے کو بڑھا
 اتفاق یہ کہ ابو منصور کو ہزیمت ہوئی ایک گروہ کثیر معرکہ کارزار میں کام آگیا زنگیوں نے

ان کے مال و اسباب اور آلات حرب کو لے لیا۔ اطراف و جوانب کے دیہات اور
 قصبات پر قتل و غارت کا ہاتھ بڑھایا جس سے زنگیوں کو بہت بڑا تمول ہو گیا مال و
 اسباب سے مالا مال ہو گئے بعد ازاں علی نے بصرہ کا رخ کیا اثناء راہ میں لشکر بصرہ
 مقابلہ پر آیا اور زنگیوں سے شکست کھا کے بھاگ گیا اگلے دن بصرہ کے قریب پہونچے
 پڑاؤ کیا اہل بصرہ مجتمع ہوئے میدان جنگ میں آئے خشکی اور دریا سے حملہ کیا۔ زنگیوں نے
 اس معرکہ میں بھی ان کو ہزیمت دی اور بہت بڑی ہزیمت دی ہزار ہا آدمی کام آگے
 اہل بصرہ نے ان واقعات سے خلیفہ کو مطلع کیا اور بار خلافت سے جعلان ترکی اہل بصرہ
 کی کمک پر بھیجا گیا۔ ایلیہ پر ابوالاخص بابلی متعین کیا گیا اور ترکوں کا ایک عظیم الشان لشکر
 اسکے ہمراہ کیا گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ زنگیوں کے سردار نے اپنے ہمراہیوں کو واپس بائیں
 قتل و غارت کے لئے پھیلا دیا تھا۔ جعلان نے بصرہ کے قریب پہونچے زنگیوں کے
 لشکر سے ایک کوس کے فاصلہ پر مورچہ قائم کیا اور گر و خندق کھدوائی۔ چھ ماہ تک
 ٹھہرا ہوا زینی اور توباشم کو زنگیوں سے جنگ کرنے کو بھیجتا رہا ان لڑائیوں سے
 کوئی نتیجہ فریقین کے نفع و نقصان کا پیدا نہ ہوا۔ ایک روز زنگیوں نے جعلان کے
 لشکر پر شہون مارا اور حالت غفلت میں پہونچے ایک گروہ کثیر کو کاٹ ڈالا مجبور ہو کے
 جعلان نے مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ سے دست کش ہو کے بصرہ کو واپس آیا زنگیوں نے
 کامیابی کے ساتھ لشکر کو لوٹا کشتیوں کو تاخت و تاراج کیا اور کشتی والوں کو قتل
 کر ڈالا بے حد مال و اسباب ہاتھ آیا بعد اسکے قتل و غارت کرتے ہوئے ایلیہ کی طرف
 گئے اور آخری رجب ۲۵۲ھ میں بزور تیغ ایلیہ میں گھس کے اس کے گورنر ابوالانجو
 حیدر الدین حمید کو معہ ایک گروہ کثیر کے مار ڈالا آگ لگا دی ایلیہ جل کر خاک و سیاہ
 ہو گیا۔ اس واقعہ قیامت خیز کی خبر اہل عیاذان کو پہونچی تو ان لوگوں نے بخوف
 قتل و غارت امن کی درخواست کی زنگیوں نے ان کو امن دیدی اور جو کچھ وہاں

مال و اسباب، آلات حرب اور لونڈی غلام تھے غرض سب پر ابو اوزر تک قبضہ کر لیا انہوں
 ابو اوزر میں دیوان الخراج (محکمہ مال) کا افسر اعلیٰ ابراہیم بن مدبر تھا اہل ابو اوزر زنگیوں کے
 خوف سے بھاگ گئے زنگیوں نے ابو اوزر میں گھس کے خاطر خواہ لوٹا۔ اور ابراہیم بن
 مدبر کو گرفتار کر لیا۔ اہل بصرہ زنگیوں کے خوف سے شہر چھوڑ کے اطراف و جوانب
 بلاد میں پھلے گئے۔ خلیفہ معتد نے سعید بن صلح حاجب (لارڈ چیمبر لین) کو ۲۵۴ھ
 میں زنگیوں سے جنگ کرنے کو بھیجا پس اس نے سیاہ بخت زنگیوں کو ہزیمت دی
 اور جو کچھ ان کے پاس تھا لوٹ لیا۔ انھیں سیاہ بختوں کے پنجہ غضب میں ابراہیم
 ابن مدبر گرفتار تھا یحییٰ بن محمد بحرانی کا مکان اس کے لئے جیل بنایا گیا تھا دوسرا
 دیو اسکی محافظت و نگرانی پر مامور تھے ابن مدبر نے ان سے سازش کر کے ایک
 سڑک کھدوائی اور اس کی راہ سے نکل کے اپنے اہل و عیال سے جا ملا۔

مہدی کی معزولی | اوایل رجب ۲۵۴ھ میں ان ترکوں نے جن کا ذکر اوپر
 معتد کی خلافت ہو چکا ہے اور جو کرخ اور شاہی مکانات کی محافظت

پر مامور تھے تنخواہ اور روزیے کے مانگنے کا حیلہ کر کے پھر ایک ہنگامہ برپا کیا خلیفہ
 مہدی نے اپنے بھائی ابوالقاسم اور کینغ کے ترکوں وغیرہما کو ترکوں کے پاس بھیجا
 ابوالقاسم اور کینغ کے سمجھانے سے شورش فرو ہو گئی اپنے اپنے مکانات اور قورگا
 پر واپس آئے کسی نے ابوالقاسم محمد بن بغا تک یہ خبر پہنچا دی کہ خلیفہ مہدی نے ترکوں
 سے یہ کہہ دیا ہے کہ کل مال و خزانہ محمد و موسیٰ پسران بغا کے قبضہ میں ہے۔ محمد بن
 بغا اپنے بھائی کے پاس سن بھاگ گیا اس کا بھائی سن میں مساور خارجی سے لایا
 تھا خلیفہ مہدی نے محمد بن بغا کو طلبی کے بعد خطوط لکھے امن دی محمد بن بغا
 اپنے بھائی مشون اور کینغ کے واپس آیا خلیفہ مہدی نے اسکو گرفتار کر کے قید کر دیا
 اور پندرہ ہزار دینار اسکے وکیل سے وصول کر کے اسکو قتل کر ڈالا۔

یہ واقعہ تیسری رجب ۲۵۴ھ کا ہے۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۵۰۔

جن دونوں محمد بن بغا قید میں تھا انھیں ایام میں خلیفہ ہمتی نے ایک فرمان بتام
 موسیٰ بن بغا باکیال کی معرفت روانہ کیا اس مضمون کا کہ لشکر اسلام کا چارج باکیال
 کو دیکے تم دار الخلافت میں چلے آؤ اور وقت روانگی باکیال کو یہ ہدایت کر دی کہ لشکر
 اسلام کا چارج لینے کے بعد مسابور خارجی سے جنگ کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور موسیٰ
 بن بغا اور مفلح کو کسی حیلہ سے موقع پاس کے مار ڈالنا۔ باکیال نے موسیٰ کے پاس پہنچنے
 خلیفہ ہمتی کا فرمان پڑھا ہنوز موسیٰ کچھ جواب نہ دینے پایا تھا کہ باکیال نے اپنی
 روانگی اور محمد بن بغا کی گرفتاری و قید اور خلیفہ ہمتی کی خفیہ ہدایت کا حال لفظ بلفظ
 کہہ دیا موسیٰ اور مفلح کے طائر ہوش یہ سن کے اڑ گئے آپس میں مشورہ کرنے لگے بالآخر
 یہ رائے قرار پائی کہ باکیال دار الخلافت واپس جائے اور خلیفہ ہمتی کے قتل کرنے
 کی صورتیں اور تدابیر پیدا کرے چنانچہ باکیال معہ یار جوج، اساتکین اور سیاطویل
 کے نصف رجب سنہ مذکور میں دار الخلافت واپس آیا۔ خلیفہ ہمتی نے باکیال
 کو گرفتار کر کے قید کر دیا باکیال کے ہمراہ بیوی اور ترکوں نے مجتمع ہو کے اسی بناء
 پر بلوہ کر دیا خلیفہ ہمتی کے پاس اس وقت صالح بن علی بن یعقوب بن منصور بیٹھا
 ہوا تھا خلیفہ ہمتی نے صالح سے رائے طلب کی صلح سے ترکوں کے قتل اور پائیال
 کرنے کی رائے دی خلیفہ ہمتی جوش شجاعت میں آ کے اٹھ کھڑا ہوا ترکوں، فراعنہ
 اور مغارہ فوجوں کو طیاری کا حکم دیا اور بقصد جنگ مسلح ہو کے نکلا۔ بیمنہ میں مسور بلخی
 تھا، بیسره میں یار کوج اور خود بدولت معہ اساتکین وغیرہ سپہ سالاران لشکر کے قلب
 میں تھا۔ رعب و داب دکھانے کی غرض سے باکیال کے قتل کا حکم صادر کیا عتا
 بن عتاب نے اس کا سر اتار کے ترکوں کے روبرو پھینک دیا۔ بجائے مرعوب ہونیکے
 ترکوں کو اس سے حد درجہ کا اشتعال پیدا ہوا طرہ اس پر یہ ہوا کہ جس قدر ترکی
 فوجیں اسکے بیمنہ و بیسره میں تھیں وہ باکیال کے قتل سے بگڑ کے بلوائیوں سے

جا میں باقی لشکر وقت مقابلہ شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوا تھا خلیفہ ہندی کیا کرتا شمشیر بکبت لڑتا ہوا بھاگا جاتا تھا اور چیخ چیخ کر پکار رہا تھا "یا معشر المسلمین انا امیر المؤمنین قاتلوا عن خلیفتکم" (اے گروہ مسلمانان میں امیر المؤمنین ہوں کہاں بھاگے جاتے ہو اپنے خلیفہ کی طرف سے لڑو) مگر کوئی جواب نہ دیتا تھا بلکہ پرہونچا اس خیال سے کہ شاید رہائی پائے کہ بعد قیدی پیری طرف سے لڑیں جیل کا دروازہ کھول دیا اور انکی ہتکڑیاں بیڑیاں کاٹ دیں قیدیوں میں سے کسی نے اسکے خیال کی تائید نہ کی رہائی پاتے ہی ہر ہو گئے۔ مجبور ہو کے احمد بن جمیل افسر پولیس کے مکان میں جا چھپا بلوائیوں نے پوچھے دروازے توڑ ڈالے نکال لاسے ایک چمپر پر سوار کر کے جو سو ق میں لاسے اور احمد بن خاقان کے پاس نظر بند کر دیا۔ بعد اسکے بلوائیوں میں خلیفہ ہندی کے معزول کرنے کا مشورہ ہونے لگا خلیفہ ہندی نے اس سے انکار کیا بلکہ بجائے معزولی کے مرتبے پر آناو کی ظاہر کی بلوائیوں نے ایک خط جو موسیٰ بن بجا، بابکیاں اور دیگر سپہ سالاران لشکر کے نام تھا دکھلایا خط خاص اسکے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا مضمون خط یہ تھا کہ نامبروگان کے ساتھ کبھی ہندی نہ کی جائے گی اور نہ کبھی ان لوگوں کو دھوکا دیا جائے گا نہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی کی جاں چلی جائے گی اور نہ ان لوگوں کے قتل کا حیلہ ڈھونڈھا جائیگا اور حب کوئی فعل اس قسم کا کیا جائے تو یہ لوگ بسا و چاہیں خلیفہ بنائیں میرے بیعت کی پابندی ان پر ضروری نہیں ہے "خلیفہ ہندی یہ خط دیکھ کے خاموش ہو رہا اور ان لوگوں نے غریب خلیفہ ہندی کے قتل کو مہلح تصور کر کے خلیفہ ہندی کا کام تمام کر دیا۔

سہ خلیفہ ہندی باللہ خلفاء عباسیہ میں نہایت دیندار، منصف مزاج، اور لباس و ریح و تقویٰ سے آراستہ تھا اس نے لہو و لعب، لیل و رنگ، گانا بجانا اور شراب کی مانعت کر دی تھی اراکین سلطنت کو ظلمت سے روکا تھا گیارہ مہینے ہندوستان میں خلافت کی اڑتالیس مرحلے عمر کے طے کئے تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۷ صفحہ ۱۰۹۔

روایت متذکرہ بالا کے علاوہ مورخین نے خلیفہ ہندی کے معزول ہونے کی یہ روایت بھی کی ہے کہ کرخ اور مکانات شاہی کے ترکوں نے خلیفہ ہندی کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض و معروض کرنے کی اجازت چاہی خلیفہ ہندی نے حاضر کی اجازت دی محمد بن بغا اور بار خلافت سے اٹھ کے محمدیہ کی طرف چلا گیا ترک چار ہزار کی جمعیت سے دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ موجودہ سپہ سالاران لشکر معزول کروئے جائیں۔ ان سے حساب نہی کی جائے اور عہدہ ہائے جلیلہ پر خاندان خلافت کے ممبر مقرر کئے جائیں۔ خلیفہ ہندی نے اس درخواست کی منظوری کا وعدہ کیا اپنے اپنے فرودگاہ پر واپس آئے صبح ہوئی تو یہ لوگ ایفادہ وعدہ کے خواستگار ہوئے خلیفہ ہندی نے معذرت کی کہ بالفعل بچند وجوہ ان وعدوں کا ایفاء نہیں ہو سکتا ہاں آہستہ آہستہ تمہاری خواہش کے مطابق کل کام انجام دئے جائیں گے ترکوں نے نہ مانا خلیفہ ہندی نے ارشاد کیا ”اچھا تم لوگ بجاعت اقرار کرو کہ ہمیشہ تم اپنے اس قول پر قائم رہو گے اور جس سے امیر المؤمنین لڑیں گے اس سے لڑو گے“ ترکوں نے قسمیں کھا کے اس امر کا عہد و پیمان کیا۔ بعد اسکے اپنے اور خلیفہ ہندی کی جانب سے محمد بن بغا کو خط لکھا جس میں اس کو دربار خلافت سے چلے جانے پر ملامت کی اور یہ بھی لکھا کہ ہم کو اپنا حال عرض کرنے کو آئے تھے مکان خالی پا کے قیام کرو یا۔ محمد بن بغا اس خط کو دیکھ کے واپس آیا ان لوگوں نے محمد کو گرفتار کر کے قید کرویا بعد اسکے موسیٰ بن بغا اور مفلح کو طلبی کا خط لکھا اور یہ بھی تحریر کیا کہ لشکر اسلام کا قلاں شخص کو (جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) چارج دید اور خفیہ طور سے چند لوگوں کو جبکہ وہ لوگ اس حکم کی تعمیل نہ کریں ان کی گرفتار کر لانے کی ہدایت کر دی۔ جس وقت یہ خط موسیٰ اور اس کے ہمراہیوں کے روبرو پڑھا گیا سمجھوں نے اسکی تعمیل سے انکار کر کے بالاتفاق سامرا کی جانب کوچ کرویا خلیفہ ہندی نے بقصد جنگ لشکر مرتب کیا فریقین میں کاغذی گھوڑے دوڑنے

لگے موسیٰ کے ہمراہی اس امر کے خواستگار تھے کہ موسیٰ کو کسی صوبہ کی گورنری دی جائے تاکہ موسیٰ اس صوبہ کے طرف واپس جائے اور خلیفہ ہندی کے مصاحبوں کا یہ منشا تھا کہ موسیٰ دربار خلافت میں حاضر ہو کے مال و خزانہ کا حساب سمجھائے دونوں فریق کسی آپہ متفق نہ ہوئے یہاں تک کہ موسیٰ کے بہت سے ہمراہی موسیٰ سے علیحدہ ہو گئے مجبوراً موسیٰ اور مفلح نے خراسان کا قصد کیا اور بالکیال معاہدہ ایک گروہ سپہ سالاران لشکر کے خلیفہ ہندی سے آغا خلیفہ ہندی نے چونکہ پہلے یہ مخالف تھا قتل کروا لائے تو اس سے ایک خفیہ سی حرکت پیدا ہوئی مگر کسی سے کچھ چھپا نہ گیا بعد ازاں ترکوں کو فراغ اور مغارہ کا ہم پلہ وہم جنب سمجھا جانا گوار گزارا مکانات شاہی سے ان لوگوں کے نکال دینے کا قصد کیا خلیفہ ہندی نے ممانعت کی ترکوں کو ایک خاصہ حلیہ ہاتھ آگیا بالکیال کے معاوضہ خون کے بہانہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ خلیفہ ہندی اس طوفان بے تمیزی کے فرو کرنے کو سوار ہوا اسکے رکاب میں چھ ہزار فوج فراعنہ اور مغارہ کی تھی اور تقریباً ایک ہزار ترک بھی تھے جو صلاح بن وصیف کے ہمراہیوں سے تھے یہ خبر ملنے ترکوں نے بھی مجمع کیا دس ہزار کی جمعیت سے مقابلہ پر آئے خلیفہ ہندی کو ہزیمت ہوئی اور وہی واقعات پیش آئے جن کو تم ابھی اوپر پڑھ آئے ہو۔

اس واقعہ کے بعد ابو العباس احمد بن متوکل جو کہ جو سوق میں قید تھا حاضر کیا گیا حاضرین نے خلافت کی بیعت کی۔ ترکوں نے موسیٰ بن بعا کو یہ واقعات لکھ بھیجے یہ اس وقت خاندقین میں تھا پس اس نے بھی حاضر ہو کے بیعت کی۔ الغرض تکسین بیعت اور تخت نشین کے بعد احمد بن متوکل کو محمد علی اللہ کا مبارک لقب دیا گیا۔

خلیفہ معتد کے سریر خلافت پر رونق افروز ہونے کے بعد عبید اللہ بن محمد بن خاقان کو عہدہ وزارت دیا گیا بیعت کے دو مہینے دن نصف رجب ۲۵۹ھ کے صبح کو خلیفہ ہندی کو مردہ پایا جبکہ اپنی خلافت کا پہلا سال تمام کر رہا تھا ۲۶۳ھ میں عبید اللہ

بن یحییٰ امیران میں گھوڑے سے گر کے مر گیا سر میں سخت چوٹ آئی سارا دماغ نکتھوں سے
 بہ گیا خلیفہ معتد نے قلمدان وزارت محمد بن مخلد کے سپرد کیا بعد چندے اس سے اور موسیٰ
 بن بغا سے ان بن ہو گئی خلیفہ معتد نے موسیٰ بن بغا کی ناراضی کی وجہ سے اس کو معزول کر کے
 سلیمان بن وہب کو عہدہ وزارت سے ممتاز فرمایا پھر اس کو بھی معزول کر کے قید کر دیا حسن
 بن مخلد کو وزارت دی گئی۔ موفیٰ کو سلیمان بن وہب کے قید کر دینے سے سو مزاجی پیدا
 ہوئی بغداد کی غزلی جانب صف آرائی کی فریقین میں خط و کتابت شروع ہوئی آخر الامر
 دونوں میں مصالحت ہو گئی۔ ابن وہب رہا کر دیا گیا یہ واقعہ ۲۶۱۲ھ کا ہے۔

مصر و کوفہ میں | ۲۵۴ھ میں ابراہیم بن محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن حنفیہ مرو
 علویہ کا ظہور | یہ ابن صوفی مصر میں ظاہر ہوا آل محمد کی حمایت کی لوگوں کو دعوت

دینے لگا بلا و سعید کے چند قصبات پر قابض و متصرف ہو گیا احمد بن طولون نے ایک
 لشکر مصر سے روانہ کیا ابن صوفی نے اس کو ہزیمت دیکے اسکے سپہ سالار کو قتل کر ڈالا۔
 دوسرا لشکر آیا مقام انیم میں صف آرائی ہوئی ابن صوفی کو اس معرکہ میں ہزیمت ہوئی
 بھاگ کر الواحات میں دم لیا اور لشکر کی فراہمی کی کوشش کرنے لگا گھوڑے دونوں میں
 ایک لشکر فراہم ہو گیا مرتب و مسلح ہو کے اشمونین کی جانب کوچ کیا ابو عبدالرحمن عمری
 (یعنی عبدالمجید بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمر) سے مدد بھیڑ ہو گئی۔

چونکہ بجاۃ آسے دن بلا و اسلامیہ پر چڑھائی کرتے تھے اور سرحدی مسلمانوں کو
 خاطر سے نہیں رہنے دیتے تھے اس وجہ سے ابو عبدالرحمن عمری نے اپنے کو جنگ بجاۃ اور
 ان کے ملک پر جہاد کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اسی ہمدردی اور حمیت اسلامی سے
 اس کی شان و شوکت بڑھ گئی اس اطراف میں اسکے قبعین کثرت سے تھے۔ احمد بن طولون
 نے یہ خبر پا کے ایک لشکر ابو عبدالرحمن کی طرف روانہ کیا ابو عبدالرحمن نے امیر لشکر سے
 معذرت کی کہ میں نے فتنہ و فساد برپا کرنے کی غرض سے خروج نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی

اذیت اور تکلیف دفع کرنے کے قصد سے کمر بہت باندھی ہے ابن طولون میری حالت سے واقف نہیں ہے تم جا کے اس سے میری حالت بیان کرو اگر وہ تمکو واپس بلا لے تو بہاؤرنہ تم لوگ معذور سمجھے جاؤ گے امیر لشکر نے اس معذرت پر توجہ نہ کی صفت آرائی کر کے بھڑ گیا ابو عبد الرحمن نے اسکو شکست دی بھاگ کر اسوان پہنچا۔ احمد ابن طولون کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی امیر لشکر سے سخت ناراض ہوا اور ابو عبد الرحمن کو اسکی حالت پر چھوڑ دیا چنانچہ ابو عبد الرحمن نے بزور تیغ بجاۃ کو جزیرہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ممتا م اشمونین میں جہاں کہ تم ابھی سیر کر رہے تھے علوی اور عمری سپہ سالاروں سے جنگ ہونے والی تھی اپنے اپنے لشکروں کو لئے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑا ہوا تھا دونوں حریت جنگ پر تلے ہوئے تھے مگر تم عمری کی سوانح سننے میں ایسے مصروف ہوئے کہ تم کو خبر تک نہ ہوئی عمری نے متعدد لڑائیوں کے بعد علوی دلاور (ابن صوفی) کو شکست دی جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو گیا ابن صوفی بھاگ کے اسوان پہنچا اطراف و جوانب پر قتل و غارت کا ہاتھ بڑھایا احمد ابن طولون نے مصر سے ایک لشکر جرار روانہ کیا ابن صوفی اس سے مطلع ہو کے عیذاب کی جانب بھاگا اور یا عبور کر کے مکہ معظمہ پہنچا ہمراہی تتر بتر ہو گئے والی مکہ نے ابن صوفی کو گرفتار کر کے احمد بن طولون کے پاس بھیج دیا ایک مدت تک جیل میں رہا بعد ازاں رہا کر دیا گیا مدینہ منورہ چلا آیا اور اسی سرزمین پاک میں جان بحق تسلیم کی۔

اسی ۲۵۶ھ میں علی بن زید علوی نے کوفہ میں دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالفت بلند کیا اور کوفہ پر قبضہ حاصل کر کے گورنر کوفہ کو نکال دیا خلیفہ معتز نے شاہ بن میکال کو روانہ کیا علی بن زید نے پہلے ہی معرکہ میں شاہ بن میکال کو ہزیمت دیکے اس کے بہت سے ہمراہیوں کو مار ڈالا تب خلیفہ معتز نے کیمجور ترکی کو جنگ علی بن زید پر متعین فرمایا علی بن زید یہ خبر پاک کے کوفہ سے قادسیہ چلا آیا کیمجور نے پہلی شوال ۲۵۶ھ میں

کوفہ پر قبضہ کر لیا اور علی بن زید بلاذنی اسدین مقیم رہا بعد چندے آخر ذی حجہ سنہ مذکور میں
 کیجور ترکی نے دوبارہ علی بن زید پر چڑھائی کی لڑائی ہوئی علی بن زید کے بہت سے ہمراہی
 مارے اور قید کر لئے گئے چنانچہ جنگ کے بعد کیجور کوفہ لوٹ آیا پھر کوفہ سے بلا اجازت خلیفہ
 سرمن راسے چلا گیا اور وہیں ٹھہرا ہاتا آنکہ خلیفہ معتد نے ۲۵ھ میں ایک لشکر معہ چند
 سپہ سالاروں کے روانہ کیا مقام عکبر میں ان لوگوں نے اسکو مار ڈالا جس سے اسکی
 ساری امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔

بعضوں کا بیان ہے کہ زنگیوں کے سردار کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے اُس کو
 ۲۶ھ میں قتل کر ڈالا۔

اسی سنہ میں حسین بن زید طالبی نے زب پر قبضہ کر لیا تھا اور موسیٰ بن بغا اُس کے
 جنگ کرنے کو روانہ کیا گیا تھا۔

ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے سعید بن صالح حاجب کو
 زنگیوں کے بقیہ حالات

زنگیوں کی گوشمالی پر متعین کیا تھا چنانچہ سعید نے میدان جنگ
 میں پہنچنے زنگیوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں اُن کو میدان جنگ سے بھگا دیا پھر
 دوبارہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے اور مجتمع ہو کے لڑنے کو آئے سعید کو اس محرمہ
 میں ناکامی ہوئی اسکے اکثر ہمراہی کام آگے لشکر گاہ جلا دیا گیا غایب و غاسر لوٹ
 سکے سامرا آیا خلیفہ معتد نے جعفر بن منصور خیاط کو متعین فرمایا جعفر نے پہلے کشتیوں کی
 آمد و رفت بند کر دی جس سے زنگیوں کی رسد بند ہو گئی بعد ازاں براہ دریا زنگیوں کے
 جنگ کرنے کو روانہ ہوا مگر اُن سے شکست کھا کے بحرین چلا آیا۔ زنگیوں کے سردار
 نے اپنے سپہ سالاروں میں سے علی بن ابان کو ایک کے پل توڑنے کو روانہ کیا ابان
 بن سہاسے جبکہ وہ فارس سے واپس آ رہا تھا مقابلہ ہو گیا ابان نے علی بن ابان
 کے لشکر پر حملہ کر دیا علی بن ابان زخمی ہوا اور بہت سے اسکے ہمراہی مارے گئے ختم

جنگ پر ابراہیم نہر جی کی طرف روانہ ہوا اور اپنے کاتب (سیکرٹری) شاہین بن بسطام کو علی بن ابان کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ تھوڑی دور تعاقب کر کے دوسری راہ سے نہر جی پر آ کے لجانا۔ علی بن ابان کو اس کی خبر لگ گئی طیار ہو کے حالت غفلت میں عصر کے وقت شاہین کے لشکر پر جا پڑا ایک گروہ کثیر کام آگیا شاہین اور اس کا چچا زاد بھائی مار ڈالا گیا۔ جوں ہی علی بن ابان جنگ شاہین سے فارغ ہوا ایک مخبر نے ابراہیم بن سیا کے قریب آ جانے کی خبر کر دی اسی وقت علی بن ابان نے اپنے ہمراہیوں کو مرتب کر لیا عشاء کے وقت بڈ بھیر ہو گئی ایک سخت اور بڑی خونریز جنگ کے بعد علی بن ابان نہر جی کی جانب واپس آیا۔

جس وقت سے منصور بن جعفر دریا میں زنگیوں سے شکست کھا کے واپس آیا تھا زنگیوں کے مقابلہ پر جانے سے جی چراتا تھا کشتیوں کی اصلاح، خندق کھودنے اور سورج کے قائم کرنے پر اکتفا کر رہا تھا اس اثناء میں علی بن ابان نے اسپر محاصرہ ڈالنے کی غرض سے بصرہ پر چڑھائی کر دی اور اہل شہر کو اپنی روزانہ لڑائیوں اور چھپر چھپاڑ سے تنگ کرنے لگا گرد و نواح کے بادیہ نشینان عرب کو سمجھا بچھا کے اپنا ہمسفر بنا لیا انکا ایک گروہ کثیر اس سے آٹھ اس نے ان لوگوں کو بصرہ کے ہر چار طرف پھیلا دیا دور و نزدیک برابر لڑتا رہا بالآخر نصف شوال ۳۵ھ میں بصرہ کو بزور تیغ فتح کر لیا نہایت بے رحمی سے اہل بصرہ کو قتل و غارت کر کے واپس آیا اسپر بھی اس کے بے رحم دل کو تسکین نہ ہوئی دو بارہ سے بارہ قتل و غارت کرتا ہوا بصرہ میں گیا تا آنکہ اہل بصرہ نے امان طلب کی علی بن ابان نے امان دیکھے ان لوگوں کو دارالامارت کے ایک مکان میں مجتمع ہونے کا حکم دیا جب وہ مجتمع ہو گئے تو اس نے ان سبھوں کو قتل کر ڈالا جامع مسجد اور اکثر محلات بصرہ میں آگ لگا دی۔ آتش زنی کی اس قدر وسعت ہوئی کہ بصرہ میں اس سر سے اس سر تک آگ ہی آگ کے شعلہ دکھائی دیتے تھے ٹوٹے

مارکی کوئی مدد نہ تھی اہل بصرہ جہاں نظر پڑتے مار ڈالے جاتے تھے چند دنوں تک یہی حالت قائم رہی بالآخر الامان الامان کی منادی کرادی چونکہ اہل بصرہ اس سے پیشتر ایک بار دھوکا کھا چکے تھے کوئی متنفس باہر نہ نکلا رفتہ رفتہ اسکی خیر خبیت (زنکیوں کے سردار) تک پہنچی علی بن ابان کو معزول کر کے یحییٰ بن محمد بخرانی کو مامور کیا۔

جنگ مولد جسوقت زنکیوں نے بصرہ میں داخل ہو کے ویران و خراب کر دیا

خلیفہ معتمد نے محمد معروف بہ مولد کو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ بصرہ کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا چنانچہ مولد روانہ ہو کے ایلہ پہنچا اور پھر ایلہ سے کوچ کر کے بصرہ میں داخل ہوا اہل بصرہ اسکے پاس آ کے مجتمع ہوئے زنکیوں کے ظلم و جور کی شکایت کی مولد نے انکو اور نیز اپنے لشکر کو مرتب کر کے زنکیوں پر دھاوا کر دیا زنگی بصرہ سے نکل کے نہر معقل کی طرف چلے آئے خبیت (زنکیوں کے سردار) نے اپنے سپہ سالار یحییٰ بن محمد کو جنگ مولد پر روانہ کیا دس روز تک لڑائی ہوتی رہی کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا تب خبیت نے ابولیت اصفہانی کو یحییٰ بن محمد کی کمک پر بھیجا اور حالت غفلت میں شیخون مارنے کی ہدایت کی چنانچہ ابولیت اور یحییٰ بن محمد نے مولد کے لشکر پر شیخون مارا تمام رات اور پھر صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی مغرب کے وقت مولد کی فوج میدان جنگ سے گھونگھٹ کھا گئی زنکیوں نے اسکے لشکر گاہ کو لوٹ لیا یحییٰ نے جانہ تک منہزم گروہ کا تقاب کیا اثنائے تقاب میں جسکو پایا گرفتار کر لیا جو کچھ بلا لوٹ لیا قرب و جوار کے قصبات اور دیہات کو تاخت و تاراج کر دیا۔ غرض جہاں تک ان کی قوت تھی اسکو ان لوگوں نے قتل و خونریزی اور غارت میں صرف کیا اور خاتمہ جنگ کے بعد نہر معقل کی جانب واپس آئے۔

قتل منصور جس وقت زنکیوں کو ہم بصرہ سے فراغت حاصل ہوئی علی بن ابان نے نہر جی کا رخ کیا ابوازمین ان دنوں منصور بن جعفر خیاط گورنر تھا خلیفہ معتمد نے

اس کو زنگیوں کی لڑائی کے بعد جو بحرین میں ہوئی تھی ابو اوز کی گورنری پر مامور کیا جھٹا چنانچہ منصور نے ابو اوز میں پہونچنے کے نہر جی پر قیام کیا اس عرصہ میں زنگیوں کا نامی سپہ سالار علی ابن ابان آپہونچا اس کے بعد ہی ابولیت اصفہانی براہ دریا اسکی کمک پر آگیا اور بلا حکم و اجازت علی منصور کے لشکر پر حملہ کر دیا اتفاق یہ کہ منصور کے لشکر کو فتحیابی حاصل ہو گئی ابولیت کے ہمراہیوں کا اکثر حصہ اس معرکہ میں کام آگیا محدود سے چند بھاگ کے خبیثت کے پاس پہونچے بعد اسکے علی بن ابان اور منصور سے معرکہ آرائی ہوئی ظہر کے وقت سے مغرب تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر منصور کے لشکر کو ہزیمت ہوئی زنگیوں نے تعاقب کیا منصور اس خیال سے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں نہ میں کو د پڑا شیر نہ سکا ڈوب گیا۔

بعضوں کا بیان ہے کہ ایک زنگی سپاہی نے جبکہ منصور نہر میں کو د پڑا تھا پانی میں کو د کے منصور کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اسکا بھائی خلف بن جعفر بھی مار ڈالا گیا۔ یار جوح نے سپہ سالاران ترک سے بجائے منصور کے صدیقین کو متعین کیا۔

جنگ موفق | ابو احمد موفق (خلیفہ معتز علی المد کا بھائی) مکہ معظمہ کی گورنری پر تھا۔ جس وقت زنگیوں نے آتش فساد مشتعل کی خلیفہ معتز نے مکہ معظمہ سے طالب کے کوفہ، حرین، راہ مکہ اور یمن کی حکومت عنایت کی بعد چند سے بغداد، سواد، و اسطہ، کوردجلہ، بصرہ اور ابو اوز کی سند گورنری بھی دیدی اور یہ ہدایت کی کہ اپنی جانب سے یار جوح کو بصرہ، کوردجلہ، یامہ اور بحرین پر مقرر کر دو چنانچہ یار جوح نے اپنی تقرری کے بعد ان بلاد سعید بن صالح کو بطور اپنے نائب کے مقرر کیا۔ جب صالح کو زنگیوں کے مقابلہ میں ہزیمت ہوئی تو یار جوح نے بصرہ، کوردجلہ اور ابو اوز بجائے اس کے منصور کو متعین کیا اور جب منصور انہیں لڑائیوں میں مارا گیا جیسا کہ تم اوپر پڑھ لکھے ہو تو خلیفہ معتز نے اپنے بھائی ابو احمد موفق کو مصر، قنسرين اور عواصم کی گورنری عطا

فرمانی۔ مفلح کو خلعت فاخرہ دی گئی۔ یہ واقعہ ۲۵۸ھ کا ہے۔ اور ان دونوں کو زنگیوں کے مقابلہ پر جانے کا حکم دیا۔ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ یہ دونوں سردار روانہ ہوئے۔ فلیف معتمد اپنے بھائی کی مشابعت کو ایک منزل تک آیا۔

اس وقت علی بن ابان نہریجی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یحییٰ بن محمد بخرانی نہر عباس پر پڑا تھا اور غلبیت (زنگیوں کا سردار) معہ اپنے ہمراہیوں اور معدودے چند سپاہیوں کے لوٹ کے مال و اسباب کے لانے کی غرض سے بصرہ تک آ جا رہا تھا۔ پس جس وقت موفق نے نہر موصل پر پہنچنے پر پڑاؤ کیا زنگیوں کا لشکر مرعوب ہو کے اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ زنگیوں کے سردار نے علی بن ابان کو موفق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مفلح سے ڈبھیر ہو گئی جو موفق کے مقدمتہ الجیش پر تھا گھمسا م لڑائی ہونے لگی۔ اثناء جنگ میں مفلح کو ایک تیرا لگا جس کے صدمہ سے اسی وقت وہ تڑپ کے مر گیا اسکا مارا جانا تھا کہ لشکر بھاگ کھڑا ہوا بہت سے ہمراہی گرفتار کر لئے گئے۔

اس واقعہ سے موفق کو فراہمی اور ترتیب لشکر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مفلح کے مارے جانے سے بھجوری میدان جنگ سے ایلہ کی جانب چلا آیا نہر اسد پر قیام کر کے درستی فوج میں مصروف ہوا۔ سوہ اتفاق سے لشکر میں وبا پھوٹ نکلی اکثر ہمراہی بیمار ہو گئے اور بعض بعض مر بھی گئے۔ نہر اسد سے کوچ کر کے باور و چلا آیا آلات حرب سامان جنگ اورستی بیڑہ جہازات اور ترتیب لشکر میں مشغول ہو گیا جب اس طرف سے ایک گونہ اسکو اطمینان ہو گیا تو غلبیت کے لشکر پر جا پڑا یہ لڑائی نہر ابو خصیب پر ہوئی۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک اور خونریز تھا اس معرکہ میں زنگیوں کا ایک گروہ کثیر مار ڈالا گیا بہت سی عورتیں جنگوان سیاہ بختوں نے گرفتار کر لیا تھا چھڑالی گئیں۔ اختتام جنگ پر ابو احمد اپنے لشکر گاہ باور و میں واپس آیا باور و میں آنے کے ساتھ ہی لشکر گاہ میں آگ لگ گئی فوراً واسط کی جانب کوچ کر دیا واسط پہنچنے آرام

وآسائش کی غرض سے اس کے اکثر ہمراہی اس سے جدا ہو گئے اس نے بھی واسطہ میں محمد بن مولد کو بجا سے اپنے چھوڑ کے سامرا کی طرف مراجعت کر دی۔

قتل بحرانی جس وقت اصطیخوڑ بعد منصور خیاط گورنر ہوا زہور کے آیا اور جب کہ موفق زنگیوں کی طرف بقصد جنگ جا رہا تھا یہ خبر لگی کہ یحییٰ بن محمد زنگیوں کا نامور سپہ سالار نہر عباس کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اسی وقت اصطیخوڑ نے اپنی فوج کو آراستہ کر کے کوچ کر دیا نہر عباس پر یحییٰ بن محمد سے ڈبھیر ہو گئی یحییٰ نے اپنے لشکر کو دو حصوں پر تقسیم کیا ایک حصہ کو اصطیخوڑ کے مقابلہ پر چھوڑا دوسرے حصہ کے ساتھ نہر عبور کر کے ان کشتیوں پر جا پڑا جو اصطیخوڑ کے ساتھ رسد لے کے آئی تھیں اور ان کو لوٹ لیا شام کے وقت اپنے پتروں کو دبلہ کی جانب روانہ کیا موفق کے لشکر سے جو نہر سرد کی طرف بڑھ رہا تھا دو چار ہو گیا دو دو ہاتھ لڑ کے بھاگ کھڑا ہوا موفق کے مقدر تیشہ نے تعاقب کیا ہزیمت خور وہ گروہ نے گیر و وار کی گھبراہٹ میں جس طرف نہر یحییٰ تھا عبور نہ کیا بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور فتح مند گروہ جو اس کے تعاقب میں تھا یحییٰ سے آگے ڈبھیر ہو گیا اس وقت یحییٰ کے ساتھ معدودے چند آدمی تھے تھوڑی دیر لڑ کے شکست کھا کے بھاگے یحییٰ زخمی ہو کے ایک کشتی میں جا چھپا موفق کے مقدر تہ الجیش نے زنگیوں کے مال غنیمت اور کشتیوں کو لوٹ لیا اور بعض کو بلا کے خاک و سیاہ کر دیا۔ اہل کشتی نے شاہی سطوت سے خوف کھا کر یحییٰ کو ایک گھاٹ پر بجا کے اتار دیا گھاٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گائوں تھا یحییٰ بحال پریشان اس گائوں میں پہنچا زخموں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تھی لہذا علاج ایک طبیب سے رجوع کیا۔ طبیب کو اسکے رنگ و ڈھنگ سے شبہ پیدا ہوا ابو احمد کے ہمراہیوں سے بجا کے اسکی خبر کر دی ابو احمد نے اسکو گرفتار کر کے سامرا بھیج دیا۔ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے بعد ازاں مار ڈالا گیا۔

قبضہ اہواز زنگیوں کو اس سانحہ قیامت خیز سے سخت صدمہ ہوا ۲۵۹ھ میں

غلبت نے اپنے نامی سپہ سالاروں سے علی ابن ابان اور سلیمان بن موسیٰ شعرانی کو اہواز کی جانب روانہ کیا اور اس لشکر کو بھی انکی فوج میں شامل کر دیا جو یحییٰ بن محمد بن ابان کے رکاب میں تھا مقام شتیبسان میں اصطیخور سے مقابلہ ہوا زنگیوں نے جی توڑ کے حملہ کیا اصطیخور کو ہزیمت ہوئی اثنانگیر و دار میں اصطیخور مارا گیا ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کے نذر ہو گیا حسن بن ہرثمہ، حسن بن جعفر وغیرہا گرفتار کر لئے گئے۔ فتح مند گروہ کامیابی کے ساتھ اہواز میں داخل ہوا ایک مدت تک اطراف و جوانب اہواز میں لوٹ مار کرتا رہا دن دہار سے جس کو پایا لوٹ لیا تا آنکہ موسیٰ بن بعاث کے مقابلہ پر آیا۔

جنگ ابن بعاث جب زنگیوں نے ۲۵۹ھ میں اہواز پر قبضہ کر لیا اس وقت خلیفہ

مستعد نے ان سے جنگ کرنے کو موسیٰ بن بعاث کو لوہا جنگ عنایت فرما کے متعین کیا۔ موسیٰ بن بعاث نے اہواز پر عبدالرحمن بن مفلح کو، بصرہ پر اسحاق بن کنداجیق کو اور باور و دیر پر ابراہیم بن سیماکو مقرر کر کے ہر جہلہ طرف سے زنگیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب کے پہلے عبدالرحمن بن مفلح نے میدان جنگ میں پہنچنے کے علی بن ابان پر حملہ کیا علی بن ابان کا لشکر اس مستعدی سے مقابلہ پر آیا کہ عبدالرحمن بن مفلح کے رکاب کی فوج کے دانت کھٹے ہو گئے بے ترتیبی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی شام تک فتح مند گروہ اپنے فریق منہزم کو قتل و قید کرتا رہا جوں ہی تاریک شب نے اپنے سیاہ دامان پھیلائے لڑائی خود بخود رک گئی دوسرے دن عبدالرحمن بن مفلح نے پھر اپنے لشکر کو مرتب و آراستہ کیا اور کمال مستعدی سے صبح ہوتے ہی زنگیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس شدت کا تھا کہ علی بن ابان کا لشکر بے قابو ہو کے میدان جنگ سے بھاگ نکلا علی بن ابان نے ہر چند اس کے روکنے کی کوشش کی کارگر نہ ہوئی زنگیوں کی ایک تعداد کثیر اس معرکہ میں کام آگئی اور بہت سے سیاہ بخت قید کر لئے گئے

علی بن ابان خبیت کے پاس لوٹ آیا اور عبدالرحمن بن مفلح درستی و طیباری لشکر کے خیال سے قلعہ مہدی میں چلا آیا۔

علی بن ابان نے خبیت (اپنے سردار) کے پاس پہنچنے کے پھر اپنے لشکر کو مرتب و آراستہ کیا اور خبیت سے اجازت حاصل کر کے قلعہ مہدی پر جہاں کہ عبدالرحمن بن مفلح اپنی فوج کی درستی میں مصروف تھا دھاوا کر دیا۔ چونکہ عبدالرحمن نے نہایت ہوشیار کیا سے قلعہ بندی کی تھی علی بن ابان کو کسی قسم کی کامیابی نہ ہوئی بے نیل مرادم ابراہیم بن سیما کی طرف لوٹ پڑا ابراہیم بن سیما اس وقت بادرو میں تھا پہلے واقعہ میں تو ابراہیم کو ہزیمت ہوئی مگر دوبارہ ابراہیم نے سنبھل کے اس سختی کا حملہ کیا کہ علی بن ابان کے لشکریوں پر عرصہ کارزار تنگ ہو گیا میدان جنگ سے منہ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے علی بن ابان نے عیاض کا راستہ اختیار کیا اشارہ میں نے اور سید کا جنگل تھا اس وجہ سے عیاض تک ہنوز نہ پہنچنے پایا تھا کہ ابراہیم کے ہمراہیوں نے آگ لگا دی علی بن ابان معد اپنے ہمراہیوں کے جنگل سے نکل کے بھاگا ایک جماعت کثیر گرفتار کر لی گئی بعد اس کے عبدالرحمن نے یہ خبر پاس کے علی بن ابان پر دھاوا کر دیا اس عرصہ میں خبیت کی طرف سے براد دریا علی بن ابان کی کمک آپہنچی فریقین نے ہنگامہ کارزار گرم کر دیا۔ علی بن ابان نے اپنے ایک حصہ فوج کو عبدالرحمن پر پیچھے سے حملہ کرنے کو بھیجا عبدالرحمن کو اس کی اطلاع ہو گئی ایک حصہ فوج کو مقابلہ پر چھوڑ کے فوراً دوسرے حصہ کو لے کے لوٹ پڑا علی بن ابان کے ہمراہیوں کے اور کچھ ہاتھ نہ لگا صرف دو چار چھوٹی کشتیاں ہاتھ آئیں۔ دوسرے دن عبدالرحمن نے علی بن ابان پر حملہ کیا اس کے مقدمہ بجیش پر طاشر تھا علی بن ابان سے کمال مردانگی سے مقابلہ کیا مگر پہلے ہی حملہ میں طاشر سے شکست کھا کے بھاگا اور خبیت (زنگیوں کے سردار) سے پاس جا کے دم لیا۔

۱۰ طاشر ایک ترکی سپہ سالار تھا عبدالرحمن نے اسکو علی بن ابان کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا مترجم

عبدالرحمن بن مفلح اور ابراہیم بن سیمانے دو مختلف راستوں سے خبیثت پر چڑھائی کی مدد پر
دولوں میں معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ اسحاق بن کنداجیق والی بصرہ نے زنگیوں کی رسد بند
کر دی جس وقت تک خبیثت ابراہیم اور عبدالرحمن سے مصروف جدال و قتال رہا اس وقت تک
اس نے اسحاق سے کچھ تعرض نہ کیا لیکن جوں ہی ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا اپنی ایک
دست فوج کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا جو سترہ ماہ تک اہل بصرہ سے لڑتا رہا تا آنکہ موسیٰ بن یغنا
نے زنگیوں کی لڑائی سے مراجعت کی اور بجائے اس کے مسرور بلخی کو اس مهم کی سرکاری دیکھی۔
صفار کا فارس و | اس سے پیشتر عہد خلافت خلیفہ معتز میں یعقوب بن لیث صفار
طبرستان پر قبضہ کے فارس پر قابض و متصرف ہو جانے اور علی بن حسین ابن
نیل کے قبضہ سے نکل جانے کے واقعات لکھے جا چکے ہیں بعد چند پھر فارس پر
خلفاء عباسیہ کی حکومت کے پھریرے کامیابی کی ہوا میں لہرانے لگے حرث بن سیمان
کو اسکی گورنری دی گئی۔ ان دنوں فارس میں ایک شخص عراق عرب کا رہنے والا محمد بن وا
بن ابراہیم تمیمی مقیم تھا اس نے احمد بن لیث سے راہ و رسم پیدا کر کے ان کردوں سے
میل جول پیدا کیا جو اس اطراف میں رہتے تھے اور موقع پاکے حرث بن سیمان پر حالت
غفلت میں حملہ کر دیا حرث بن سیمان واقعہ میں مارا گیا محمد بن وا صل نے ۲۵۶ھ میں
میں فارس پر قبضہ کر لیا اس عرصہ میں خلیفہ معتز کی خلافت کا دور آ گیا اس نے حسن بن زینا
کو والی فارس مقرر کر کے روانہ کیا محمد بن یعقوب بن لیث نے یہ خبر پا کے ۲۵۷ھ میں فارس
کا رخ کیا خلیفہ معتز کو اسکی خبر لگی سخت برہم ہوا موفوق نے مصلحتاً آتش فساد فرو کرنے کی
غرض سے بلخ اور طخارستان کی سند گورنری لکھ کے یعقوب بن لیث کے پاس بھیج دی
چنانچہ یعقوب بن لیث نے فارس سے اعراض کر کے بلخ و طخارستان پر پہنچے قبضہ
کر لیا پھر بلخ سے روانہ ہو کے کابل پہنچا اور تہلیل کو گرفتار کر لیا بعد اسکے ایک قاصد
خلیفہ معتز کی خدمت میں معہ ہایا اور تحائف کے روانہ کیا اور مراجعت کر کے بست میں

اے کے اتر پڑا سجستان کی جانب واپس آئے کا قصد تھا مگر بعض سپہ سالاروں کی عجلت سے بھلا کے
 ایک برس تک ٹھہرا رہا بعد ایک سال کے قیام کے سجستان واپس آیا پھر سجستان سے ہرات
 چلا آیا اور شہر کو رخ پر محاصرہ ڈال دیا۔ ایک مدت کے محاصرہ کے بعد اہل شہر نے شہر پناہ کے
 دروازہ کھول دئے یعقوب بن لیث نے اس پر قبضہ حاصل کر کے بوشیخ پر دھاوا کر دیا اور
 حسین بن علی بن طاہر بن حسین کو گرفتار کر لیا محمد بن طاہر بن عبد اللہ نے سفارش کی مگر
 یعقوب بن لیث نے اس کو رہا نہ کیا بعد اسکے ہرات اور باذغیس پر بھی قبضہ حاصل کر کے
 سجستان کی جانب ٹوٹا ان دنوں سجستان کی گورنری پر عبد اللہ سنجر بنی تھا ایک سالہ دراز سے
 یعقوب بن لیث سے اور اس سے چل رہی تھی جس وقت یعقوب کی مالی اور فوجی قوت
 بڑھ گئی اور اس نے عبد اللہ سنجر بنی کو اپنی حکمت عملیوں سے ضعیف و کمزور کر دیا اس وقت
 عبد اللہ سنجر بنی سجستان چھوڑ کے خراسان کی طرف چلا گیا اور محمد بن طاہر والی خراسان
 کے پاس جا کے پناہ گزین ہو گیا۔ یعقوب نے محمد بن طاہر سے اپنے ہزیمت خوردہ خرید لھیا
 (عبد اللہ سنجر بنی) کو طلب کیا محمد بن طاہر نے عبد اللہ سنجر بنی کے دینے سے انکار کیا اس
 بنا پر یعقوب نے خراسان پر چڑھائی کر دی اور نیشاپور کو جا کے گھیر لیا محمد بن طاہر نے
 ملاقات کی خواہش کی یعقوب نے انکار کر دیا تب محمد بن طاہر نے اپنے اعزا اور خاندان
 کے معزز ممبروں کو یعقوب سے ملنے کو روانہ کیا چنانچہ یعقوب ان لوگوں سے با احترام
 و عزت ملا مگر اس کے بعد ہی ماہ شوال ۲۵۹ھ میں بزور و جبر نیشاپور میں گھس کے
 محمد بن طاہر کو مع اس کے خاندان والوں کے گرفتار کر لیا اور اپنی جانب سے ایک
 شخص کو نیشاپور پر مامور کر کے دربار خلافت میں ایک اطلاعی عرضداشت اس مضمون
 کی بھیج دی کہ اہل خراسان نے بوجہ اس کے کہ محمد بن طاہر اپنے فرائض منصبی کے ادا
 کرنے میں کوتاہی اور پہلو تہی کرتا تھا اور طبرستان پر علویوں کے غالب و متصرف ہوجانے
 کا قوی اندیشہ تھا مجھے بلا بھیجا اس وجہ سے میں نے نیشاپور میں داخل ہو کے قبضہ کر لیا

اور محمد بن طاہر کو معہ اس کے اہل و عیال کے گرفتار کر لیا ہے خلیفہ معتز نے یعقوب کی توقع کے
 خلاف تہدیداً لکھ بھیجا کہ مابعد ولایت و اقبال کو تمہارا یہ فعل سخت ناگوار گذرا ہے بہتر یہ ہے
 کہ جس قدر بلاد تمہارے قبضہ و تصرف میں ہیں اسی پر اکتفا کرو ورنہ تمہارے ساتھ مخالفانہ
 برتاؤ کیا جائے گا اور تم دولت عباسیہ کے مخالفین میں شمار کئے جاؤ گے یہ واقعہ ۲۵۹ھ کا
 بعضوں نے یعقوب کے نیشاپور پر قابض و تصرف ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے
 کہ محمد بن طاہر والی خراسان کے قوائے حکومت مضمحل اور کمزور ہو جانے کی وجہ سے اسکے
 بعض اعزہ اور اقارب نے یعقوب بن لیث صفار کو لکھ بھیجا کہ ”موقع مناسب ہے
 محمد بن طاہر کی توث مدافعت بالکل سلب ہو گئی ہے نیشاپور پر آ کے قبضہ کرو“ یعقوب
 نے پہلے اس امر کی تحقیقات کی بعد ازاں محمد بن طاہر کو لکھ بھیجا ”چونکہ حسن بن زید علوی
 طبرستان کو یوماً فیوماً دبائے جاتا ہے اس وجہ سے مجھے دربار خلافت سے اس کے
 روک تھام کا حکم آیا ہے تم سے کسی قسم کا مجھے سروکار نہیں ہے میں خلافت پناہی کے
 حکم کی تعمیل کرنے کو موریہ کے جانب جانب جانا چاہتا ہوں تم اپنے دل میں کسی طر
 خطرہ نہ پیدا کرو“ مزید احتیاط کے خیال سے اپنے دو ایک سپہ سالاروں کو جاسوسی کے
 غرض سے نیشاپور بھیجا تاکہ وہ مٹی میں محمد بن طاہر کے خیالات تبدیل کرتے رہیں
 مقابلہ و جنگ کا انتظام نہ کرنے دیں بعد اسکے خود بھی کوچ کر کے نیشاپور کے قریب
 پہنچ گیا۔ عمر بن لیث نیشاپور میں داخل ہو کے محمد بن طاہر کو یعقوب بن لیث کے
 پاس گرفتار کر لایا یعقوب نے اس کو فریض منصبی کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے پر
 سخت و سخت کلمات سے مخاطب کیا اور اس کے کل خاندان کو جو تعداد میں اکیسوا
 ساٹھ آدمی تھے گرفتار کر کے سجستان کی جانب روانہ کر دیا محمد بن طاہر کے گرفتار
 ہونے ہی یعقوب بن لیث کے عمال کل صوبجات خراسان میں پھیل گئے اور بات کی
 بات میں محمد بن طاہر کے عمال کو نکال کے قبضہ کر لیا یہ واقعات محمد بن طاہر کی حکو

کے گیارہ برس دو مہینے کے بعد وقوع میں آئے۔

الغرض جب یعقوب نے محمد بن طاہر کو گرفتار کر لیا اور خراسان کے کل صوبجات پر اس کے عمال متعین و مقرر ہو گئے اُس وقت اسکے حرلیف عبدالمد سنجری نے حسن بن زید والی طبرستان کے پاس جا کے پناہ لی یعقوب نے حسن بن زید سے عبدالمد سنجری کے پناہ گزین ہونے کے بابت خط و کتابت کی حسن بن زید نے لکھ بھیجا ”میں نے اس کو پناہ دیدی تم کو اگر دعوائے مردانگی ہو تو طیار ہو جاؤ میں عنقریب تمہارے سر پر پہنچا چاہتا ہوں“ اس خط کے بعد ہی سنہ ۲۶۰ھ میں حسن بن زید علوی یعقوب کے سر پر پہنچا یعقوب نے لشکر مرتب کر کے مقابلہ کیا مقام ساریہ میں صف آرائی کی نوبت آئی دونوں حرلیف جی توڑ کے لڑنے لگے بالآخر حسن بن زید ہزیمت اٹھا کے ولیم کی جانب بھاگ گیا اور یعقوب نے کامیابی کے ساتھ ساریہ اور آمل پر قبضہ کر لیا۔

خاتمہ جنگ اور ساریہ و آمل پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد یعقوب نے چالیس ہزار کی جمعیت سے حسن بن زید کا تعاقب کیا اتفاق سے طبرستان کے پہاڑوں میں جا پہنچا چالیس روز تک مینہ برستا رہا بہتر خرابی و وقت اپنی فوج کی ایک تعداد کثیر کو ضایع کر کے واپس آیا اور ان واقعات کی ایک اطلاعی عرضداشت دربار خلافت میں بھیج دی۔

عبدالمد سنجری بعد ہزیمت حسن بن زید کے کی جانب چلا گیا تھا یعقوب نے خیبر پاکے حاکم رے کو اس مضمون کا خط لکھ بھیجا ”بہتر یہ ہے کہ میرے حرلیف کو میرے حوالہ کر دو ورنہ تمہارے سر پر پہنچا چاہتا ہوں لڑائی کے لئے طیار ہو جاؤ“ حاکم رے نے عبدالمد سنجری کو گرفتار کر کے یعقوب کے پاس بھیج دیا یعقوب نے اسکو قتل کر کے سجستان کی جانب مراجعت کر دی۔

جس وقت حسن بن زید کو طبرستان میں بمقابلہ عبدالرحمن بن مفلح شکست ہوئی اور ابن مفلح نے میدان جنگ سے مراجعت کی حسن بن زید نے اُس وقت جرجان پہنچا

قبضہ کر لینے کے قصد سے جرجان کی جانب کوچ کر دیا محمد بن طاہر والی خراسان نے
 یہ خبر پانے کے ایک لشکر جرجان کی حفاظت کی غرض سے روانہ کیا مگر یہ لشکر جرجان کو حسن
 بن زید کے تصرف و غلبہ سے نہ بچا سکا حسن بن زید نے جرجان پر پہنچنے کے قبضہ کر ہی
 لیا اور یہ لشکر دور سے منہ تکتا رہ گیا اس واقعہ سے محمد بن طاہر کی حکومت میں اضطراب
 پیدا ہو گیا اکثر صوبجات خراسان میں بد امنی پھیل گئی اطراف و جوانب کے امراء اسکی
 کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگے جن لوگوں کو اس سے کچھ بھی سوہ مزاجی تھی یا برائے
 نام پیدا ہو گئی انھوں نے جس طرف سے موقع پایا خروج کر دیا اور محمد بن طاہر انکی
 مدافعت نہ کر سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن طاہر کے قبضہ سے خراسان نکل گیا اور آل صفار
 کے پھر رہے کامیابی کی ہوا میں اڑنے لگے جیسا کہ ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

بغاوت موصل | خلیفہ معتمد نے صوبہ موصل کی گورنری پر سپہ سالاران ترک سے

اساتکین نامی ایک سپہ سالار کو متعین فرمایا تھا اس نے اپنی جانب سے اپنے لڑکے
 اذکر تکین کو ماہ جمادی الاول ۲۵۹ھ میں روانہ کیا اذکر تکین نے موصل میں پہنچنے وند
 مجاوی، فسق، فجور، شراب نوشی، زنا، ظلم اور سفاکی کا دروازہ کھول دیا ایک روز ایک
 لشکری نے ہستی کی حالت میں ایک عورت پر اثناء راہ میں دست درازی کی عورت
 چلائی۔ اور لیس حمیری نامی ایک بزرگ سیرت نے پہنچنے اس عورت کی عزت
 بچائی۔ لشکری نے اذکر تکین سے اور لیس کی شکایت جڑوی اذکر تکین نے اور لیس کو
 گرفتار کر کے خوب پٹوایا۔ اہل شہر کو اس سے اشتعال پیدا ہوا مجمع ہو کے مشورہ
 کرنے لگے اسے یہ قرار پائی کہ خلیفہ معتمد کو اس کی اطلاع کرنی چاہئے اذکر تکین کو
 اس مشورہ کی خبر لگ گئی لشکر مرتب کر کے پڑھ آیا اور بلا استفسار رڑائی شروع کر دی
 اہل شہر بھی مجمع ہو کے لڑنے لگے آخر الامراہل شہر نے اذکر تکین کو مار کے نکال دیا اور
 متفق ہو کے یحییٰ بن سلیمان کو حکومت موصل کی کرسی پر بٹھایا اس اثنا میں ۲۶۱ھ کا

دور آگیا اسانگین نے ہیثم بن عبدالمد بن معمر تغلبی عدوی کو صوبہ موصل کی نیابت عطا کی اور اہل موصل کی گوشمالی کی تاکید کی چنانچہ ہیثم نے موصل پہنچنے لڑائی چھیڑ دی ایک مدت تک اہل موصل لڑتے رہے۔ طرفین کے ہزار ہا آدمی کام آگے ہیثم مجبور ہو کے واپس آیا اسانگین نے بجائے اس کے اسحاق بن ایوب تغلبی (ہو حمدان کے دادا) کو متعین کیا ایک مدت تک اسحاق بھی محاصرہ کے رہا اثنائے محاصرہ میں یحییٰ بن سلیمان غلیل ہو گیا اسحاق نے اسکی علالت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی محاصرہ میں سختی اور مستعدی سے کام لینے لگا شہر پناہ کی بعض سمت کی دیواریں بھی زمین و دوش کر دی۔ اہل شہر نے یحییٰ بن سلیمان کو اسی حالت سے لاکے صفت لشکر کے آگے ڈال دیا۔ اہل شہر کو اس سے بے حد جوش پیدا ہوا نہایت مردانگی سے حملہ آور ہوئے اسحاق کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی اور اسی جوش سے شروع ہوئی اسحاق اہل شہر سے برابر خط و کتابت کر رہا تھا اور انکو طرح طرح کی امیدیں دلاتا تھا تا آنکہ اہل شہر نے اس امر پر مصالحت کر لی کہ اسحاق شہر میں داخل ہو سکے رض میں قیام پذیر ہو چنانچہ اسحاق ایک ہفتہ تک رض میں ٹھہرا رہا بعد اسکے کسی شہری اور اسکے لشکری سے باتوں باتوں چل گئی جس سے آتش جنگ پھر بھڑک اٹھی۔ اہل شہر نے مجتمع ہو کے اسحاق کو مار کے شہر سے نکال دیا اور یحییٰ بن سلیمان مستقل طور پر موصل میں حکومت کرنے لگا۔

جنگ ابن واسل و ابن واسل

اس سے پیشتر ہم حرث بن سیماکو زرفارس پر محمد بن واسل بن ابراہیم تمیمی کے حملہ کرنے اور ۲۵۶ھ میں فارس پر اسکے

متصرف و قابض ہونے کے واقعات بیان کر آئے ہیں پس جس وقت خلیفہ مقتدر کو اسکی خبر لگی فارس کی حکومت بھی عبدالرحمن بن مفلح کو عنایت فرمائی اور بقصد جنگ ابن واسل ابواز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور طاشمیر کو امدادی فوج کا افسر مقرر کر کے

ابن مفلح کی کمک پر متعین کیا چنانچہ ۲۶۱ھ میں ابن مفلح اہواز کی جانب سے ابن واصل پر حملہ آور ہوا اسکے ہمراہ ابو داؤد علوس بھی تھا مقام رام ہرمز میں صفت آرائی کی نوبت آئی ابن واصل نے پہلے ہی حملہ میں ابن مفلح کو شکست دیکے گرفتار کر لیا طاہر میدان جنگ میں مارا گیا ہزار ہا آدمی مارے اور قید کر لئے گئے ابن مفلح کا لشکر گاہ لوٹ لیا بعد اسکے خلیفہ معتد نے ابن واصل سے ابن مفلح کی رہائی کے بابت خط و کتابت شروع کی ابن واصل نے ایک خط کا بھی جواب نہ دیا اور بجائے رہا کرنے کے ابن مفلح کو خفیہ طور سے مار کے یہ مشہور کر دیا کہ وہ اپنی موت سے مر گیا۔

اس واقعہ کے بعد ابن واصل نے بقصد جنگ موسیٰ بن بغا و اسط کا رخ کیا رفتہ رفتہ اہواز تک پہنچا ان دنوں اہواز میں ابراہیم بن سیماء ایک فوج کثیر لئے ہوئے مقیم تھا۔ موسیٰ بن بغا نے یہ خبر پا کے اور نیز اس وجہ سے کہ فارس میں آئے دن فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے گھبرا کے گورنری سے دربار خلافت میں استعفاء پیش کیا جس کو خلافت پناہ نے منظور فرمایا۔

جن دنوں ابن مفلح اہواز سے فارس کی طرف واپس آ رہا تھا اسی زمانہ میں بجائے اسکے ابو الساج مقرر کیا گیا تھا اور اس کو زنگیوں سے جنگ کی ہدایت کی گئی تھی چنانچہ اس نے اپنے و ابا و عبد الرحمن کو اس مہم پر روانہ کیا علی بن ابان سپہ سالار زنگیان سے مدد بھیج رہی تھی۔ علی بن ابان نے اسکو شکست دیکے مار ڈالا ابو الساج اس وقت اتر خبر کوشن کے لشکر گاہ مکرم کی جانب لوٹ آیا علی بن ابان نے اہواز پر قبضہ حاصل کر کے اہل اہواز کو جی کھول کے پائمال کیا بازاروں میں آگ لگا دی شاہی مکانات منہدم کر دیئے۔ اس جانگداز واقعہ کے بعد ابو الساج گورنری اہواز سے معزول کر دیا گیا بجائے اسکے ابراہیم بن سیماء تعین ہوا اس زمانہ سے یہ اہواز ہی میں رہا تا آنکہ موسیٰ بن بغا گورنری فارس سے استعفاء دیکے واپس آیا۔

جس وقت عبدالرحمن بن مفلح جنگ ابن واصل میں مارا گیا جس کو ہم ابھی اوپر بیان
 کر آئے ہیں اور اس واقعہ کی خبر یعقوب بن لیث صفار تک پہنچی حکومت فارس کی
 طمع و امنگیر ہو گئی فوراً لشکر مرتب کر کے سجستان سے کوچ کر دیا ابن واصل کو اسکی خبر
 لگ گئی ابراہیم بن یساک لڑائی چھوڑ کے صفار کی جانب لوٹ پڑا اور صفار کے لشکر گاہ
 کے قریب پہنچے اپنے ماموں ابوبلال مرواس کو خط لیکے روانہ کیا صفار نے اس کے
 جواب میں اپنے قاصد کے معرفت خط بھیجا ابن واصل نے قاصد کو گرفتار کر کے دفعۃً
 حملہ کرنے کی طیاری کر دی اتفاق یہ کہ صفار کو اس کی اطلاع ہو گئی صفار نے ابوبلال
 سے مخاطب ہو کے کہا ”دیکھو تمہارے دوست نے ہمارے ساتھ بد عہدی کی ہمارے
 قاصد کو گرفتار کر کے حملہ کرنے کی طیاری کر دی ہے مگر تم کو اس کی مطلق پروا نہیں ہے
 اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و حامی ہے“ ابوبلال یہ سن کے خاموش ہو گیا کچھ جواب نہ بن پڑا
 صفار نے اسی وقت لشکر کو طیار کر کے ابن واصل کی طرف کوچ کر دیا۔ ابن واصل کے
 ہمراہی روزانہ سفر سے تھک گئے تھے اور بہت سے کثرت تشنگی سے مرچکے تھے
 باقی ماندہ جو تھے وہ جو اس باختہ بے حس و حرکت پڑے تھے لڑائی اور مقابلہ کی طاقت
 ان میں کہاں تھی ابن واصل اپنے ہمراہیوں کا یزنگ و کپہ کے بھاگ کھڑا ہوا صفار
 نے اس کے لشکر گاہ میں گھس کے جو کچھ پایا معاً اس مال و اسباب کے جو ابن مفلح کی
 ہزیمت سے ابن واصل کے ہاتھ آیا تھا لوٹ لیا۔ اس واقعہ سے صفار کے رعب و
 داب کا سکہ بیٹھ گیا کل بلاد فارس پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ صوبجات فارس پر اپنی
 طرف سے عمال مقرر کئے۔ صفار نے اس عہد سے فارغ ہو کے اہل زم پر بوجہ اسکے
 کہ انہوں نے ابن واصل کی حمایت کی تھی چڑھائی کر دی اور جوش کامیابی میں اہوا
 پر قبضہ کر لینے کی بھی طمع و امنگیر ہو گئی۔

اعاز و دولت بنو سامان | سامانیوں کا دادا اسد بن سامان خراسان کے

مشہور خاندان کا ایک معزز ممبر تھا کبھی یہ اپنے کو اہل فارس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
 گاہے گاہے ساسر بن لوی بن غالب کی جانب۔ اسد کے چار بیٹے تھے نوح، احمد، یحییٰ اور الیاس
 جن دونوں مامون خراسان کی گورنری پر تھا انہیں ایام میں ان لوگوں نے مامون کی خدمت
 میں شرفِ حضوری حاصل کی مامون نے ان لوگوں کو عہدہ ہائے جلیبہ سے سرفراز فرمایا
 پس جب مامون نے عراق کی جانب مراجعت کی اور خراسان میں اپنی نیابت پر غسان
 بن عباد کو (یہ فضل بن سہل کا عزیز تھا) مامور کیا تو اس نے نوح کو سمرقند کی، احمد کو فرغانہ
 کی، یحییٰ کو شاش و اشروسنہ کی اور الیاس کو ہرات کی حکومت دی۔ بعد چندے بجائے
 غسان کے طاہر بن حسین کو خراسان کی حکومت عطا ہوئی اس نے ان لوگوں کو ان کے
 عہدوں پر بحال رکھا۔ بعد اس کے نوح بن اسد کا انتقال ہو گیا طاہر بن حسین نے
 اس کے صوبہ کو اس کے دوہائیوں یحییٰ اور احمد کے صوبجات سے ملحق کر دیا۔ احمد
 نہایت خوش خلق اور خصایل پسندیدہ سے منصف تھا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد
 الیاس نے ہرات میں وفات پائی عبدالمدین طاہر نے اس کے بیٹے ابواسحاق محمد بن
 الیاس کو اسکی جگہ پر مقرر کیا۔ احمد بن اسد کے سات بیٹے تھے۔ نصر، یعقوب، یحییٰ،
 اسماعیل، اسحاق، ابوالاشعث اسد اور ابو غانم حمید۔ احمد کے انتقال کرنے پر صوبہ
 سمرقند میں اس کا بڑا بیٹا نصر اس کا قائم مقام بنایا گیا چنانچہ اس وقت سے تازمان
 انقراض حکومت بنی طاہر اور ان کے بعد بھی سمرقند کی حکومت اس کے قبضہ میں رہی
 سمرقند کی سند حکومت اسکو گورنران خراسان کی جانب سے ملتی رہی یہاں تک کہ
 بنی طاہر کی حکومت درہم و برہم ہو گئی اور دولت صفار کا پھریرہ خراسان میں کامیابی
 کی ہوا میں اڑنے لگا۔ پس خلیفہ معتد نے اپنی جانب سے نصر کو اس صوبہ کی سند گورنری
 ۲۹۱ھ میں مرحمت فرمائی۔ جبکہ یعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ حاصل کر لیا
 جیسا کہ تم اوپر پڑھ آئے ہو تو نصر نے اپنی فوجوں کو دریا سے جیون کی طرف صفار کے

بڑھتے ہوئے سیلاب کے روک تھام کرنے کو روانہ کیا اتفاق وقت سے اس لشکر کا راجہ
 جنگ صفار کے نذر ہو گیا نصر کا لشکر بخارا لوٹ آیا (احمد بن عمر) والی بخارا جان کی خوف سے
 شہر چھوڑنے کے بھاگ گیا اہل بخارا نے ابو ہاشم محمد بن بشر بن رافع بن لیث بن نصر بن
 سیار کو امارت کی کرسی پر بٹھلایا پھر بعد چندے اس کو معزول کر کے احمد بن محمد لیث
 کو امیر بنایا تھوڑے دنوں بعد اس کو بھی معزول کر کے حسن بن محمد کو شہر کی حکومت
 سپرد کی پھر جب اس کو بھی معزول کر دیا تو نصر نے اپنے بھائی اسماعیل کو بخارا کی زمام
 حکومت عنایت کی۔ اس اثنا میں رافع بن ہرثمہ (یہ بنو طاہر کا داعی تھا) خراسان کا
 گورنر ہوا اور صفار اس ملک پر متغلب و متصرف ہوئے اس وقت اسماعیل والی بخارا
 نے اس سے خط و کتابت شروع کی اور باہم معاونت و اتحاد کا عہد و پیمانہ کر کے سو
 خوارزم کی حکومت حاصل کر لی۔ لگاتار بھانے والوں نے اسماعیل و نصر کو لڑا دیا۔
 چنانچہ نصر نے ۲۷۷ھ میں اسماعیل پر چڑھائی کر دی اسماعیل نے رافع بن ہرثمہ سے
 مدد طلب کی رافع بن ہرثمہ ایک کثیر التعداد فوج لے کے بذاتہ اسکی کمک کو بخارا پہنچا
 لڑائی کی نوبت آئی دونوں بھائیوں میں مصالحت ہو گئی رافع خراسان کو لوٹ آیا
 بعد اسکے پھر ان دونوں بھائیوں میں سوومزاجی پیدا ہوئی جو رفتہ رفتہ لڑائی کی حد
 تک پہنچ گئی ۲۷۵ھ میں ایک سخت و خونریز جنگ کے بعد اسماعیل کو نصر پر
 فتح نصیب ہوئی جس وقت نصر اسماعیل کے رو برو حاضر ہوا اسماعیل نے دوڑ کے
 دست بوسی کی اور بدستور کرسی امارت سمرقند پر اسکو جلوہ افروز رکھا خود اس کی نیا
 میں بخارا کی امارت کرتا رہا۔ اسماعیل نہایت منکسر مزاج۔ سخی اور اہل علم و
 دین کا قدردان تھا۔

ولیعہدی کی بیعت | جس وقت موسیٰ بن بعا گورنری ولایت شرقیہ سے مستعفی
 ہوا خلیفہ معتد نے اپنے بھائی احمد موفق کے بھیجے کا قصد کیا چنانچہ شوال ۲۷۱ھ میں

دربار عام منعقد کیا امراء، وزراء، اور اراکین سلطنت حسب مدارج حاضر ہوئے خلیفہ
 معتمد نے ایک مختصر تقریر کے بعد اپنے بیٹے جعفر کو اپنا ولیعهد بنایا اور مفوض الی الحد کا
 مبارک لقب مرحمت فرما کے موسیٰ بن بغا کو اسکی نیابت عنایت کی۔ افریقیہ، مصر،
 شام، جزیرہ، موصل، ارمینہ، طریق، خراسان، اور مہر جان نقدق کی گورنری عطا
 فرمائی۔ اسی جلسہ میں یہ بھی قرار دیا کہ میرا دوسرا ولیعهد میرا بھائی ابو احمد ہوگا اس کو
 الناصر لدین اللہ الموفق کا لقب دیکے بلا وشرقیہ بغداد، کوفہ، طریق مکہ، یمن، کنسکر،
 کوردجلہ، اہواز، اصفہان، فارس، کرخ، دینور، رے، زرخان اور سندھ کی حکومت
 عنایت کی۔ دونوں ولیعهدوں کے لئے دو لوہے سفید و سیاہ بنائے اور یہ شرط کی
 کہ اگر میں مرجاؤں اور اُس وقت تک جعفر بالغ نہ ہو تو پہلے موفق سرپر خلافت پر متمکن
 ہو بعد ازاں جعفر۔ اسی شرط کے ساتھ حاضرین سے بیعت لی گئی جعفر کی جانب سے
 صوبجات مغرب پر موسیٰ بن بغا مامور کیا گیا قلمدان وزارت صناعہ بن محمد کے سپرد
 ہوا بعد ازاں ۲۷۲ھ میں اسکی بد اقبالی کی گھٹا اس کے سر پر چھا گئی معافی کا خواستگار
 ہوا۔ بجائے اسکے اسماعیل بن باہل کو یہ معزز عہدہ عنایت ہوا
 تقرر ولیعهدی کے بعد خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو زنگیوں سے جنگ کرنے کا
 حکم دیا موفق نے اپنی جانب سے اہواز، بصرہ اور کوردجلہ پر مسرور بلخی کو مقرر کر کے
 بطور مقدمتہ الجیش کے آگے بڑھنے کی ہدایت کی اور اسکے بعد اپنی روانگی کا عزم کیا۔
جنگ صفار و موفق | جس وقت یعقوب صفار نے فارس کو ابن واصل کے تصرف
 سے اور خراسان کو ابن طاہر کے قبضہ سے نکال کے اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کر لیا
 اور اسکی خبر دربار خلافت تک پہنچی خلیفہ معتمد نے سرور بار کہہ دیا "حاشا وکلا میں نے
 یعقوب صفار کو فارس و خراسان پر قبضہ کر لینے کی اجازت نہیں دی اور نہ میں نے
 اس کو ان افعال کے کرنے کی ہدایت کی جس کا وہ مرتکب ہوا ہے مجھ کو

اس کے فعل سے سخت ناراضی پیدا ہوئی ہے، "موفق نے گزارش کی "امیر المومنین ! کو ایسے خود سر شخص کی سرکوبی کرنا ضرور ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے اُس سے جواب طلب کیا جائے" خلیفہ معتد نے اس رائے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھ کے اسماعیل بن اسحاق اور فہواج نامی ایک نامور سپہ سالار ترک کو صفار کے پاس یہ پیام لے کے بھیجا کہ "ما بدولت و اقبال کو تمہاری یہ دست درازی مطبوع خاطر اقدس نہیں ہوئی بہتر یہ ہے کہ تم انہیں بلاؤ کی حکومت پر اکتفا کرو جو تم کو دربار خلافت سے مرحمت ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو جو تمہارے ہمراہیوں میں سے ہیں اور جنگوں میں سے وقت گرفتاری محمد بن طاہر گرفتار کر لیا تھا رہا کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں" اسماعیل تھوڑے دنوں بعد صفار کے پاس سے واپس آیا اور یہ ظاہر کیا کہ صفار کا قصد موصل کے طرف بڑھنے کا ہے۔ موفق ان واقعات سے مطلع ہو کے زنگیوں کے ہم پر جانے سے رُک رہا۔ ہاں اسماعیل کے ساتھ صفار کا حاجب ذرہم نامی بھی حکومت طبرستان، خراسان، جرجان، رے، فارس اور افسری پولیس بغداد کی سند حاصل کرنے کو دربار خلافت میں آیا تھا چنانچہ خلیفہ معتد نے علاوہ صوبجات سجستان اور کرمان کے جو کہ پہلے سے اسکے قبضہ میں تھے ان صوبجات کی سند گورنری بھی عنایت کی جنکی حکومت کی صفار نے استدعا کی تھی۔ ذرہم معہ عمر بن سیما کے صوبجات مذکورۃ الصدر کی سند گورنری لئے ہوئے صفار کے پاس واپس آیا صفار نے یہ لکھ کے کہ "میں بغرض ادائے لشکر و امتنان امیر المومنین کے باب عالی پر حاضر ہوا چاہا ہوں" اپنے لشکر گاہ مکرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی ابواز چونکہ صفار کا ماتحت تھا یہ خبر پا کے استقبال کے غرض سے شہر سے باہر آیا عزت و احترام سے صفار کو شہر میں لے گیا۔ بڑی دھوم کی دعوت کی۔ صفار ایک دو روز قیام کر کے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ یہ حالات تو صفار کے تھے اب دربار خلافت کا رنگ ڈھنگ

ملاحظہ کیجئے کہ جس وقت قاصدوں نے واپس ہو کے صفار کی عرضی پیش کی اہل دربار کے چہروں پر بھائی اڑنے لگی سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا کسی نے کہا "اس کی نیت اچھی نہیں ہے" کوئی بولا "وہ بڑا نیک حرام ہے" عرض ہر شخص اپنی فہم کے مطابق برائے زنی کر رہا تھا اتنے میں خلافت پناہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بغداد سے نکل کے زعفرانیہ میں پہنچ گئے لشکر آرائی کی اور اپنے بھائی موفیق کو بقصد جنگ صفار آگے بڑھنے کا حکم دیا چنانچہ نصف رجب ۲۶۲ھ میں صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا موفیق کے میمنہ میں موسیٰ بن بعا تھا "میسرہ" میں مسرور بلخی اور قلب لشکر میں خود موفیق۔ پہلے صفار کے میمنہ اور موفیق کے میسرہ سے ٹھہرے ہوئی موفیق کا میسرہ پہلے حملہ میں بھاگ کھڑا ہوا ابراہیم بن سیا وغیرہ نامی نامی سپہ سالار اس معرکہ میں کام آئے۔ موفیق نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کے منہزموں کو آواز دی اور ان کو حکمت عملی سے واپس لا کے دوبارہ صفار کے لشکر پر حملہ کیا صفار کی فوج نے بھی جی توڑ کے مقابلہ کیا جنگ و خونریزی کی گرم بازاری ہو گئی کشتوں کے پٹے لگ گئے آخر وقت عصر تک نہایت شدت سے لڑائی جاری رہی اس اثناء میں خلیفہ معتد کی جانب سے محمد بن اوس اور دیرانی ایک تازہ دم فوج لئے ہوئے موفیق کی کمک پر آگیا دونوں فوجیں مجموعی قوت سے صفار کے لشکر پر دو طرف سے حملہ آور ہوئیں صفار کی فوج اس نابرداشتی حملہ سے گھبرا گئی اکثر بھراہی اس گھبراہٹ میں مارے گئے خلیفہ کی امدادی فوج دیکھ کے صفار کا لشکر بے قابو ہو کے بھاگ کھڑا ہوا صفار بھی مجبوراً اپنے مورچہ سے پیچھے ہٹا موفیق کی فوج نے تعاقب کیا۔ لشکر گاہ کو ٹوٹ لیا تقریباً دس ہزار گھوڑے اچھر اور چوپائے ہاتھ آئے مال و اسباب کی کوئی انتہا نہ تھی بار برداری کو جانور نہ ملتے تھے۔ محمد بن طاہر دالی خراسان بھی پابہ زنجیر اسی لشکر گاہ میں تھا صفار کی شکست سے اسکی قسمت کھل گئی قید کی تکلیف سے رہائی ملی شکر یہ ادا کرنے کو موفیق کی خدمت میں حاضر ہوا موفیق نے اسکو خلعت فاخرہ سے سرفراز فرما کے محکمہ

پولیس بغداد کی افسری عنایت کی۔

صفار میدان جنگ سے شکست کھا کے خوزستان کی طرف روانہ ہوا اور جندسابو
میں پہنچنے کے قیام کیا۔ زنگیوں کے سردار نے خط و کتابت شروع کی دوبارہ جنگ کرنے
پر ابھارتے لگا اور امداد و اعانت کا وعدہ کیا صفار نے جواب میں سورہ کافرون
(یعنی قل یا ایہا الکافرون لا اعبدا ما تعبدون تا آخر سورہ) لکھ بھیجی۔
ان واقعات کے اثنائے میں ابن واصل نے صفار کو مصروف جنگ دیکھ کے فارس
پر قبضہ کر لیا اور بار خلافت میں اطلاعی عرضداشت روانہ کی خلیفہ معتد نے خوش ہو کے
فارس کی سند گورنری مرحمت فرمائی۔ صفار نے یہ خبر پاس کے ایک لشکر سپہ افسری عمر بن
السرری فارس پر بھیج دیا جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی ابن واصل کو نکال باہر کر کے
قبضہ کر لیا۔ انہیں دونوں صفار نے محمد بن عبدالمدین ہزار مرد کردی کو ابھار
کی حکومت پر مامور کیا۔

معم صفار کے خاتمہ پر خلیفہ معتد نے سامرا کی طرف مراجعت کی اور موفق واسط
کی جانب لوٹ آیا۔ قصد مصمم صفار کے تعاقب کرنے کا تھا لیکن علالت طبیعت کی
وجہ سے بغداد واپس آیا اس کے ساتھ مسرور بلخی بھی تھا جو کہ بعد موسیٰ بن بغا کے
زنگیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالساج نے صفار کی مہمان داری اور مدارات
کی تھی اس وجہ سے اس کی جاگیرات اور مال و اسباب ضبط کر کے مسرور بلخی کو مرحمت
ہوا اور محمد بن طاہر محکمہ پولیس بغداد کی افسری کرنے لگا۔

زنگیوں کے حالات | اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مسرور بلخی بعد موسیٰ بن بغا زنگیوں
سے جنگ کرنے کو روانہ کیا گیا اور بعد اسکے موفق روانہ ہونے والا تھا لیکن صفار کے
واقعات پیش آجانے کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا صفار کی معرکہ آرائی میں مصروف
ہو گیا طرہ اس پر یہ ہوا کہ مسرور بھی خلیفہ معتد کے حکم کے مطابق دوبار خلافت کو

واپس آیا زنگیوں کے سردار نے عساکر سلطانیہ سے میدان خالی دیکھ کے اپنی فوج
 کو ہر طرف قتل و غارت کرنے کو پھیلا دیا چنانچہ سلیمان بن جامع کو چند دستہ
 فوج کے ساتھ بطیمہ کی جانب روانہ کیا اور سلیمان بن موسیٰ کو قادیسیہ کی طرف شیخون
 مارنے کو بھیجا اس اثناء میں ابن ترکی سپہ سالار براہ دریا شاہی لشکر لئے ہوئے زنگیوں
 کی فوج سے جنگ کرنے کو اپونچا سلیمان بن موسیٰ سے مقابلہ ہو گیا تقریباً ایک مہینہ
 تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر سلیمان بن موسیٰ میدان جنگ سے ہزیمت کھا کے سلیمان
 بن جامع کی جانب مایل ہوا غصیت (زنگیوں کے سردار) نے اپنے سپہ سالاروں
 سلیمان بن موسیٰ اور سلیمان بن جامع کی کمک پر ایک تازہ دم فوج روانہ کی۔
 مسرور بلجی نے واسط سے اپنی روانگی کے پیشتر ایک لشکر براہ دریا زنگیوں کے
 طوفان بے تمیزی کے روک تھام کو روانہ کیا تھا جس سے سلیمان بن جامع دوچار
 ہوا۔ ایک روز حالت غفلت میں شاہی لشکر پر دھاوا کر دیا شاہی لشکر کو ہزیمت
 ہوئی اثناء گیر و دار میں دو چار کشتیاں گرفتار کر لیں لشکریوں میں سے جو ہاتھ آیا
 اُس کو مار ڈالا پھر میدان جنگ سے بخوف عساکر سلطانیہ روانہ ہوئے یعقوب کے
 قریب قصبہ مروان میں آئے اور بید کے جنگل میں قلعہ نشین ہو گیا مگر اس کی
 اس چالاکی نے کام نہ دیا دربار خلافت کے دو نامی سپہ سالاروں اغرتمش
 اور حشیش براہ دریا اور خشکی حملہ آور ہوئے۔ سلیمان نے یہ خبر پا کے اپنے ہمراہیوں
 کے حصہ کثیر کو جنگل میں چھپا دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جب تک طبلوں کی آواز نہ سنا
 اُس وقت تک حملہ آور نہ ہوتا۔ جوں ہی اغرتمش مقابلہ پر آیا زنگیوں کی ایک چھوٹی
 سی جماعت نے لشکر گاہ سے نکل کے صف آرائی کی اور شاہی لشکر کو اپنے مقابلہ
 میں مصروف و مشغول کر لیا۔ سلیمان اپنی فوج کی ایک دوسری ٹکڑی کو لے کے
 شاہی لشکر کے پیچھے سے دھاوا کیا قریب پہنچے طبلوں کو بجوایا نقاروں کو بجا

پڑنا تھا کہ جنگل سے غول بیابانی کا جھنڈ نکل پڑا اغرتمش کی رکاب کی فوج اس چانک
 حملہ سے گھبرا کر بھاگ گھڑی ہوئی حشیش مارا گیا زنگی فوجیں لشکر گاہ تک تعاقب میں
 بڑھ گئیں جو کچھ پایا لوٹ لیا دو چار کشتیاں بکریاں لیکن اغرتمش نے اپنی ہمت
 خوردہ فوج کو پھر جمع کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ زنگی ٹوٹا جو کچھ شاہی لشکر گاہ سے
 لوٹ لے گئے تھے اُس کو واپس لے لیا۔

اسی زمانہ مظفر منصور حشیش کا سر لے ہوئے خبیت (اپنے سردار) کے پاس
 واپس آیا خبیت نے حشیش کے سر کو علی ابن ابان کے پاس اطراف اہواز میں بھیج دیا۔
 دوسری لڑائی زنگیوں کی احمد بن کیتونہ سے ہوئی اور اس میں ان کو بہت
 بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی۔ سرور بلخی نے اہواز کی جانب احمد بن کیتونہ کو
 روانہ کیا تھا چنانچہ مقام سوس کے قریب پہنچے جنڈ ساہور میں قیام کیا اور صفائے
 کی طرف سے محمد بن عبداللہ ابن ہزار مرد کردی والی اہواز تھا اس نے شاہی
 سطوت سے خائف ہو کے خبیت سے خط و کتابت کی یہ طے پایا کہ علی بن ابان کو
 اہواز کی گورنری دی جائے اور محمد کو اس کی نیابت۔ بروقت مقابلہ ایک دوسرے کا
 معاون و مددگار ہوگا اس عہد و پیمان کی توثیق کے غرض سے دونوں تشریح میں مجتمع ہوئے
 احمد نے انکی سازش سے مطلع ہو کے جنڈ ساہور سے سوس کی طرف کوچ کر دیا۔

اس عہد نامہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اہواز کے منابر پر خبیت کے نام کا خطبہ پڑھا
 جائے گا لیکن جمعہ کے روز تشریح میں محمد نے معتقد اور صفار کے نام کا خطبہ پڑھ دیا
 خبیت کا ذکر تک نہ آیا علی بن ابان کو اس سے برہمی پیدا ہوئی فوراً اہواز کی جانب
 راجت کردی احمد بن کیتونہ بھی یہ خبر پا کے تشریح سے اہواز کی طرف روانہ ہوا اثنائے
 راہ میں دونوں بھڑکے احمد کی فوج میدان جنگ سے گھونگھٹ کھا گئی تشریح کے
 بلوغ نشین ہو گیا علی بن ابان نے تعاقب کیا تشریح پہنچے محاصرہ ڈال دیا دونوں

حریت جی توڑ کے خوب لڑے فریقین کے ہزار ہا آدمی اس وقت کے آخر الامر علی کو ہزیمت
 ہوئی ایک گروہ کثیر اس کے ہمراہیوں کا اس معرکہ میں کام آگیا۔ ان کے ہاتھوں نے ابان کے
 بھاگے ہوئے چوڑے پونچا ہوا زمین اپنے لشکر پر ایک شخص کو اپنا نائب بنا کر انہوں سے
 چور چور تھا علاج کرنے کو غنیمت کے لشکر گاہ میں چلا آیا اور اپنے بھائی کو ہتھیاروں کے
 عظیم الشان فوج کے ساتھ احمد کی طرف روانہ کیا احمد ان دنوں لشکر گاہ میں ہی تھا
 غلیل کی آمد کی خبر پا کے چند دستہ فوج کو کیننگاہ میں بٹھا دیا اور خود پانچ سو سواروں کے
 کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا اور آہستہ آہستہ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹا زنگی فوج میں
 کامیابی میں بڑھتی گئیں تاکہ اُس مقام سے گذر گئیں جہاں کہ احمد کی فوج بھیجی ہوئی
 تھی زنگیوں کا آگے بڑھنا تھا کہ احمد کی فوج نے کیننگاہ سے نکل کے دفعۃً حملہ کر دیا
 زنگیوں کا لشکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بہت بڑی جماعت اس کے
 میں کام آگئی منہزموں نے علی بن ابان کے پاس جا کے دم لیا۔ علی بن ابان کے
 اسی وقت اپنی فوج کے ایک حصہ کو بقیہ منہزموں کے روکنے کو سرقان کی جانب
 روانہ کیا احمد نے یہ سن کے اپنے لشکر کے چند کار آزمودہ سواروں کو ان کی
 جلو گیری کو بھیج دیا جن کو زنگیوں نے پہلے ہی حملہ میں پامال کر کے صفحہ دنیا
 سے نیست و نابود کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد ہی صفار نے چند آدمیوں کو ابراہیم کے پیچھے سرخس کی جانب

بھیجا۔ اس واقعہ کی یہ ہے کہ احمد بن عبداللہ خجستانی جبال ہرات صوبہ بادغیس کا رہنے والا
 محمد بن طاہر کے ہوا خواہوں سے تھا جس وقت صفار نے نیشاپور پر قبضہ حاصل کر لیا اس وقت
 احمد بن عبداللہ خجستانی نے صفار کے دربار میں حاضر ہو کے ایک قسم کا رسوخ پیدا کیا۔ ابراہیم کے
 دو بھائی اور کئی ابو حفص نعیر۔ ابو طلحہ منصور۔ ان میں سے ابراہیم معمر و سن تھا چونکہ زمانہ جنگ
 بن زید میں جرجان میں اس نے یعقوب صفار کے ساتھ جان نثاری کے ساتھ (باقی صفحہ ۳۰۵ میں)

روانہ کیا ان لوگوں نے سرخس میں پہنچنے کے لیے تمام کر دیا۔ ابراہیم کے مارنے
جانے پر صفار نے سلسلہ میں سجستان کی جانب مراجعت کی بوقت روانگی نیشاپور
پر عزیز بن سری کو اور ہرات پر اپنے بھائی عمر بن لیث کو متعین کیا اور عمر بن لیث نے
ہرات کی نیابت طاہر بن حفص باؤغیسی کو مرحمت کی۔

چونکہ سجستانی میں فتنہ و فساد کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر وقت اس کی
رگوں میں شرارت اور بد معاشی کا خون دورہ کر رہا تھا صفار سے تو کچھ پیش نہ گئی بڑے
غور و فکر سے ایک یہ حیلہ نکالا کہ اس کے بھائی علی بن لیث کے پاس جا کے ادھر
ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگا ”تم نے یہ دیکھا کہ تمہارے دونوں بھائیوں یعقوب صفار
اور عمر بن لیث نے خراسان کو باہم تقسیم کر لیا اور تم کو ایک بالشت زمین بھی نہ دی
جس سے تم کو بھی کچھ دلچسپی ہوتی مزہ یہ ہے کہ خراسان میں تمہارے قابو کا ایک

(بقیہ صفحہ ۳۰۴) کار نمایاں کئے تھے اس وجہ سے جب یہ نیشاپور میں صفار کی خدمت میں حاضر ہوا تو صفار
نے اسکو کمال احترام سے ٹھہرایا خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا سجستانی کی آتش حسد اس سے بھڑک اٹھی
سادہ لوح ابراہیم کو یہ پٹی دی کہ صفار تمہارے ساتھ غدر کیا چاہتا ہے قرینہ یہ ہے کہ اس نے تمکو خلعت سے
سرفراز فرمایا ہے کیونکہ جس کو وہ خلعت دیتا ہے اُسکے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ بد سلوکی اور غدر کرتا ہے۔ ابراہیم
نے گھبرا کے دریافت کیا ”اچھا بتلائیے اس سے اب نجات کس طرح ملے“ سجستانی نے جواب دیا ”بہتر
یہ ہے کہ ہم اور تم۔ تمہارے بھائی عمر کے پاس بھاگ چلیں مجھے خود بھی اس خطرہ پیدا ہو رہا ہے یہ اندر
سرخس میں ابو داؤد ناجوزی کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ ابراہیم نے اس رائے سے اتفاق کیا اور اسی شب کو وقت
مقام مقرر کر کے نکل کھڑا ہوا۔ مقام موعود پر ابراہیم پہلے پہنچا پھوڑی دیر تک انتظار کر کے سرخس کی جانب
چل کھڑا ہوا۔ سجستانی بعد وائگی ابراہیم دو بار صفار میں حاضر ہوا اور یہ فقرہ دیا کہ ”جسکو اپنے خلعت سے
سرفراز فرمایا تھا وہ تو جاسوس تھا۔ آپکے حالات دریافت کر کے سرخس چلا گیا“ صفار نے اسی وقت چند آدمیوں کو ابراہیم کے
تقاب پر روانہ کیا چنانچہ سرخس میں پہنچنے کے ان لوگوں نے اسکو مار ڈالا۔ کامل بن اشیر جلد، صفحہ ۱۱۸ و ۱۱۹۔

شخص بھی نہیں جو تمہارے حقوق کی نگہداشت کرے اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے خراسان بھیج دو میں تمہارے کاموں کو نہایت مستعدی سے انجام دوں گا اور تمہارے حقوق کی بحالی نگہداشت کروں گا" علی بن لیث اس دم پٹی میں آگیا اپنے بھائی یعقوب صفار سے اس امر کی اجازت طلب کی صفار نے اجازت دیدی۔ غرض اس معقول حیلے سے صفار کے ساتھ نہ گیا جوں ہی صفار نے مع اپنے بھائی اور ہمراہیوں کے کوچ کیا نجستانی آدمیوں کو جمع کرنے میں مصروف ہوا تھوڑے دنوں میں ایک گروہ مجتمع کر کے صوبہ نیشاپور کے ایک شہر چرچھانی کر دی اور حالت غفلت میں حملہ کر کے اُس کے عامل کو نکال دیا اور اُس کی طرف بڑھا بسطام میں ایک سخت و خونی جنگ کے بعد اس پر بھی قبضہ حاصل کر لیا۔ یہ واقعات ۲۴۱ھ کے ہیں۔ بعدہ اوایل ۲۴۲ھ میں لشکر مرتب کر کے نیشاپور پر دھاوا کیا۔ نیشاپور کی گورنری پر بھی بلا جلال و قتال اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا اور بنو طاہر کی حکومت کی لوگوں کو ترغیب دینے لگا۔ بعد تسلط و تصرف رافع بن ہریرہ کو بلا بھیجا جب یہ آگیا تو اسکو اپنے لشکر کی سپہ سالاری عنایت کی اور ابو حفص یعمر سے جبکہ وہ بلخ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا یہ تحریک کی کہ آئیے ہم اور آپ متفق ہو کے اجنبی مخالفوں کو اس ملک سے نکال دیں۔ یعمر نے اس کے قول و فعل پر اعتماد نہ کیا بلخ کے محاصرہ سے دست کش ہو کے ہرات کی طرف چلا گیا اور طاہر بن حفص (عمر بن لیث کے نائب) کے ہاتھ سے نکال کے اس پر قبضہ کر لیا طاہر بن حفص انہیں واقعات میں یعمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نجستانی کو اس کی خبر لگی طیار ہو کے نورایعمر پر فوج کشی کر دی جسوقت مقابلہ پر پہنچا بجائے جنگ کے حکمت عملی سے کام لینے لگا یعمر کے ایک سپہ سالار سے جو کہ ابو طلحہ منصور سے مانوس و مالوف تھا اس شرط سے سازش کر لی کہ تم یعمر کو گرفتار کر کے میرے حوالہ کر دو میں ابو طلحہ کو تمہارے سپرد کر دوں گا چنانچہ

۱۱۸۔ اس سپہ سالار کا نام عبدالمدین بلال تھا۔ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۱۱۸۔

اس مکھرام سپہ سالار نے یعمرو کو دعوت کے بہانہ اپنے گھر میں بلایا نجستانی نے حملہ کر کے یعمرو کو گرفتار کر لیا اور پابز نجیر نیشاپور میں اپنے نائب کے پاس بھیج دیا نائب نے یعمرو کو باریات سے سبکدوش کر دیا۔

یعمرو کے ہمراہیوں نے مجتمع ہو کے ابو طلحہ کو امیر لشکر بنایا ابو طلحہ نے اس مکھرام سپہ سالار کو جس نے اپنے آقائے نعمت کے ساتھ دغا بازی کی تھی قتل کر ڈالا اور سامان سفر درست کر کے نیشاپور کی جانب کوچ کر دیا نیشاپور پہنچے حسین بن طاہر سے ملاقات ہوئی یہ اصفہان سے اس امید پر آیا تھا کہ چونکہ نجستانی بنو طاہر کی حکومت کا خواہاں ہے اسوجہ سے میرے نام کا خطبہ پڑھیں گا لیکن نجستانی کے نائب نے حسین بن طاہر کا نام خطبہ میں نہ پڑھا اگلے جمعہ کو ابو طلحہ نے نماز پڑھائی اور اس نے اس کے نام کا خطبہ پڑھا دونوں نے مجتمع ہو کے نجستانی کے عامل کو نیشاپور سے نکال کے قیام کر دیا نجستانی یہ خبر پا کے ہرات سے نیشاپور پر چڑھا آیا اس کے رکاب میں بارہ ہزار فوج تھی۔ جب نیشاپور کو تعین منزل میں باقی رہیں اپنے بھائی عباس کو بقصد حملہ پڑھنے کا حکم دیا ابو طلحہ نے نیشاپور سے نکل کے مقابلہ کیا عباس شکست کھا کے بھاگا۔ نجستانی ہزیمت کی خبر سن کے ایسے اضطراب میں ہرات کی جانب لوٹا کہ اسکو اپنے ہزیمت خوردہ بھائی کی بھی خبر نہ رہی ہرات پہنچے ہوش و حواس درست ہوئے تو عباس کی فکر ہوئی اعلان کر دیا کہ جو شخص عباس کا پتہ لگا دے گا اسکو اس قدر انعام دیا جائیگا کسی نے پتہ لگائے کا اقرار نہ کیا مگر رافع بن ہرثمہ نے عباس کی سراغ رسانی کا بیڑہ اٹھالیا ابو طلحہ کی طرف آیا امن کی درخواست کی ابو طلحہ نے امن دیدی رافع نے ابو طلحہ کے پاس جا کے اپنا اعتبار ایسا بڑھا یا کہ ابو طلحہ ہر کام میں اسے مشورہ لینے لگا۔ بعد چند خفیہ طور سے عباس کے حالات نجستانی کو لکھ بھیجے بعد ازاں ابو طلحہ نے رافع کو معہ دو سپہ سالاروں کے بیہق کی جانب خراج وصول کرنے کو بھیجا

رافع نے بیہوش ہو چکے باطمینان تمام خراج وصول کیا اور دونوں سپہ سالاروں کو حالت
 غفلت میں گرفتار کر کے نجستانی کی جانب کوچ کر دیا تھک کے ایک گانوں کے باہر
 قیام پذیر ہوا اس گانوں میں پہلے سے علی بن یحییٰ خارجی مقیم تھا۔ ابن طاہر اور ابو طلحہ
 نے رافع کی بد عہدی سے مطلع ہو کے اسی وقت دھاوا کر دیارات کے وقت اس گانوں
 میں پہنچے جہاں کہ علی بن یحییٰ خارجی مقیم تھا ابو طلحہ نے یہ خیال کر کے کہ یہ رافع ہے چھاپا
 مارا رافع موقع پا کے نو دو گیارا ہو گیا صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ رافع نہیں ہے غلطی
 سے علی بن یحییٰ پر ہاتھ صاف کیا گیا۔

رجب ۲۶۳ھ میں ابن طاہر نے اسحاق شاری کو بسرافسری ایک عظیم الشان
 فوج کے جرجان کی جانب حسن بن زید اور ولیم سے جنگ کرنے کو روانہ کیا چنانچہ
 اسحاق نے ولیم کو سختی کے ساتھ پانمال کیا مگر بعد چندے فتحندی کے غرور میں ابن
 طاہر سے باغی ہو گیا ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہو کے اسحاق کی سرکوبی کو گیا
 اسحاق کو اسکی خبر لگ گئی۔ ابن طاہر پر موقع پا کے حملہ کر دیا ابن طاہر کے اکثر ہمراہی
 کھیت رہے مجبورانہ ابن طاہر بھاگ کر نیشاپور آیا اہل نیشاپور نے کمزور تصور کر کے
 شہر سے نکال باہر کیا۔ ابن طاہر نے نیشاپور سے نکل کے ڈیرہ کوس کے فاصلہ
 قیام کیا لشکر کے فراہم کرنے اور ترتیب دینے میں مصروف ہوا جب ایک گروہ
 کثیر مجتمع ہو گیا تو اہل نیشاپور سے لڑائی چھیڑ دی۔ اثنائے جنگ میں اہل نیشاپور کی جانب
 سے ایک خط اسحاق کے نام لکھ بھیجا اس مضمون کا کہ چونکہ ابن طاہر اور ابو طلحہ نے آگے
 ہم کو گھیر لیا ہے تم دیکھتے ہی اس خط کے چلے آؤ تاکہ تم کو اپنے شہر پر قبضہ دیکے
 تمہارے ساتھ ہو کے ان دونوں سے مقابلہ کریں "دوسرا خط اسحاق کی طرف سے
 اہل نیشاپور کے نام بایں مضمون تحریر کیا۔ "میرے پیارے ہوا خواہو! میں تمہارے
 لکھنے کے مطابق تمہاری امداد کرنے کو حاضر ہوں ذرا تم مستعدی سے کام لو حدود

نیشاپور کی کامل طور سے محافظت کرو میں عنقریب تمہاری مدد کو پہنچا چاہتا ہوں۔ اس خط کے روانہ کرنے کے بعد تھوڑے سے لشکر کے ساتھ خود بھی نیشاپور کو روانہ ہو گیا جوں ہی نیشاپور کے قریب پہنچا ابو طلحہ سے ڈبھیر ہو گئی۔ اسحاق معدو سے چند آدمیوں کے ساتھ تو آیا ہی تھا مگر اپنے ہمراہیوں کے کھیت رہا ابو طلحہ نے بعد اسکے نہایت شدت سے نیشاپور کا محاصرہ کیا اہل نیشاپور نے مجبور ہو کر نجستانی سے خط و کتابت شروع کی اور اسکو اپنی حمایت کے لئے بلا بھیجا چنانچہ نجستانی ہرات سے متواتر دو شبانہ روز سفر کر کے نیشاپور آ پہنچا رات کا وقت تھا اہل نیشاپور نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا نجستانی شہر میں داخل ہو کے لشکر کی فراہمی اور محاصرہ کے توڑنے کا انتظام کرنے لگا ابو طلحہ نے یہ سن کے حسن بن زید سے امداد طلب کی حسن بن زید نے پوری مدد دی مگر کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ محاصرہ سے دست کش ہونے بلخ کی جانب واپس آیا اور ابو داؤد ناہجوزی پر محاصرہ ڈال دیا یہ واقعہ ۲۹۵ھ کا ہے۔ نیشاپور کے محاصرہ اٹھ جانے اور ابو طلحہ کے چلے جانے کے بعد نجستانی نے نیشاپور سے حسن بن زید پر چڑھائی کر دی اس وجہ سے کہ اُس نے اس کے مقابلہ میں ابو طلحہ کو مدد دی تھی اہل جرجان مجتمع ہو کے حسن بن زید کی کمک پر آئے لیکن نجستانی نے ان کو بھی نیچا دکھانے کے چالیس لاکھ درہم تاوان جنگ وصول کئے (یہ واقعہ ماہ رمضان ۲۹۵ھ کا ہے)۔

انہیں ایام میں یعقوب صفار نے وفات پائی بجائے اس کے عمرو بن لیث حکومت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوا اور نجستانی نے جرجان سے نیشاپور کی جانب مراجعت کی عمرو بن لیث نے یہ خبر پا کے ہرات سے حملہ کر دیا ایک نہایت سخت و خونریز جنگ کے بعد عمرو بن لیث کو ہزیمت اٹھانے کے نقصان کے ساتھ ہرات واپس آنا پڑا اور نجستانی نیشاپور میں ٹھہرا رہا۔

چونکہ عمرو بن لیث کو سلطان وقت کی طرف سے سرداری کی سند حاصل ہوئی تھی اس وجہ سے فقہاء اور امراء نیشاپور کا میلان طبع اس کی جانب تھا نجستانی کی آنکھوں میں یہ میلان کا نشا سا کھٹکتا تھا موقع پانے اپنے اطمینان قلب کی غرض سے ایک کو دوسرے سے لڑا دیا بعد ازاں ۲۴۶ھ میں ہرات پر فوج کشی کی عمرو بن لیث کا ایک مدت تک حصار کئے رہا مگر فتحیابی حاصل نہ ہوئی اپنے نائب کو نیشاپور میں چھوڑ کے سجستان چلا آیا۔

نجستانی کے نائب نے نیشاپور میں خود مختاری حاصل ہوتے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا اہل شہر کے ساتھ ظلم و سفاکی سے پیش آنے لگے۔ اوباش مزاجوں، آبرو باختہ اور مفسدہ پردازوں کو اس سے بہت بڑی مدد ملی دن و ہارے لوگوں کو لوٹ لینے لگے امراء اور روساء نیشاپور نے مجتمع ہو کر نجستانی کے نائب پر حملہ کر دیا ساتھ ہی اس کے عمرو بن لیث سے امداد طلب کی چنانچہ عمرو بن لیث نے ایک لشکر اہل نیشاپور کی کمک پر بھیج دیا نجستانی کا نائب گرفتار کر لیا گیا اور عمرو بن لیث کی فتحیابی کے پھر یہ کامیابی کی ہوا کے ساتھ شوخیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اسکی خیر نجستان تک پہنچی آگ بگولا ہو گیا لشکر مرتب کر کے نیشاپور آ پہنچا اور بزور تیغ عمرو بن لیث کے لشکر کو نکال کے دوبارہ قبضہ کر کے اختتام ۲۴۶ھ تک ٹھہرا رہا۔ عمرو بن لیث نے نجستانی سے تنگ آ کے ابو طلحہ کو جبکہ وہ بلخ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اپنی کمک پر بلا بھیجا چنانچہ ابو طلحہ ایک عظیم الشان فوج لے کے آیا عمرو بن لیث نے بڑی خاطر و مدارات کی بہت سامان نذر کیا اور خراسان میں اسکو چھوڑ کے سجستان کی طرف کوچ کر دیا نجستانی نے بھی یہ سن کے رخصت کا رخ کیا کیونکہ اسوقت تک رخصت عمرو بن لیث کے قبضہ میں تھا اسکا ایک گورنر یہاں موجود تھا ابو طلحہ نے آگے بڑھ کے مزاحمت کی لڑائی ہوئی ابو طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا خلم پہنچا نجستانی نے تعاقب کیا اور

علم میں پہنچے دوبارہ ہزیمیت دی ابو طلحہ سجستان کی طرف بھاگا اور خجستانی نے
طخارستان میں قیام کر دیا۔ بعد اسکے ابو طلحہ نے اپنی منتشر قوت کو پھر مجتمع کیا
اور ہر چہا طرف سے لشکر فراہم کر کے نیشاپور پر چڑھ آیا خجستانی کے اہل و عیال
کو گرفتار کر لیا جس وقت خجستانی کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اسی وقت طخارستان
سے نیشاپور کی جانب روانہ ہو گیا۔

واقعات متذکرہ بالا سے جب ابن طاہر اور اس کے ہوا خواہوں کے داؤن پر
یہ امر رسم ہو گیا کہ خجستانی کی یہ ساری کوششیں اپنے ذاتی نفع کے لئے ہیں اور اس
پر وہ میں کہ وہ ابن طاہر کی حکومت کا سکہ چلایا چاہتا ہے اپنی امارت حاصل
کرنے کی فکر میں ہے اسی وقت سے خجستانی کی بیچ کنی کا خیال استحکام کے ساتھ
دماغ میں جاگزیں ہو گیا۔ اتفاق سے اندنوں احمد بن محمد بن طاہر صوبہ خوارزم
کی گورنری پر تھا اس نے اپنے ایک نامور سپہ سالار ابو العباس نوفلی کو پانچ ہزار
جنگ آوروں کی جمعیت سے خجستانی کے استقبال کی غرض سے نیشاپور کی جانب
روانہ کیا خجستانی یہ خبر پا کے شہر سے باہر آیا اور چند لوگوں کو بطور سفیر کے نوفلی کے
پاس یہ پیام لے کے بھیجا کہ ”قتل و خونریزی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بے
تم مجھ سے جنگ نہ کرو“ نوفلی نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پٹوایا اہل نیشاپور کو
اس سے صدور جبہ کا اشتعال پیدا ہوا ہر کہہ و مہہ مجتمع ہو کے خجستانی کے پاس آئے
اور صف آرائی کی ٹھہرا دی نوفلی نے بھی اس خبر سے مطلع ہو کے اپنے لشکر کو مرتب
کیا لڑائی ہوئی بالآخر خجستانی نے نوفلی کو گرفتار کر کے مار ڈالا بعد اسکے یہ خبر پا کے
کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبد اللہ بن طاہر نے مرو میں وہاں کے رہنے والوں کے
بجبر و تعدی دو سال کا خراج پیشگی وصول کر لیا ہے براہ امیور و ایک شہانہ روف
میں طے مسافت کر کے مرو میں پہنچے ابراہیم بن محمد کو گرفتار کر لیا اور بجائے

اس کے مزو کی حکومت پر موسیٰ بلخی کو مامور کیا بعد اس کے حسین بن طاہر
وارد مرو ہوا اور اہل مرو کے ساتھ بہ حسن و سلوک پیش آیا جس سے تھوڑے
دنوں میں بیس ہزار دراہم فراہم ہو گئے۔

جس وقت خجستانی کے اہل و عیال اور والدہ نیشاپور میں گرفتار کر لئے گئے
اور اسکو طخارستان میں اسکی خبر لگی اور خبر سننے کے ساتھ نیشاپور کی طرف روانہ
ہوا اثناء راہ مقام ہرات میں ابو طلحہ کے ایک غلام نے حاضر ہو کے امن کی درخواست
کی خجستانی نے امن دیدی اور اپنی خدمت خاص میں رکھ لیا یہ امر خجستانی کے
اس غلام (راجور نامی) کو جو پہلے سے خدمت میں رہتا تھا اس درجہ شاق
گذرا کہ وہ خجستانی کے قتل کے درپے ہو گیا موقع اور وقت کا انتظار کرنے لگا اتفاقاً
یہ کہ خجستانی کا ایک دوسرا غلام قتلغ نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ یہ تھی کہ خجستانی
نے ایک روز غصہ میں آ کے اسکی ایک آنکھ نکلوالی تھی چنانچہ ان دونوں غلاموں نے
متفق ہو کے ۲۴۸ھ میں خجستانی کے شیرازہ حیات کو درہم و برہم کر ڈالا۔

خجستانی کو قتل کر کے راجور نے اسکی انگلی سے انگشتری نکال لی اور معہ چند
لوگوں کے اصبیل کی طرف گیا۔ داروغہ اصبیل کو انگشتری دکھا کے گھوڑے طیار کر لئے
اور انپر سوار ہو کے ابو طلحہ کو اس واقعہ سے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہو گئے۔
جب خجستانی حسب معمول دربار عام میں نہ آیا اور اراکین دولت سپہ سالاران
انتظار کرتے کرتے اکتا گئے تو سب کے سب باتفاق راس دریافت حال کے
غرض سے خجستانی کے خیمہ میں گئے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ سمجھوں کے ہوش حواس
جلتے رہے ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکتے لگا داروغہ اصبیل نے راجور کے
جانے اور انگشتری دکھا کے گھوڑے طیار کر لئے اور پھر اس پر سوار ہو کے جانے
کا حال بتایا دیوانہ وار اسکی تلاش کرنے لگے لیکن اسوقت نہ پایا بعد چند دنوں کے

اتفاق وقت سے ہاتھ آگیا مار ڈالا پھر سب نے متفق ہو کے رافع بن ہرثمہ کے سر پر امارت کی ٹوپی رکھ دی اس کے حالات ہم آئندہ بیان کریں گے۔

۲۶۳ھ میں صفار نے اہواز کا رخ کیا ان دنوں احمد بن
کیتوتہ والی اہواز جو مسرور بلخی کا سپہ سالار تھا لشکر میں

مقیم تھا صفار کی آمد کی خبر پانچے لشکر سے کوچ کر گیا صفار نے جند ساہور میں پہنچنے پر
اڑا کر دیا۔ سلطانی فوجیں جو اسکے قرب و جوار میں تھیں صفار کے خوف سے بھاگ
گئیں صفار نے بلامزا حمت غیرے جند ساہور اور اس کے مضافات پر قبضہ کر کے

اپنے ہمراہیوں میں سے خضر بن عنبر نامی ایک سپہ سالار کو اہواز کی جانب روانہ
کیا جوں ہی خضر اہواز کے قریب پہنچا علی بن ابان مع اپنے کالی پلٹوں کے
اہواز چھوڑ کے نہر سدرہ میں جا کے قیام پذیر ہوا اور خضر نے باطینان تمام اہواز میں
داخل ہو کے اپنی فتحیابی کا جھنڈا گاڑ دیا چند دنوں تک خضر اور علی بن ابان کے
ہمراہیوں سے جنگ کی چھیر چھاڑ چلتی رہی تا آنکہ علی بن ابان اپنی فوج کو مرتب
کر کے اہواز پر چڑھ آیا۔ خضر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کثیر اس واقعہ میں کام آگئی
بہت سامان و اسباب لوٹ لیا گیا خضر سپاہیوں کے لشکر گاہ مکرم پہنچا۔ علی بن ابان
نے اہواز میں داخل ہو کے جس قدر خضر کا اسباب و مال تھا سب پر قبضہ کر لیا اور
جس جس پر خضر کی ہمدردی یا ہمراہی کا اشتباہ ہوا ان سمجھوں کو گرفتار کر کے اہواز
کے باہر ایک مکان میں قید کر دیا بعد ازاں اہواز سے واپس ہو کے نہر سدرہ پر قیام
کر دیا اس اثنا میں صفار نے خضر کی کمک پر فوجیں روانہ کیں مگر ساتھ ہی اسکے
زنگیوں سے جنگ کرنے کی مانعیت اور اہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی
علی بن ابان نے اس شرط کو منظور نہ کیا جو کچھ اہواز میں از قسم رسد و غلہ تھا سب
کو اکٹھا لایا۔ فریقین میں مصالحت ہو گئی۔

زنکیوں کا

واسطہ پر قبضہ

اغرتبش اور سلیمان بن جامع کی لڑائی اور سلیمان بن جامع کی

فتحیابی کے حالات تم اوپر پڑھ آئے ہو پس جب سلیمان بن

جامع اپنا دلی مقصود حاصل کر چکا تو چند امور میں مشورہ کرنے کے غرض سے غنیت

کی جانب کوچ کیا اتفاق سے تکین بخاری کے لشکر کی طرف ہو کر گذرا تکین ان دنوں

بیرزود میں مقیم تھا سلیمان جس وقت بیرزود کے قریب پہنچا جانی نے رائے

دی کہ چونکہ لشکر روزانہ جنگ سے پریشان اور تہک گیا ہے بہتر یہ ہے کہ تم اس

مقام پر سامنے کے ٹیلے کے پیچھے چھپ رہو میں تھوڑی سی فوج لے کے نہر کبریٰ

سے لشکر مخالف پر حملہ آور ہوتا ہوں اور لڑتا ہوا پیچھے ہٹوں گا جس وقت اس

ٹیلے سے لشکر مخالف جوش فتمندی میں آگے بڑھے پس پشت سے تم حملہ کر کے

اپنا مطلب دلی حاصل کر لینا سلیمان نے اس رائے کو استحسان کی نظر سے دیکھ کے

اسی پر عمل درآمد کیا تکین کا لشکر شکست کھا کے اپنے لشکر گاہ میں جا چھپا میدان

جنگ سے سلیمان اپنے فرود گاہ پر واپس آیات کے وقت پھر لشکر مرتب کر کے

تکین کے لشکر پر شیخون مارا تکین کے تمام دن کے تھکے ہوئے سپاہی مقابلہ نکر سکے

زنکیوں نے جی کھول کے تکین کے لشکر گاہ کو تخت و تاراج کرنا شروع کیا

تکین اپنا لشکر گاہ چھوڑ کے دور جا کھڑا ہوا اور کمال اطمینان سے اپنے خاص

سپہ سالاروں اور خادموں کو جمع کر کے سلیمان پر حملہ کیا سلیمان کے ہمراہی

جو چند گھنٹہ پیشتر سے لوٹنے میں مصروف تھے اپنے کو سنبھال نہ سکے سپاہیوں کے

سلیمان کو ان کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب اس وقت تکین کو ایک گونہ اطمینان

ہو چلا تھا۔ سلیمان کے ہمراہی لوٹے ہوئے مال و اسباب کو چھوڑ کے بھاگ گئے

تھے جس کو تکین کے لشکر می دیکھی کے ساتھ فراہم کر رہے تھے اس اثنا میں سلیمان

نے اپنے لشکر کو پھر مرتب کیا اور مختلف و متعدد جہات سے براہ وریا و خشکی حملہ آور

ہو اتکین کے قدم اس حملہ میں ڈگ گئے اور شکست کھا کے ایسا بھاگا کہ پھر دوبارہ
 لوٹ کے حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ زنگیوں نے خاطر خواہ اسکے لشکر گاہ کو لوٹا۔
 ہزاروں کا مال و اسباب ہاتھ آیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لشکر کا چارج
 جنائی کو دیا اور خود اپنے سردار خبیت کی طرف روانہ ہو گیا یہ واقعات ۲۶۳ھ کے ہیں۔
 بعد روانگی سلیمان جنائی فراہمی رسد و غلہ کی جانب توجہ کی قرب و جوار کے دیہات
 میں لشکر لئے ہوئے گیا۔ اتفاق سے جعلان نامی ایک سپہ سالار شاہی اس طرف
 آیا ہوا تھا ان واقعات کی خبر پا کے جنائی سے بھر گیا جنائی جو اب ترکی بہ ترکی دینے پر
 مستعد ہوا اڑھائی ہوئی مگر جنائی کو نقصان اٹھانے کے میدان جنگ سے واپس آنا پڑا
 جعلان نے اشارہ گیر و دار میں جنائی کی تلوار چھین لی۔ بعد اس کے شاہی لشکر کے
 نامور سپہ سالاروں منجور اور محمد بن علی بن حبیب نے زنگیوں پر حملہ کیا اور حجاج تک
 بڑھ آئے والی حجاجیہ نے خبیت کو ان واقعات سے مطلع کیا خبیت نے سلیمان
 کو اس مہم پر روانہ کیا چنانچہ سلیمان باظہار جنگ جعلان مقام طہشا میں وارد ہوا
 جنائی نے حاضر ہو کے کل حالات سے مطلع کیا سلیمان نے اسی وقت جنائی کو
 مقدمتہ الجیش پر متعین کر کے جعلان کے مقابلہ پر چھپر چھاڑ ٹھہرے رہنے کی
 ہدایت کی اور خود بقیہ فوج لے کے محمد بن علی پر حملہ آور ہوا ایک خونریز جنگ کے
 بعد محمد بن علی شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آ گیا
 سلیمان نے محمد بن علی کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا سیکڑوں ہزاروں کا مال ہاتھ
 آیا (یہ واقعہ ماہ رجب ۲۶۲ھ کا ہے) بعد ازاں ماہ شعبان سنہ مذکور میں
 قصبہ حسان پر چڑھائی کی یہاں پر ایک سپہ سالار حسن بن خماز نامین رہتا تھا تھوڑی
 سی فوج بھی محافظت کے خیال سے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیمان نے اسکو
 بھی شکست دیکے حسان کو لوٹ لیا۔ اور مکانات کو جلا کے خاک و سیاہ کر دیا۔

اس واقعہ سے سلیمان کی جرات بڑھ گئی قتل و غارت کی غرض سے اپنے لشکر کو ہر چہا طرف دریا اور خشکی میں پھیلا دیا۔ بعض دستہ فوج سے جعلان نے تعرض کیا اور بزور تیغ ان کی کامیابی کا سدراہ ہوا بعدہ سلیمان نے رصافہ کا رخ کیا اور اس سپہ سالار پر جو رصافہ میں رہتا تھا حالت غفلت میں دھاوا کر دیا۔ رصافہ کا سپہ سالار اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کے بھاگ گیا سلیمان اور اس کے ہمراہیوں نے رصافہ میں داخل ہو کے جس قدر اسباب و مال لوٹ سکے لوٹ لیا۔ باقی میں آگ لگا دی قتل و خوریزی کو عام طور سے مباح کر دیا۔ جب اسکے اور اسکے لشکریوں کے ہاتھ قتل و غارت سے تھک گئے اس وقت شہر غبیت کی جانب مراجعت کی۔

سلیمان کی مراجعت پر مطرب بن جامع نے زنگیوں سے میدان خالی دیکھ دیکھ کے حجاجیہ پر چڑھائی کر دی چونکہ حجاجیہ میں اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مطرب کے مزاحم ہوتا اسوجہ سے مطرب نے حجاجیہ کو لوٹ کے اپنے جلے ہوئے دل کے آبلے توڑے ایک گروہ کثیر کو قید کر لیا از انجملہ قاضی سلیمان بھی تھا اسکو گرفتار کر کے واسط بھیج دیا۔ بعد اسکے طہشا کی جانب بڑھا۔ جنابی سلیمان بن جامع کو یہ حالات لکھ بھیجے چنانچہ ۲ ذی الحجہ ۲۶۳ھ کو سلیمان اپنا لشکر لے ہوئے آپونچا اس اشار میں احمد بن کثیر نے بھی کوفہ اور حنبلاء ہوتا ہوا یربیدہ پہونچ گیا جعلان نے نہایت تیزی اور عجلت سے اس صوبہ کی حفاظت کا انتظام کیا جا بجا سرحد پر فوجیں متعین کر دیں تکین نے سلیمان کے لشکر سے لڑائی چھیڑ دی اور اسکے سپہ سالاروں کے ایک گروہ کو شہرت مر چکھا کے روزانہ جنگ سے ہمیشہ کے لئے نجات دیدی انہیں دونوں موفوق نے شہروا کی سندھارت محمد بن مولد کو مرحمت فرمائی ایک عظیم الشان کثیر التعداد لشکر لے ہوئے

۱۲۵۔ یہ وہی شخص ہے جو رصافہ کا سپہ سالار تھا جس پر سلیمان نے اس سے پیشتر حملہ کیا تھا۔
ماخوذ از کامل ابن اثیر جلد ۷ صفحہ ۱۲۵۔

وارو واسط ہوا۔ سلیمان بن جامع نے اپنے سردار خبیت سے امداد طلب کی خبیت نے خلیل بن ابان کو ڈیڑھ ہزار سواروں کی جمعیت سے سلیمان کی کمک پر روانہ کیا سلیمان کے قوائے مضبوطی میں جنگ کرنے کی صلاحیت نہ تھی اس تازہ دم فوج کے آجانے سے مضبوط و توانا ہو گئے لشکر مرتب کر کے ابن مولد پر فوج کشی کر دی ابن مولد کو ہزیمت ہوئی سلیمان نے واسط میں گھس کے قتل عام کا دروازہ کھولا یا ہزار ہا آدمی مارے گئے بازاریں لوٹ لی گئیں مکانات جلا دئے گئے۔ بجور بخاری اس وقت واسط ہی میں تھا اس قتل و خونریزی کا خوفناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا اہل واسط کو بچانے کے غرض سے صبح سے شام تک لڑتا رہا بالآخر قریب مغرب مارا گیا پھر کیا تھا رہا سہا جو کچھ تھا وہ بھی فتح مند گروہ کے نذر ہو گیا۔

واسط کے ویران کرنے کے بعد براہیم و اشناس کے خیال سے سلیمان نے حنبلاہ کی جانب مراجعت کی نوٹے راتیں یہاں مقیم رہا۔

ابن طولون کا شام پر قبضہ

دمشق کی گورنری پر ترکی سپہ سالاروں میں سے ماجور نامی ایک سپہ سالار عہد خلافت معتد میں مامور تھا ۶۱۷ھ کے دور میں اس نے وفات پائی تب اسکے بیٹے نے بجائے اپنے باپ کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ احمد بن طولون نے یہ خبر پانچ مصر کی نیابت اپنے بیٹے عباس کو دی اور بقصد توسیع دائرہ حکومت و قبضہ دمشق مصر سے روانہ ہوا۔ قریب دمشق پہنچے ابن ماجور کو لکھا ”مجھے بارگاہ خلافت سے شام کا صوبہ عنایت ہوا ہے تم کو کیا عذر ہے؟“ ابن ماجور نے بے عذری کے ساتھ اطاعت قبول کر لی اور رملہ میں آ کے ابن طولون سے نیاز حاصل کیا ابن طولون اسکو رملہ پر مامور کر کے دمشق پہنچا اور اس پر کامیابی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے سپہ سالاران دمشق کو انکے عہد و نپر بحال و قائم رکھا دو چار روز قیام کر کے حمص احماة اور حلب کی طرف گیا اور اونپر

بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑوئے بعد اسکے انطاکیہ اور طرسوس کی طمع و امنگی
 ہوئی ان دنوں ان دونوں صوبوں پر سیاطویل نامی ایک ترکی سپہ سالار مامور تھا ابن
 طولون نے بشرط اطاعت بحال رکھنے کا پیام بھیجا سیاطویل نے انکاری جواب دیا
 ابن طولون نے چڑھائی کر دی چونکہ اہل انطاکیہ کے ساتھ سیاطویل کے برتاؤ اچھے نہ تھے
 ان لوگوں میں سے کسی نے ابن طولون کو شہر پناہ کے حالات خفیہ سے آگاہ کر دیا ابن
 طولون نے شہر پر محاصرہ ڈال کے ہر چہار طرف منجیقین نصب کر میں سیاطویل بھی فوجیں
 آراستہ کر کے شہر پناہ کے فصیلوں سے جواب ترکی بہ ترکی دینے لگا بالآخر ابن طولون نے
 شہر پناہ کے ایک خفیہ راستہ سے شہر میں گھس کے قتل عام شروع کر دیا سیاطویل اسی
 عام خونریزی میں مارا گیا۔ پھر کیا تھا اہل شہر نے اطاعت کی گردنیں جھکادیں بعد ازاں
 طرسوس کا رخ کیا اور اسپر بھی قبضہ حاصل کر کے بقصد جہاد قیام کر دیا ابن طولون کے قیام
 کرنے کی وجہ سے گرانی شروع ہو گئی۔ اہل شہر نے حاضر ہو کے عرض کیا۔ ”آپ کے لشکر
 کے قیام کرنے کی وجہ سے شہر میں ہر چیزیں گراں ہو گئی ہیں۔ ہملوگوں کو اس سے بے حد
 تکلیف ہو رہی ہے بڑی عنایت ہوگی اگر آپ کا لشکر یہاں سے کوچ کر جاتا اور اگر یہاں
 کی آب و ہوا مرغوب خاطر ہے تو فیہا تھوڑے آدمیوں کو ہمراہ رکاب رکھنے باقی کوچ
 فرما دیجئے“ ابن طولون نے اس درخواست کو منظور کر لیا اگلے دن بقصد شام کوچ
 کر دیا حران پہنچا حران کی زمام حکومت محمد بن اتامش کے قبضہ میں تھی۔ محمد
 بن اتامش برسر مقابلہ آیا ابن طولون نے اسکو بھی ہزیمت دیکے حران پر قبضہ
 حاصل کر لیا۔ اس اثنا میں یہ خبر لگی کہ اسکے بیٹے عباس نے مصر میں برخلاف اسکے
 آتش بغاوت مشتعل کر دی ہے اور خزانہ میں جو کچھ تھا اسکو لے کے رقبہ کی جانب
 ہو گیا ہے۔ ابن طولون کے کان پر اس خبر سے جوں تک نہ رنگی کمال اطمینان سے
 بلاد شامیہ کا انتظام کرتا رہا۔ سرحدی مقامات کی حفاظت پر فوجیں متعین کیں۔

حران میں ایک چھاؤنی قائم کی۔ رقبہ کی محافظت پر اپنے غلام لولو کو معہ ایک لشکر
 کے مامور کیا۔ رفتہ رفتہ محمد بن اتامش کی ہزیمت کی خبر موسیٰ بن اتامش تک پہنچی
 ہمدردی اخوت کا خون جوش میں آگیا ایک لشکر مرتب کر کے حران پر دھاوا کر دیا
 ان دنوں حران میں ابن طولون کی طرف سے احمد بن جیفونہ مامور تھا موسیٰ کی خبر
 پانے کے متردد ہوا ابوالاعز نامی (یہ اعرابی تھا) ایک شخص نے گزارش کی "امیر کو
 موسیٰ کے آنے سے فضول تردد ہو رہا ہے وہ ایک جلد باز شخص ہے ارشاد ہو
 تو میں اسکو زندہ گرفتار کر لاؤں مگر شرط یہ ہے کہ مجھے بیس آدمی مرحمت فرمائیں" احمد
 نے خوشی کے لہجہ میں کہا "تم بشوق تمام میرے لشکر سے بیس آدمی چن لو میں
 خوشی سے اجازت دیتا ہوں" ابوالاعز نے اسی وقت بیس آدمی لشکر سے منتخب کئے
 اور ان کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے موسیٰ کے لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور موسیٰ
 کے لشکر کے قریب پہنچے انہیں بیس آدمیوں میں سے چند آدمیوں کو کمینگاہ میں
 بٹھادیا اور خود معہ بقیہ آدمیوں کے بلباس اعراب۔ موسیٰ کے لشکر گاہ میں داخل ہوا
 موسیٰ کے خیمے کے پاس چند گھوڑے بندھے ہوئے تھے پہنچتے ہی انکو گھول دیا شو
 وغل مچا ہر چہا طرف سے سپاہی دوڑ پڑے موسیٰ ابھی شور و غوغا سن کے نکل آیا
 اور معہ چند سپاہیوں کے ابوالاعز پر حملہ آور ہوا ابوالاعز معہ اپنے ہمراہیوں کے
 ان کے حملوں سے اپنے کو بچاتا ہوا بھاگتا آئے اُس مقام سے گذر گیا جہاں تک اسکے
 ہمراہی کمینگاہ میں بیٹھے تھے موسیٰ تعاقب کرنے والوں کے آگے آگے گھوڑا بڑھا
 ہوئے دوڑا آ رہا تھا جوں ہی اسکا گذر کمینگاہ سے ہوا ابوالاعز کے ہمراہی نکل
 پڑے اور موسیٰ کے ہمراہی ان معدودے چند کے اچانک نکل آنے سے بھی
 کھڑے ہوئے جو پہلے سے کمینگاہ میں چھپے ہوئے تھے، اور ابوالاعز بھی اپنے
 ہمراہیوں کے ٹوٹ پڑا اور موسیٰ کو گرفتار کر کے احمد بن جیفونہ کے روبرو حاضر کیا

احمد نے اُس کو ابن طولون کے پاس بھیج دیا ابن طولون نے اُسکو رہا کر دیا اور معہ
اپنی رکاب کی فوج کے مصر کی جانب رجعت کر دی۔ یہ واقعات سنہ ۲۶۶ھ کے ہیں۔

سنہ ۲۶۵ھ میں سلیمان بن جامع نے ایک نہر سواد کو فہ تک کھدائی
پھر سر اٹھانا تاکہ آسانی و سہولیت کے ساتھ اُس اطراف میں قتل و غارت

سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے احمد بن کیتونہ (موفق کا گورنر) صبلار میں رہتا تھا
اس نے اس سے مطلع ہو کر ایک روز سلیمان کے لشکر پر شیخون مارا تقریباً چالیس
سرداروں کو تہ تیغ کیا۔ متعدد کشتیوں کو چلا دیا۔ عام سپاہی اکثر قتل یا گرفتار ہو گئے
سلیمان شکست کھا کے طہشا پہنچا اور اپنی شکستہ حالی کو درست کر کے اس شیخون
کے بدلہ لینے کو نعمانیہ پر چڑھائی کر دی اہل نعمانیہ کو اسکی اطلاع نہ تھی نہایت بے رحمی
کے ساتھ قتل کئے گئے باقی ماندہ جان بچا کے جبراً یا چلے گئے۔ اہل سواد نے یہ
سن کے بخوف جان و آبرو بغداد کی جانب کوچ کر دیا۔

انہیں دنوں علی بن ابان نے تشر پر فوجبشی کی اور اُسکو جا گھیرا۔ موفق نے
اپنی جانب سے صوبہ اہواز پر سرور بلجی کو حکومت عنایت کی تھی اور اس نے اپنی
طرف سے تکین بخاری کو مقرر کیا۔ تکین نے یہ خبر پا کر تشر کی حمایت پر فوجیں متب
کیں اور ایسی حالت میں تشر جا پہنچا جبکہ اہل تشر نے علی بن ابان کے حملوں سے
تنگ آ کے شہر سپرد کر دینے کا قصد کر لیا تھا مگر تکین کے آجانے سے قوی دل ہو گئے
اور شہر کی فصیلوں سے اُن لوگوں نے اور باہر سے تکین کے لشکر نے زنگیوں کے
لشکر پر حملہ کیا زنگیوں کا لشکر اس دو طرفہ حملہ سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا ایک گروہ
کثیران کا اس معرکہ میں کام آ گیا۔ تکین نے خاتمہ جنگ کے بعد تشر میں قیام کیا
اور علی بن ابان نے اپنے سپہ سالاروں کی ایک جماعت کو پل میں پڑاؤ کرنے کا حکم
دیا۔ مخبروں نے تکین تک یہ خبر پہنچا دی تکین نے ایک دستہ فوج مرتب کر کے

اسی وقت دھاوا کر دیارات کا وقت تھا سپہ سالاران علی بن ابان کی مجلس میں بنیڈکا دور چل رہا تھا خوبصورت خوبصورت لونڈیاں گاجارہی تھیں عیش و عشرت کا رنگ جما ہوا تھا اس اشار میں تکین نے پہونچکے چھاپہ مارا سپہ سالاران علی بن ابان کا ایک وہ کھیت رہا۔ باقی ماندہ بھاگ کے علی بن ابان کے پاس پہونچے۔ تکین نے تعاقب کیا علی بن ابان یہ سن کے بلا جدال و قتال بھاگ گیا۔

بعد اس واقعہ کے علی بن ابان نے تکین سے مصاحبت کی بابت خط و کتابت شروع کی تکین نے قتل و خونریزی کے خیال سے منظور کر لیا دونوں میں مصاحبت ہو گئی۔ رفتہ رفتہ مسرور تک یہ خبر پہونچی۔ طرح طرح کے خیالات تکین کی جانب سے قائم ہونے لگے بالآخر صبر نہ ہو سکا ڈیل کوچ کرتا ہوا تکین تک پہونچ گیا اور اس کو اس الزام میں کہ زنگیوں سے سازش کر لی ہے گرفتار کر کے زیر نگرانی ابراہیم بن جملان کے قید کر دیا تکین کے گرفتار ہوتے ہی تکین کے ہمراہی منتشر ہو گئے چند لوگ زنگیوں سے جا ملے۔ ایک گروہ محمد بن عبدالمدکروی کے پاس چلا گیا مسرور نے اس واقعہ سے مطلع ہو کے امن کا اعلان کر دیا اکثر لوٹ آئے۔

یاقوت صفار کا انتقال | نویں شوال ۲۶۵ھ کو یعقوب صفار بانی دولت صفاریہ نے (مقام جند ساپور میں بعارضہ قویح) وفات پائی

عمر و کی حکومت

اور قبل از وفات مقام رنج و زابلستان (یعنی غزنہ) کو بزور تیغ فتح کر لیا تھا اس کا دائرہ حکومت بہت وسیع تھا اس کے آخر زمانہ میں خلیفہ معتمد کا میدان اسکی جانب ہو گیا تھا حکومت فارس دینے کا وعدہ کیا تھا مگر یہ فرمان اس وقت صفار کے پاس پہونچا جبکہ اپنے خالق اکبر سے لو لگائے ہوئے ملک الموت کے باتیں کر رہا تھا۔ صفار کے مرنے کے بعد عمرو بن لیث اس کا جانشین ہوا اور بار خلافت میں نفع من

۱۲۹- لہ کامل ابن اثیر جلد ۱ صفحہ ۱۲۹-

اظہار اطاعت و فرمانبرداری عرضی روانہ کی خلیفہ متعدد نے خوش ہو کے سند گورنری خراسان، اصفہان، سندھ، سجستان، سرمن رابے اور پولیس بغداد کی انفری عتات کی اور سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ بھی روانہ فرمائی۔

جنگ ننگیان
واغرمش

سلیمان بن جامع اور اغرمش کی لڑائیوں کے حالات اور بعد اسکے تکین و جملان، مطربن جامع و احمد بن کبیتونہ کے واقعات اور شہر واسط پر اس کے متصرف ہو جانے کی کیفیت ہم اور لکھا آئے ہیں۔ تکین بخاری کی گرفتاری کے بعد اغرمش کو ۲۶۶ھ میں ابوازی کی حکومت عطا ہوئی۔ چنانچہ اغرمش ماہ رمضان المبارک ۲۶۶ھ میں وارد تشر ہوا۔ مطربن جامع بھی اسکے ہمراہ تھا تشر میں پونچکے علی ابن ابان کے ان سپہ سالاروں اور ہمراہیوں کو جو تشر میں محبوس تھے قید حیات سے آزاد کر کے لشکر گاہ مکرم کی جانب کوچ کر دیا علی بن ابان بھی یہ خبر پا کے مکرم میں آگیا دونوں حریت گتھے گئے صبح سے دوپہر تک گھمسان لڑائی ہوتی رہی بعد دوپہر اغرمش نے زنگیوں کی کثرت اور اپنی ناگامی کی مجسم صورت دیکھ کے لڑائی موقوف کر دی علی بن ابان نے ابوازی کی جانب مراجعت کی اور اغرمش بقصد غلیل بن ابان اربل کا پل عبور کرنے کو بڑھا۔ غلیل نے اپنے بھائی علی کو اس سے مطلع کیا علی نے اپنے ہمراہیوں کو دو حصہ پر تقسیم کر کے ایک حصہ کو ابوازی میں چھوڑا اور دوسرے حصہ کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی اس کے بقیہ ہمراہی بھی اغرمش کے خوف سے ابوازی چھوڑ کے نہر سد رہ پلے آئے علی اور اغرمش سے نہر اربل پر تمام دن لڑائی ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ جس سے دونوں حریت کے حوصلوں کا قطعی فیصلہ ہو جاتا پیدا نہ ہوا۔ لڑائی ختم ہونے پر علی پھر ابوازی کی جانب لوٹ آیا ابوازی اس کے آنیسے پیشتر اس کے ہمراہیوں سے خالی ہو چکا تھا ان لوگوں کو واپس لانی کے عرض سے

چند آدمیوں کو روانہ کیا لیکن وہ لوگ واپس نہ ہوئے۔ بدرجہ مجبوری خود بھی اُن لوگوں سے جا ملا۔ اس اشارہ میں ان واقعات سے مطلع ہو کے اغرتمش آپہنچا لڑائی شروع ہو گئی۔ مطربن جامع معہ چند نامی نامی سپہ سالاروں کے نار ا گیا دوسرے دن پھر اسی زور و شور سے لڑائی شروع ہوئی شام تک گھمسان لڑائی ہوتی رہی اگلے دن اتفاق وقت سے ایک تازہ دم فوج علی بن ابان کی کمک کو آگئی (اس فوج کو خبیت نے روانہ کیا تھا) اغرتمش نے کثرت فوج سے خون کھا کے اپنے حریف کے لئے میدان جنگ کو برائے چندے خالی کر دیا۔

چونکہ ایک مدت سے محمد بن عبید اللہ (یہ رامہرز کا والی تھا) اور علی بن ابان سے اُن بن چلی آ رہی تھی اسوجہ سے آئندہ خطرات کو پیش نظر کر کے محمد نے اٹکلانی بن خبیت سے درخواست کی کہ مجھے علی بن ابان کی ماتحتی سے نکال کے اپنے حاشیہ نشینوں کے زمرہ میں داخل کر لیجئے۔ مگر محمد کی یہ تدبیر برعکس ہو گئی اٹکلانی کو اس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اپنے باپ (خبیت) سے محمد سے حساب نہمی اور خرانج طلب کرنے کی اجازت حاصل کر کے علی بن ابان کو اس خدمت پر مامور کیا محمد بن عبید اللہ نے بجیلہ و حوالہ ٹالنے کی کوشش کی علی بن ابان زنگیوں کی فوج لئے ہوئے رامہرز کے قریب پہنچ گیا محمد نے یہ خبر پا کے رامہرز کو خالی کر دیا افضل نے سرحد پر جا کے پناہ گزین ہو ا علی اور اس کے لشکریوں نے رامہرز میں داخل ہو کے خاطر خواہ ٹوٹا بعد ازاں محمد نے علی سے خط و کتابت کر کے دو لاکھ دراہم پر مصالحت کر لی۔ علی نے رامہرز کو واکذاشت کر دیا۔

اس مصالحت کے چند دنوں بعد محمد نے علی سے بمقابلہ اگر امداد طلب کی اس شرط پر کہ کل مال غنیمت کا مالک علی ہوگا۔ علی کو طمع و اسنگیر ہوئی۔ محمد بن عبید اللہ سے چند آدمیوں کو بطور ضمانت کے طلب کیا محمد بن عبید اللہ نے اسکو بجیلہ و حوالہ

ٹالکے ایک علفنامہ تحریر کر کے بھیج دیا علی نے مجلہ نامی ایک شخص کو اس مہم کا سردار
 بنا کے ایک لشکر کثیر التعداد کے ساتھ محمد بن عبید اللہ کے پاس بھیج دیا محمد بن عبید اللہ
 نے ہمراہی اس لشکر کے اکراد پر حملہ کیا جس وقت دونوں فریق میں گھمسان لڑائی
 ہونے لگی محمد کے ہمراہیوں نے تصدراً مورچہ عالی کر دیا اکراد نے سختی سے زنگیوں
 پر حملہ کیا ایک گروہ کثیر زنگیوں کا کام آگیا بچہ نقصان اٹھانے کے واپس ہوئے محمد نے
 چند دستہ فوج کو بظاہر ان لوگوں کے روکنے پر مامور کیا مگر خفیہ طور سے یہ ہدایت
 کر دی کہ موقع ملے تو تم بھی ان کجخت سیاہ بختوں (زنگیوں) پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا
 چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا اکراد کے ٹوٹنے سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا اسکو محمد کے
 لشکریوں نے لوٹ لیا علی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کے محمد کو ایک ڈانٹ کا خط
 تحریر کیا محمد نے براہ تعلق و چالپوسی معذرت کی ساتھ ہی اسکے اُنکے بہت سے متھیانے
 اور جانور بھی واپس کر دیئے مگر بایں ہمہ محمد کے خائف دل کو تسلی نہ ہوئی تو خبیثت
 کے بعض مصاحبوں سے اس معاملہ میں تحریک کی اور مصالحت کرا دینے کے
 معاوضہ میں بہت سامان و زر دینے کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے خبیثت اور علی
 کو کہہ سن کے راضی کر دیا بشرط یہ قرار پائی کہ محمد اپنے ممالک مقبوضہ میں خبیثت کی
 حکومت و دولت کے قائم ہونے کی ترغیب دیتا رہے۔ محمد نے بطیب خاطر اس
 شرط کو منظور کر لیا۔ باہم صفائی اور مصالحت ہو گئی۔

بعد اسکے جب علی ابن ابان کو محمد کی جانب سے ایک اطمینانی صورت پیدا
 ہو گئی تو موثر پر چڑھائی کر دی بے شمار آلات حصار اپنے ہمراہ لے گیا۔ مسرور بلخی
 ان دنوں صوبہ اہواز میں تھا یہ خبر اپنے کے موت کی حمایت کو اپنا لشکر لے ہوئے پہنچ گیا
 علی اور مسرور سے لڑائی بٹھن گئی بالآخر علی شکست کھانے کے جس قدر اسباب اپنے
 ہمراہ لایا تھا سب کو چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا ایک گروہ کثیر زنگیوں کا کام آگیا

ہنوز اس شکست سے علی کی شکستگی خاطر رفع نہ ہوئی تھی کہ موفق کے آنے کی خبر گرم
کانوں تک پہنچے۔ لگی۔

ابن موفق کی
نمایاں کارگذاری

آئے دن زنگیوں کی کامیابی اور واسط میں غلبہ اور قتل و غارت
سے متنبہ ہو کے موفق نے اپنے بیٹے ابو العباس کو زنگیوں کی
نہم پر روانہ کیا (ابو العباس وہ شخص ہے جو آئندہ خلیفہ معتد کے بعد سریر خلافت پر متمکن ہو گا۔
اور اسلامی دنیا میں المعتضد باللہ کے لقب سے مخاطب کیا جائے گا)۔

ماہ ربیع الثانی ۲۴۶ھ میں دس ہزار فوج پیادہ و سوار کی جمعیت زنگیوں
کی طرف ابو العباس نے رخ کیا براہ دریا بھی جنگی کشتیوں کا ایک بیڑہ روانہ کیا گیا
جسکی افسری پر ابو حمزہ نصیر مامور تھا رفتہ رفتہ یہ لشکر دیر عاقول میں وارد ہوا ابو حمزہ
نصیر نے ابو العباس کو اطلاع دی کہ زنگیوں کے مقدمتہ الجیش پر چٹانی ہے۔ اس وقت
وہ جزیرہ میں قریب بروردیا کے مقیم ہے اور سلیمان بن موسیٰ شعرائی ایک فوج لئے
ہوئے ان کی کمک کو معرابان میں پڑا ہوا ہے ابو العباس نے یہ خبر پا کے کوچ کر دیا
زنگیوں نے اس ہم کے لئے بیحد فوجیں فراہم کی تھیں سن رکھا تھا کہ ابو العباس ایک
نوعمر جوان ہے جس کو معرکہ آرائی میں مطلق دخل نہیں ہے اس سے یہ خیال قائم کر لیا
تھا کہ اولاً کثرت فوج سے خائف ہو کے برسر مقابلہ نہ آئیگا اور ثانیاً اگر ابھی گیا تو
پہلے ہی حملہ میں واپس آئے کھٹے ہو جائینگے کہ پھر کبھی لڑائی کا حوصلہ نہ ہوگا۔ غرض ابو العباس
نے مقام صلح میں پہنچنے کے جا سوسوں کو فریق مخالفت کے خبر لائے۔ پر مامور کیا۔ پھر
ویر بعد جا سوسوں نے حاضر ہو کے ظاہر کیا کہ زنگیوں کا لشکر بھی آگیا ہے اول حصہ
لشکر کا صلح کے اس کنارے پر ہے اور آخری حصہ لشکر نشیبی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔
ابو العباس نے معمولی راستہ چھوڑ کے غیر متعارف راہ سے نصر کی طرف روانہ ہوا اٹنا
راہ میں زنگیوں کے مقدمتہ الجیش سے ٹھہرے ہو گئے پہلے تو ابو العباس نے اپنے پر زور

حملہ سے زنگیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ مگر پھر مصلحتاً خود پیچھے ہٹا۔ زنگیوں کے دل اس سے بڑھے بڑھے بڑھ کے حملے کرنے لگے ابو العباس نے للکار کے کہا "نصیر! کیا دیکھتا ہے ان کتوں کو لے اب آگے نہ بڑھنے پائیں" نصیر اس آواز کو سن کے ایک دوسرے جانب سے جس طرف زنگیوں کا خیال وہ ہم بھی نہ گیا تھا ٹڈی دل لشکر لے کر پہنچا۔ زنگیوں کے ہوش و حواس گم ہو گئے کچھ بن نہ پڑا نہ کھیٹ بھاگے ابو العباس نے رومال کے اشارہ سے جنگی کشتیوں کی فوج کو بھی حملہ کا حکم دیا۔ پائے رفتن نہ جا سکے ماندن کا مضمون ہو گیا ہر جہاں طرف کے حملہ سے گھبرا کے جس طرف راستہ پایا بھاگا کھڑے ہوئے۔ چھہ کو س تک شاہی لشکر نے تعاقب کیا جو کچھ ان کے لشکر گاہ میں تھا لوٹ لیا یہ پہلی فتح تھی جو شاہی لشکر کو زنگیوں کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔

اس جنگ کے بعد سلیمان بن جامع نہرا میں کی جانب سلیمان بن موسیٰ شعرانی بازار خمیس کی طرف بھاگ آیا اور ابو العباس نے واسط سے ایک کوس ہٹ کے پڑا دیا۔ دونوں فریق اپنی فوج کی اصلاح اور رستی سامان جنگ میں مصروف ہوئے۔ ایک ہفتہ بعد سلیمان اپنے لشکر کو تین حصوں پر منقسم کر کے تین طرف سے حملہ کرنے کی غرض سے ابو العباس کی جانب بڑھا اور چند دستہ فوج کو کشتیوں پر سوار کر کے براہ دریا حملہ کرنے کا حکم دیا نصیر اور ابو العباس نے دریائی حملہ کے روک تھام پر اپنی ہمت کو مصروف کیا اور اس کے مقابلہ میں خشکی پر دست بدست لڑنے کا لشکر یوں کو اشارہ کیا۔ ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا دوپہر تک نہایت سختی سے لڑائی ہوتی رہی ظہر کے قریب زنگیوں کی فوج کی ہمت ہار گئی بے ترتیبی سے بخوف جان اس طرف اُس طرف چھپنے لگی اور ابو العباس کا لشکر جوش کامیابی میں قتل و قید کرنے لگا بعد زنگیوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جنگی کشتیاں گرفتار کر لی گئیں۔ ہزاروں زنگی تلوار کے گھاٹ اتارے گئے۔ سلیمان اور جناتی ہزار وقت و خرابی بسیار اپنی جان بچانے

طہ شاہو نچا اور ابو العباس مظفر منصور اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا۔ اور ان کشتیوں کی
درستی اور اصلاح کا حکم صادر فرمایا جو حریت سے چھین کی گئی تھیں۔

زنگیوں کو جس وقت بمقابلہ شاہی عساکر ناکامی ہوئی اور اپنی جان بچا کے
بھاگے اس وقت بھی نقصان رسانی اور شیطنت سے باز نہ آئے۔ راستوں سے
تو واقف ہی تھے آئندہ جس طرف سے شاہی لشکر کا گزر ہونے والا تھا اس راستہ
میں بڑے بڑے کنوئیں اور گڑھے کھود کے گھاس بھوس اور مٹی سے پاٹ دیا غریب
ابو العباس اور نصیر کو اسکی خبر نہ تھی اسی راستہ سے ہو کے گزرے دو چار سوار ان
گڑھوں اور کنوئوں میں گر پڑے شاہی لشکر نے اس راستہ کو چھوڑ کے دوسری راہ
اختیار کر لی۔

بعد اسکے خبیثت نے اپنے مصاحبوں اور ہمراہیوں کو براہ دریا حالت غفلت
میں حملہ کرنے کی ہدایت کی چنانچہ زنگیوں نے اسی پر عمل کیا اور ابو العباس کی
چند کشتیوں کو گرفتار کر لے۔ ابو العباس نے یہ خبر پا کے تعاقب کیا اور بزور
جنگ اپنی کشتیوں کو تو واپس ہی لایا انکی کشتیوں میں سے بھی تقریباً تیس کشتیوں
کو مع مال و اسباب کے گرفتار کر لیا ابو العباس کو زنگیوں کی اس حرکت ناشائستہ
سے سخت طیش آیا نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے کام لینے لگا۔

سلیمان ابن جامع نے ان پیہم ہریمتوں کے بعد طہ شاہ میں جا کے قلعہ نشین ہوا
اسنے اپنے اس شہر کو منصورہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور شعرانی بازار خمیس میں چاہیا
اسکے شہر کا نام مینعہ تھا۔ سلیمان اور شعرانی نے منصور اور مینعہ میں پہونچ کے محاصرہ کے
خطرات کے خیال سے اطراف و جوانب سے فراہمی رسد و غلہ کی جانب توجہ کی
اور ابو العباس ان دونوں کے رسد و غلہ کے چھیننے پر کمر ہمت باندھے تھا
چند دنوں تک اسی قسم کی پھیر پھار چلتی رہی ایک روز ابو العباس نے اپنے افسران

فوج کو مشورہ کر کے براہِ خشکی مینعہ کی طرف بڑھا اور نصیر کو دریا کے راستہ سے روانہ کیا۔ اِدھر اتفاقِ وقت سے زنگیوں کے مقدمۃ الجیش سے ابوالعباس دو چار ہو گیا ایک دوسرے سے گتھ گیا تقریباً تمام دن لڑائی ہوتی رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوالعباس شہر مینعہ تک نہ پہنچ سکا اِدھر نصیر نے مینعہ کے قریب پہنچنے کے آتشباری شروع کر دی اہل مینعہ گھبرا گھبرا کے جوں ہی باہر نکلے تیر کا مینہ برسے لگا مجبور ہو کے پھر شہر کی طرف لوٹے نصیر نے ان میں سے ایک گروہ کثیر کو گرفتار کر کے مراجعت کر دی ابوالعباس کو اس سے بہت بڑی مسرت ہوئی مظفر و منصور اپنے لشکر گاہ میں آیا جنہیں نے ان واقعات سے مطلع ہونے کے علی ابن ابان اور سلیمان بن جامع کو متفرق و منتشر ہونے پر ملامت کی اور دونوں کو بمقابلہ ابوالعباس مجتمع ہونے کے مجموعی قوت سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔

فتح مینعہ و منصورہ | اس وقت تک تنہا ابوالعباس ہی زنگیوں کے مقابلہ پر

لڑ رہا تھا اور بفضلِ تعالیٰ اپنی مردانگی سے باوجود نو عمری اور ناتجربہ کاری کے نمایاں کامیابی حاصل کرتا جاتا تھا۔ ہنوز موفوق لشکر کی درستی اور فراہمی رسد وغیرہ سے فارغ نہیں ہوا تھا سرحدی مقامات کی حفاظت پر فوجیں متعین کرنے میں مصروف اور قلععات کی درستی اور مرمت میں مشغول تھا اس اثناء میں اسکو علی بن ابان اور سلیمان بن جامع کے یکجا ہونے کی خبر پہنچی کہ یہ دونوں اب مجموعی قوت سے ابوالعباس کے مقابلہ پر آئینگے۔ فوراً بقیہ امور کا انتظام کر کے ربیع الاول ۲۹ھ میں بغداد سے کوچ کر دیا واسط پہنچا اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس سے ملا ابوالعباس نے کل حالات ازاول تا آخر عرض کر دیئے۔ موفوق نے ابوالعباس کے سرداران لشکر کو خلعتیں مرحمت فرمائیں لشکریوں کو انعامات دیئے۔ بعدہ ابوالعباس اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا دوسرے دن موفوق نے نہر شداد پر جا کے قیام کیا

اور اس کا بیٹا شرقی وجہ میں دہانہ پر دو دایرہ جا اتر اور روز تک دونوں ٹھہر رہے تیسرے
 روز ابو العباس نے بقصد محاصرہ مینعہ کوچ کیا موقوف بھی براہ دریا مینعہ کی طرف بڑھا۔
 یوم سہ شنبہ آٹھویں ربیع الثانی ۲۶۷ھ کو دو طرف سے دونوں باپ اور بیٹوں نے
 مینعہ پر دھاوا کیا زنگیوں کو موقوف کی خبر نہ تھی دریا کی حالت سے بے خبر و غافل ہو کے
 جھرمٹ باندھ کے ابو العباس کے مقابلہ پر آگے لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اس اشارے
 میں موقوف نے پہونچکے دریا کی طرف سے حملہ کر دیا زنگی نوجبیں اس اچانک اور غیر
 متوقع حملہ سے گھبرا کے جوں ہی شہر کی حفاظت کی طرف مایل ہوئیں ابو العباس کے
 ہمراہی بھی انھیں بے ہمراہ شہر میں گھس پڑے ایک گروہ کثیر قتل اور قید کیا گیا۔
 شعرائی معہ بقیہ آدمیوں کے بھاگ کر جنگل میں جا چھپا۔ موقوف اپنے لشکر گاہ میں واپس
 آیا۔ تقریباً پندرہ سو مسلمان عورتیں زنگیوں کے پنجہ غضب سے رہا ہوئیں۔ اگلے دن
 پھر موقوف سوار ہو کے مینعہ میں داخل ہوا اور لشکریوں کو اسکے ٹوٹ لینے کا اشارہ کر دیا
 شہر پناہ کو منہدم کر کے خندقیں جو شہر پناہ کے ارد گرد تھیں ان کو پتھرا دیں۔ کشتیوں
 میں آگ لگوا دی لے اتہار سد و غلہ ہاتھ آیا کچھ فروخت کر ڈالا گیا باقی لشکر میں تقسیم کر دیا۔
 خبیثت کو اس روح فرسا واقعہ کی خبر لگی تو اسے ابن جامع کو لکھ بھیجا: ”دیکھو
 خبر و غفلت سے کام نہ لینا ورنہ تمھاری بھی وہی گت ہوگی جو شعرائی کی ہوئی ہے
 خلیفہ کا لشکر طوفان بے امتیازی کی طرح بڑھا آتا ہے۔“ اس اشارے میں جاسوسوں
 نے دربار موقوف میں حاضر ہو کے گوش گزار کیا کہ سلیمان ابن جامع اس وقت حوائث
 میں مقیم ہے موقوف یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا طیاری کا حکم دیدیا اپنے ہونہار بیٹے
 ابو العباس کو براہ دریا جنگی کشتیوں کو لے کے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود خشکی کی
 راہ سے کوچ کر کے صینیہ پہونچا ابن جامع یہ خبر پانے کے دو سپہ سالاروں کو معہ ایک
 دستہ فوج کے کسریٹ کی حفاظت پر مامور کر کے بھاگ گیا ابو العباس نے پہونچکے

لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا شام تک ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ رات کے وقت انھیں دو
 سپہ سالاروں کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے ابو العباس کی خدمت میں
 حاضر ہو کر امن کی درخواست کی ابو العباس نے امان دیکھے سلیمان بن جامع کا حال
 دریافت کیا اس شخص نے جواب دیا کہ ابن جامع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم
 ہے۔ ابو العباس نے یہ سن کے اپنے باپ (موفق) کی خدمت میں واپس آیا اور ان
 واقعات سے مطلع کیا موفق نے اس وقت منصورہ کی طرف بڑھنے کا حکم صادر کیا
 اور خود بھی اُسکے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طہشا (منصورہ) کے قریب پہنچنے کے دو میل کے
 فاصلہ پر مورچہ قائم کیا اگلے دن موقع جنگ اور شہر پناہ کی تفصیلات کے دیکھنے کو
 سوار ہوا زنگیوں کی فوج سے مقابلہ ہو گیا جو موفق کے آنے کی خبر پا کر کدینگا
 میں چھپی ہوئی تھی دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ موفق کے غلاموں کا ایک گروہ گرفتار
 ہو گیا ابو العباس نے احمد بن مہدی جنابی کو ایک ایسا تیر مارا کہ جس سے وہ جا بجا
 نہ ہوا گھوڑے سے گر کر فوراً مر گیا اسکے مرنے سے نصبت کو سخت صدمہ ہوا مگر چارہ کا
 ہی کیا تھا۔ مغرب کا وقت آ گیا تھا تاریکی ہر چہا طرف بھیلتی جاتی تھی موفق نے اپنے
 لشکر گاہ کی جانب مراجعت کی اور زنگیوں کا لشکر منصورہ واپس گیا دوسرے دن
 کریم مشنبہ تھا اور ربیع الثانی ۲۶ھ کی ستائیسویں رات تھی موفق نے آخر شب
 میں اٹھ کے اپنے لشکر کو مرتب کیا جنگی کشتیوں کو براہ دریا منصورہ کی جانب بڑھنے کا
 حکم دیا اس عرصہ میں سفیدہ صبح نمودار ہو گیا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی دیر تک
 المد علسانہ کے حضور میں بحضور قلب دعا کرتا رہا جوں ہی اُفق فلک پر سرخی نمایاں
 ہوئی دھاوا کا حکم دیدیا عساکر شاہی کا ایک کالم شیرعراں کی طرح ڈکارتا ہوا شہر
 کے قریب پہنچ گیا ابو العباس اس کالم کا سردار تھا زنگیوں نے سینہ سپر ہو کر مقابلہ
 کیا دوپہر تک بڑے زور و شور سے لڑائی ہوتی رہی بعد دوپہر زنگی لپٹا ہوا کے اپنے

خندقوں کی طرف لوٹے عساکر شاہی نے تقاب کیا اور خندق پر کمال تیزی سے لڑائی شروع ہوئی اور جنگی کشتیاں براہ دریا شہر کے کنارہ پر پہنچ گئیں عساکر شاہی نے خشکی پر اتر کے شہر کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا اس اثنا میں ابو العباس کے رکاب کی نوح خندق پر لگڑی کا مختصر سا پل بنا کے عبور کر گئی۔ زنگی فوجوں نے گھبرا کے شہر میں داخل ہونے کا قصد کیا مگر شہر میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ انکا حریف مقابل اس سے چند ہی گھنٹہ پیشتر شہر کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا اور خطہ بلخہ بقیہ شہر پر قبضہ کرتا چلا آتا تھا اور طرف کے حملہ سے جیسا کہ پانچواں ہونا تھا پانچواں ہوئے ہزاروں قتل یا قید کئے گئے ابن جامع مع معدودے چند مصاحبوں کے بھاگ گیا محمد گروہ کے ایک دستہ نوح نے وجہ تک تقاب کیا مگر اپنی کوشش میں کامیاب ہو اس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد کثیر کام آگئی باقی ماندگان کا اکثر حصہ گرفتار کر لیا گیا جانوروں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ موفق نے کامیابی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا جس کا دور ایک کوس کا تھا اہل کوفہ اور واسط کی دس ہزار عورتوں، لڑکوں کو زنگیوں کی غلامی سے نجات ابدی حاصل ہوئی اس واسطے جو کچھ ہاتھ لگا اسکی کوئی حد و انتہا نہ تھی۔ سلیمان بن جامع کی عورتیں اور چند لڑکے بھی گرفتار ہو گئے۔ چند یہ سالاران زنگیوں کے گرفتار کر لائے پر مامور کئے گئے جو جان بچا کے پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے شہر سپاہ کی فصلیں منہدم کر دی گئیں خندقیں پاٹ دی گئیں۔ سترہ دن تک موفق مع اپنے ہونہار بیٹے کے ٹھہرا ہوا انتظام کرتا رہا بعد ازاں واسط کی جانب مراجعت کر دی۔

فتح مختارہ موفق نے واسط میں پہنچنے کے اپنے لشکر کا جائز لیا انکی تکالیف کو دور اور ضرورتوں کو رفع کر کے لشکر کو دوبارہ مرتب کیا اور بقصد شہر خبیت جبکا نام اس نے مختارہ رکھا تھا کوچ کیا اسکے ہمراہ اسکا بیٹا ابو العباس بھی تھا

مختارہ کے قریب پہنچنے کے واسطے دو میل کے فاصلہ پر قیام کیا رات کے وقت موقع جنگ اور فضیلوں کی حالت و کیفیت دیکھنے کو گیا۔ شہر پناہ کی فصیلیں نہایت مستحکم مضبوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خندقیں ہر پہاڑ طرف سے اُس کو اپنے آغوش حفاظت میں لئے ہوئے تھیں۔ راستہ نہایت دشوار گزار تھا۔ فصیلوں پر جا بجا حصار شکنی کے آلات اس کثرت سے رکھے ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ بائیں ہمہ فوج کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ موفق شہر کی مضبوطی و استحکام کو دیکھ کے امیر و بیہم کی حالت میں واپس آیا صبح ہوتے ہی براہ دریا جنگی کشتیوں کے ساتھ اپنے بیٹے ابوالعباس کو بڑھنے کا حکم دیا اور خود فوج مرتب کر کے خشکی کے راستے سے مختارہ پر دھاوا کیا۔ ابوالعباس نے کمال تیزی سے کشتیوں کو شہر پناہ کی دیوار سے ملا دیا قریب تھا کہ خشکی پر اتر پڑتا اتفاق وقت سے رنگیوں نے دیکھ لیا شوہل مچاتے ہوئے دوڑ پڑے۔ منجھنیقوں سے سنگباری شروع کر دی۔ اوپر سے پتھر کا مینہ برسائے لگے۔ ابوالعباس نہایت استقلال و تحمل سے ان سب مصائب کو برداشت کرتا ہوا خشکی پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کسی طرح کامیاب نہ ہوتا تھا موفق نے یہ رنگ دیکھ کے واپس آئے کا اشارہ کیا ابوالعباس کی کشتیوں کے ساتھ دو کشتیاں رنگیوں کی بھی چلی آئیں جس میں ملاح اور سپاہی تھے ان لوگوں نے موفق سے امن کی درخواست کی موفق نے ان لوگوں کو امان بھی دی، خلعت بھی دی اور خاطر و مدارات سے بھی پیش آیا۔ اس حسن سلوک سے امن کے چاہنے والوں کی آمد شروع ہو گئی۔ عنایت نے یہ رنگ دیکھ کے فوراً چند آدمیوں کو دہانہ دریا پر مامور کر دیا تاکہ جنگی کشتیوں کے بیروں تتر بتر نہ ہوتے پائیں اور حریمت مقابل کے سایہ عاطفت میں جا کے پناہ گزین نہ ہوں۔ بعد ازاں بہبود امیر البحر کو براہ دریا حملہ کی طیاری کا حکم دیا ابوالعباس مقابلہ پر آیا نہایت سخت اور خونریز جنگ کے بعد بہبود کو شکست

ہوئی ہزار ہا زنگی قتل یا غرق ہوئے مجبور ہو کے بہبود کو واپس آنا پڑا۔ اس لڑائی کے بعد بھی زنگیوں کی بعض جنگی کشتیوں نے ابوالعباس سے امن کی درخواست کی علاوہ اسکے اکثر خشکی کی فوجیں بھی امن کی خواستگار ہوئیں جنکو ابوالعباس اور موفق نے سیرپھی اور فیاضی سے امن دیدی۔ اور ایک ماہ کامل بلا جدال و قتال مقیم رہا۔

پندرھویں شعبان سنہ مذکور کو موفق نے بقصد حملہ اپنی فوج کو پھر درستی اور طیاری کا حکم دیا۔ پچاس ہزار فوج کی جمعیت سے براہ دریا اور خشکی مختارہ کی طرف سیلاب کی طرح بڑھا زنگیوں کی تعداد اس معرکہ میں تین لاکھ تھی مگر باوجود اس کثرت کے اس خوبی سے محاصرہ کیا کہ حریت کے دانت کھٹے ہو گئے، منادی کرادی کہ جسکو اپنی جان عزیز ہو وہ ہم سے امن کا خواستگار ہو اور جسکو اپنی جان دو بھر ہو، اپنے مال و اسباب کو لاوارث اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ ہمارے خارہ شگاف تلواروں اور نوکدار نیزوں کے مقابلہ پر آئے یہ رعایت خاص عام باشندگان مختارہ اور لشکریوں کے لئے ہے خواہ وہ سردار ہوں یا سپاہی۔ خبیت کو اس رعایت سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اسی مضامین کے رقعہ بھی لکھ لکھ کے تیروں کے ذریعہ سے شہر میں پھینکوائے۔ اکثر باشندگان مختارہ اور لشکریوں نے حاضر ہو کے امن کی درخواست کی۔ جنکو موفق نے امان دینے کے ساتھ ہی خلعتیں اور انعامات بھی عطا کئے اس محاصرہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی بلا جدال و قتال خبیت کا جھٹکا ٹوٹ گیا اس کے اکثر ہمراہی اس سے علیحدہ ہو کے موفق کے لشکر میں چلے آئے اگلے دن مصلحتاً موفق اس مقام سے کوچ کر کے مختارہ کے قریب ایک مقام پر نیمہ زن ہوا۔ فوجی چھاؤنی اور جنگی کشتیاں بنانے کا حکم دیا شہر کے آباد کرنے کا بنیاد پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا اور اس مقام کو موفقیت کے نام سے موسوم کیا تھوڑے

دونوں میں لشکریوں، سرداروں، شاگرد پیشوں کے مکانات بن گئے جامع مسجد طیار ہو گئی اور دارالامارت کی تعمیر بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔ تمام ممالک محروسہ میں تجارت کے نام کشتی فرمان بھجدرے بات کی بات میں ہر قسم کے سامان اور اسباب کی متعدد دوکانیں کھل گئیں۔ کھانے پینے اور ہر ضرورت کی چیزیں بکثرت مہیا ہو گئیں ایک مہینہ تک اسی انتظام میں مصروف رہا جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اپنے پوہنہاری بیٹے ابوالعباس کو یہ حکم دیا کہ مختارہ کے پاس جس قدر زنگی فوجیں پھیلی ہوئی ہیں ان پر حملہ کر دو اور اپنے پُر زور حملوں سے انکو انکی سرکشی اور شہر کا مزہ چکھا دو کہ آئندہ مقابلہ پر نہ آئیں یا زنج ہو کے امن کے خواستگار ہوں، اس چھیڑ چھاڑ سے یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ ان میں سے اکثر امن کی درخواست کر کے موفوق کے لشکر میں چلے آئے باقی جو رہے وہ قتل یا قید کر لئے گئے۔ مختارہ واسے بدستور محاصرہ میں رہ گئے۔ مگر موفوق انپر بھی اپنے حسن سلوک اور احسان کا جان بھلا رہا تھا اس حکمت عملی سے بھی ہزار ہا زنگی آئے دن گرویدہ احسان ہو کے موفوق کے لشکر میں چلے آ رہے تھے۔

انہیں دونوں اتفاق وقت سے زنگیوں نے موفوق کی ایک کشتی گرفتار کر لی جو رسد و غلہ لئے ہوئے موفوقہ کو آرہی تھی موفوق کو اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا جنگی کشتیوں کے بیڑہ کو طیاری کا حکم دیا اور اپنے بیٹے ابوالعباس کو اسکی حفاظت پر مامور فرمایا اس واقعہ کے بعد ہی زنگیوں نے ایک حرکت یہ کی کہ انہیں سے ایک گروہ لئے شب کے وقت نکل کے نصیر کی فوج پر حملہ کا قصد کیا جاسوسوں نے نصیر کو اس سے مطلع کر دیا نصیر نے قبل اسکے کہ وہ حملہ کریں اثناء راہ میں جا کے ان کو گھیر لیا و ایک سپہ سالار گرفتار اور و ایک قتل ہوئے باقی ماندہ سپاہی اور سپہ سالاروں نے بھاگ کے مختارہ میں دم لیا۔ اس

پھیر چھاڑ پر بھی پناہ گزین اور امن کے خواستگاروں کی تعداد میں کمی نہ ہوئی اخیر
 ماہ رمضان المبارک سنہ مذکور تک پچاس ہزار زنگیوں نے عباسی علم کے
 نیچے آ کے اطاعت کی گردنیں جھکا دیں اور امن کے خواہاں ہوئے۔ ماہ شوال
 میں نصبت سے موفق کے بلا حیران و قتال طول قیام سے گھبرا کے پانچ ہزار
 سواروں کی جمعیت سے علی بن ابان کو موفق کے لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا
 اور ہدایت کر دی کہ رات کے وقت بغیر روشنی کے دریا عبور کرو اور کمال تیز
 سے چار پانچ کوس کا چکر کاٹ کے سفید صبح نمودار ہونے سے پیشتر جس وقت
 موفق کے لشکر کی ادائے نماز، قضاے حاجت میں مصروف ہوں پس پشت
 لشکر سے حملہ کرو اور تم جو وقت حملہ کرو گے اسی وقت میں بھی مقابلہ پر آ جاؤ گا
 یقین ہے کہ اس حملہ میں ہم کو کامیابی ہو، علی نے اس رائے کو استحسان کی آنکھوں
 سے دیکھ کے طیاری کر دی اور اسی رائے کے مطابق نصف شب کے پہلے دریا
 عبور کر گیا جاسوسوں نے موفق تک یہ خبر پہنچا دی موفق نے اسی وقت اپنے
 بیٹے ابوالعباس کو علی بن ابان کے مقابلہ اور روک تھام پر روانہ کیا ابوالعباس
 نے جنگی کشتیوں کے ایک بیڑہ کو جس میں تقریباً بیس کشتیاں بڑی اور پندرہ
 چھوٹی تھیں دریا کی حفاظت پر مامور کیا تاکہ علی بن ابان کے ہمراہی بحالت نصبت
 دریا عبور نہ کر سکیں اور خود ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے اس راستہ پر
 جا کے چھپ رہا جس طرف سے علی بن ابان آئے والا تھا جوں ہی علی بن ابان
 اس راہ سے گزرا ابوالعباس نے حملہ کر دیا زنگی اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا کے
 بھاگے ابوالعباس کے سواروں نے تلواریں نیام سے کھینچ لیں نیزہ بازی کے
 جوہر دکھانے لگے زنگی گھبرا کے دریا کی طرف بھاگے بحری فوج نے عبور سے روکا
 بہت بڑی خونریزی ہوئی اکثر حصہ کام آ گیا۔ کچھ دریا میں ڈوب کر مر گئے کچھ

قید کر لئے گئے معدودے چند چھپ چھپا کے بچ گئے صبح ہوتے ہی لڑائی کا
 خاتمہ ہو گیا تھا۔ آفتاب کی سرخی کنارہ آسمان پر نمایاں ہو رہی تھی قریب طلوع
 آفتاب ابو العباس نے میدان جنگ ہی میں نماز ادا کی بعد ازاں قیدیوں اور
 مقتولوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا موفق نے
 فرط محبت سے گلے لگا لیا دعائیں دیں۔ لڑائی کے حالات استفسار کئے۔ قو
 کے قریب حکم دیا کہ قیدیوں اور مقتولوں کے سروں کو کشتیوں میں بار کر کے خبیث
 کے محسرا کے سامنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ خبیث اور اس کے
 ہمراہیوں کو اس واقعہ کی اطلاع نہ تھی تمسخر سے کہنے لگے ”موفق نے یہ رنگ
 اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زنگی دلاوروں کو ڈرانے کی غرض سے
 ان سیاہ بخت زنگیوں کو قیدی بنایا ہے جو شامت اعمال سے جا کے اس سے
 امن کے خواہاں ہوئے ہیں اور یہ سر مصنوعی ہیں آدمی کے سر نہیں ہیں مگر بہت
 اچھے بنائے ہیں“ جا سوسوں نے خبیث کی اس گفتگو اور خیال کی موفق کو
 خبر کر دی موفق نے ان سروں کو منجیقوں میں رکھ کے محصوروں کے پاس
 پھکوا دیا ایک ہنگامہ شور قیامت برپا ہو گیا جو دیکھتا تھا چلا کے رواٹھتا تھا
 خبیث بھی ان سروں کے دیکھنے کو آیا۔ صبر نہ ہو سکا گلا پھاڑ کے رونے لگا۔
 اس واقعہ کے بعد ابو العباس اور زنگیوں میں متعدد دریاہی لڑائیاں
 ہوئیں اور سبھوں میں ابو العباس فتح مند ہوتا رہا تا آنکہ زنگیوں کی رسد کی آمد
 بند ہو گئی۔ غلہ جو شہر کے اندر موجود تھا وہ بھی قریب اختتام پہنچ گیا۔ مگر فریق
 محاصرہ کی سختی کی وہی کیفیت تھی۔ بڑے بڑے سورما اور نامی نامی سردار
 فاقہ کشی اور شدت حصار سے تنگ آ کے شہر سے نکل آئے امن کی
 درخواست کی مثلاً محمد بن حرث قمی اور احمد یروعی وغیرہا۔ محمد بن حرث

بہت بڑا نامور سپہ سالار تھا شہر پناہ کی حفاظت اس کے سپرد تھی اور احمدیوں کی جنگوں
 کے نامور جنگ آوروں سے تھا موفق نے ان دونوں کو امن دی انعام دینے سے
 دبے اور اپنے خاص مصاحبین کے زمرہ میں داخل کر لیا۔ نجیبیت نے پوٹا فیوٹا اپنے
 ہمراہیوں کی ابرہی کا احساس کر کے دو سپہ سالاروں (ایک کا نام شہل دوسرے
 کا نام ابوالبزی تھا) کو دس ہزار فوج کی جمعیت سے شہر کے غربی جانب سے نکلنے
 تین طرف سے موفق کے لشکر پر حملہ اور رسد و غلہ کی آمد بند کرنے کا حکم دیا جاسوسیوں
 سے موفق کے کان تک یہ خبر پہنچادی موفق نے ایک فوج بسرافسری اپنے ایک آزاد
 غلام (اس کا نام زبرک تھا) کے بھیدی پس جس وقت زنگیوں نے دریا سے
 خشکی پڑنے کا قصد کیا شاہی لشکر نے حملہ کر دیا زنگیوں کو اسکی خبر نہ تھی ہزاروں
 قتل ہو گئے سیکڑوں دریا میں ڈوب کر مر گئے باقی ماندہ گرفتار ہو گئے یا کسی طرح
 اپنی جان بچا کے بھاگ گئے چار سو کشتیاں زنگیوں کی گرفتار کر لی گئیں۔ زنگیوں
 کو اس معرکہ میں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ رہی سہی قوت باقی رہی۔ طرہ اس پر
 یہ تھا کہ پناہ گزینوں کی تعداد برابر ہوتی جاتی تھی جس سے محاصرین کی قوت ترقی پڑتی
 ہو رہی تھی اور محصورین کی تعداد گھٹنے کے ساتھ مجموعی قوت بھی انحطاط کی جانب
 مائل ہوتی جاتی تھی۔ نجیبیت نے دوبارہ ناکہ بندی کا انتظام کیا معتبر معتبر نامی نامی
 سرودوں کو راستہ کی محافظت پر مامور کیا اور دو سپہ سالاروں کو یہ حکم دیا کہ
 کہ موفق کے لشکر میں امن حاصل کر کے جاؤ اور اس سے یہ کہہ دو کہ طویل حصا
 سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور کھلے میدان لڑ کر اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیں۔ موفق
 نے اس پیام پر اپنے بیٹے ابوالعباس کو نہر غربی کی جانب حملہ کرنے کو روانہ کیا شہر کی

۱۲۲- تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۱، صفحہ ۱۲۲-

۱۲۲- تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۱، صفحہ ۱۲۲-

یہ ہمت علی بن ابان کے سپرد تھی۔ کمال شدت سے ہنگامہ کارزار گرم ہوا شور و غل سے
کان کے پردے پھٹے جاتے تھے دوپہر ہوتے ہوتے ابو العباس کی فتح مندی اور علی بن
ابان کی شکست کے آثار نمایاں ہو گئے قریب ظہر کے علی بن ابان اپنے مورچے کے قریبی
کے ساتھ پیچھے کو ہٹا خبیثت نے اس امر کا احساس کر کے سلیمان ابن جلع کو ایک
تازہ دم فوج کے ساتھ علی ابن ابان کی کمک پر روانہ کیا جس سے علی بن ابان کے
قدم میدان جنگ میں پھر جم گئے شام تک گھمسان لڑائی ہوتی رہی بالآخر ابو العباس کو
فتح نصیب ہوئی اور سیاہ بخت زنگی شہر کی جانب بھاگا۔ اس اثنائے میں ایک گروہ
ان زنگیوں کا آگیا جنہوں نے امن حاصل کر لی تھی۔ اور اپنے قوم کے مقابلہ میں جنگ
کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابو العباس اس کامیابی کے بعد واپس آ رہا تھا مگر ان لوگوں
کی تحریک سے نہرا تراک کی طرف بڑھا۔ اس طرف محصور زنگیوں کی تعداد نہایت
قلیل تھی ابو العباس نے اس کمی سے فائدہ حاصل کرنے کے قصد سے انہیں حملہ کر دیا
چند لوگ کمندوں کے ذریعہ سے شہر سپاہ کی فہمیل پر چڑھ گئے اور گروہ مخالفین کا
دار اثیار کر دیا خبیثت نے یہ خبر پانے کے اپنے سرداروں کو لکارا زنگی فوجیں خبیثت
کی آواز سن کے دوڑ پڑیں۔ ابو العباس بوجہ قلت فوج پیچھے ہٹ آیا اتنے میں
موفق کی جانب سے امدادی فوج پہنچ گئی جس سے ہزیمت نے فوراً فتح کی صورت
اختیار کر لی اور ابو العباس کو پھر اپنے حریف مقابل کے مقابلہ میں فتح مندی حاصل
ہو گئی۔ مگر یہ کامیابی عارضی تھی تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ناکامی سے متبدل ہو گئی سلیمان
ابن جلع نے ابو العباس کی پہلی کامیابی کا احساس کر کے فوج کثیر لے کے بالائے نہر
چلا گیا تھا اور ایک منزل کا چکر کاٹ کے ابو العباس کے لشکر پر پیچھے سے حملہ آور ہوا
جبکہ وہ اپنے حریف مقابل سے مصروف جدال و قتال تھا ابو العباس کے رکاب کی
فوج جوں ہی سلیمان کے لشکر کی مدافعت کی جانب مایل ہوئی آگے سے زنگی فوجیں

پلٹ پڑیں جو شکست اور مزیت کا نامطبوع لباس پہنے ہوئے رو بہ فراتھیں اس سے
ابوالعباس کو ایک دل شکن شکست اٹھانی پڑی موفق کے آزاد غلاموں کا ایک گروہ
کھیت رہا اور چند نامی سورا بھی کام آگئے ابوالعباس ناکامی کے ساتھ اپنے لشکر گاہ
میں واپس آیا۔ یہ واقعہ اتفاق سے ایسا واقع ہوا کہ جس سے رنگیوں کے شکستہ قابو
پھر مضبوط اور قوی ہو گئے اور انکو ایک گونہ اپنی کامیابی کا یقین سا ہو گیا۔

موفق کو یہ اتفاقی ناکامی بہت شاق گزری سرداران لشکر کو مجتمع کر کے کہنا
”انشاء اللہ تعالیٰ کل نہر اتراک کی جانب سے عام حملہ کیا جائیگا اور سامنے کے برج پر
جس طرح ممکن ہوگا قبضہ کر لوں گا نہر کے عبور کرنے کا پورا سامان رات ہی کے وقت
سے مہیا رکھا جائے۔ دوسرے جانب سے میرا ہونہار بیٹا ابوالعباس دھاوا کرے گا
تم لوگ اس اتفاقی ناکامی سے بد دل نہ ہو اسلام کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے
وہ ضرور ہم کو ہمارے ارادوں میں کامیاب کرے گا۔“ سرداران لشکر اس عام حکم کو سن کے
اپنے اپنے خیموں میں گئے حملہ کی تیاری میں مصروف ہوئے صبح ہوتے ہی طیار ہو کے
موفق کے خیمہ کے پاس آئے سلامی دی موفق نے لشکر کو مرتب کر کے نہر اتراک کے
عبور کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ”بسم اللہ مجربیا و مرلہا“ پڑھتا ہوا لشکر کے ساتھ چلا
یہ دن چہار شنبہ کا تھا اور ماہ ذی الحجہ ۲۶۷ھ کی چھبیسویں تاریخ تھی۔

شہر کا یہ حصہ جس طرف موفق کا لشکر سیلاب کی طرح بڑھا جاتا ہے نہایت
مضبوط و مستحکم ہے جا بجا موقع موقع پر منجیقین بھی نصب ہیں آلات قتال بھی کثرت
سے موجود ہیں انکلانی بن نصبت معہ سلیمان ابن جامع اور علی بن ابان کے اسی
حصہ میں ہے۔ غرض بظاہر اس کی کامیابی دشوار معلوم ہو رہی ہے۔

نصبت نے موفق کے لشکر کو اس طرف بڑھتا ہوا دیکھ کے سنگ باری کا حکم
دیا نہایت تیزی سے منجیقین چلنے لگیں ترڑ ترڑ پتھر پڑنے لگے قد اندازوں نے روح

دن کے فیصلہ کرنے کو تیر و کمانیں اٹھالیں پھر ایسی حالت میں نہر کا عبور کرنا اور عبور کر کے
 بعد شہر پناہ کے دیواروں کے قریب جانا کارے وار دکا مضمون تھا۔ نہر کے قریب
 پہنچ کے موفوق کالٹ کر اس خوفناک و جانستار منظر کو دیکھ کے آگے بڑھنے سے
 رک گیا۔ موفوق لے لکار کے کہا "میرے شیر و اکیا یہ منجیقین جن کو سیاہ بخت
 زنگی چلا رہے ہیں تمھاری مردانگی کی سدراہ ہونگی۔ مجھے یقین ہے کہ تمھاری جوانمردی
 اور دلاوری کے مقابلہ میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے" یہ آواز نہ تھی بلکہ ایک
 برقی قوت تھی جو دم زدن میں شکر کے اس سر سے اس سر تک پہنچتی ان کے
 دولت بلاتامل و غور بات کی بات میں نہر عبور کر گئے نہ تیروں کے سینہ کی پروا کی اور
 یہ سنگباری کا ان کو کچھ خوف ہوا۔ شہر پناہ کی دیوار کے نیچے پہنچے منہدم کرنے اور
 سیرٹھیاں لگا کے اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے زنگیوں نے سنگباری سے
 ان کو روکنا چاہا مگر اس میں کامیاب نہ ہوئے سیرٹھیاں لگا کے فصیل شہر پر چڑھ گئے
 اور لڑھکھڑ کر اس پر قبضہ کر ہی لیا۔ علم و دولت عباسیہ نصب کروا گیا منجیقین اور
 آلات حصار شکنی میں آگ لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا گیا۔ دوسری جانب
 ابو العباس لڑ رہا تھا اس کے مقابلہ پر علی بن ابان گیا ہوا تھا ابو العباس نے
 اس کو پہلے ہی حملہ میں ہزاروں زنگیوں کو تہ تیغ کر کے شکست فاش دیدی
 علی بن ابان نے بھاگ کے شہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا ابو العباس کا لشکر
 جوش کامیابی میں دیواروں تک پہنچ گیا اور اس میں ایک روزن کر کے
 بزور تیغ گھس پڑا سلیمان بن جامع سینہ سپر ہو کر مقابلہ پر آ گیا شدت کے سنا
 دیر تک لڑائی ہوتی رہی تا آنکہ ابو العباس کے رکاب کی فوج اپنے مورچہ میں پس
 آئی۔ مزدوروں نے فوراً اس روزن کو بند کر دیا مگر دوسرے طرف موفوق کے
 رکاب کی فوج نے شہر پناہ کی دیوار میں متعدد روزن کر کے خندق پر ایک

مختصر ساہل بنایا جس سے باسانی تمام شاہی لشکر عبور کر گیا زنگیوں میں بھگدڑ مچ گئی
 شاہی لشکر ان کو قتل و گرفتار کرتا ہوا دیر ابن شمعان تک پہنچا گیا اور اسپر قبضہ حاصل کر کے
 آگ لگا دی۔ اس مقام پر زنگیوں سے بہت بڑی اور دیر تک لڑائی ہوتی رہی بالآخر
 شکست کھا کے بھاگے میدان غبیت تک پہنچے غبیت خود سوار ہو کے میدان
 کارزار میں آیا اپنے ہمراہیوں کو لٹکار لٹکار کے لڑانے لگا مگر کسی کے قدم رکتے
 نہ تھے جو تھا وہ بھاگنے ہی پر طیار تھا۔ آخر کار غبیت کے خاص خاص ہمراہی بھی
 بھاگ کھڑے ہوئے اتنے میں رات کی تاریکی نے فتح مند گروہ کو حملہ سے روک دیا
 چونکہ روشنی کا کوئی انتظام اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے موفق نے واپسی کا حکم دیا تھا۔
 ابوالعباس کو پناہ گزین زنگیوں کی روانگی کی وجہ سے مراجعت میں تاخیر کرنی پڑی
 چلتے چلتے رات ہو گئی زنگیوں کو موقع مل گیا یورش کر کے سب سے پھلی کشتی پر حملہ آور
 ہوئے اور اس سے کسی قدر کامیابی حاصل کر کے اپنے بچے ہوئے دل کے آبلے
 توڑے۔ بہبود زنگیوں کا امیر البحر مسرور بلخی کے مقابلہ پر تھا۔ واپسی کے وقت
 اس نے بھی مسرور کے ہمراہیوں پر حملہ کیا جس سے مسرور کی فوج کی ایک جماعت
 کام آگئی اور ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا اس لڑائی کے خاتمہ پر زنگیوں کے بعض منہزمین
 امن کی درخواست کی جسکو موفق نے لطیب خاطر منظور کر لیا۔ ازاں جملہ زنگیوں کا نامور
 سپہ سالار بھان بن صالح مغربی تھا موفق نے انان دینے کے بعد اسکو ابوالعباس کے
 صحابین میں شامل کر دیا۔ (یہ واقعہ اسیسویں ماہ ذی حجہ ۲۶۸ھ کا ہے)۔

ماہ محرم ۲۶۸ھ میں زنگیوں کے ایک بہت بڑے معتمد علیہ اور نامور سپہ سالار
 جعفر بن ابراہیم معروف بہ بھان نے موفق کے دربار میں حاضر ہو کے اطاعت کی
 گردن جھکا دی امن کا خواستگار ہوا موفق نے خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا انعام
 اور صلے مرحمت کئے۔ اگلے دن غبیت کو دکھانے کی غرض سے ایک چھوٹی سی کشتی پر

سوار کرا کے خبیثت کے مجلس کی طرف روانہ کیا سپہ سالاران خبیثت کا ایک گروہ مجلس سے اس افسوس ناک منظر کو دیکھ رہا تھا جس وقت سبوان کی کشتی مجلس کے قریب پہنچی سبوان نے ایک دلچسپ اور پر مغز تقریر میں خبیثت اور اسکے ہمراہیوں کے معائب اور موفی اور اسکے لشکریوں کے حسن اخلاق و عادات کو بالتفصیل بیان کئے اور واپس آیا اس سے زنگیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں چھپ چھپ کے بہت سے نامی نامی روسا اور سردار موفی کے پاس امن حاصل کر کے چلے آئے۔

ماہ ربیع الثانی تک موفی لشکریوں کو آرام دینے کے خیال سے بلا جہال و قتال محاصرہ ڈالے ہوئے پڑا رہا۔ پندرہویں ربیع الثانی کو بقصد حملہ لشکر کو پھر مرتب کیا سردار لشکر کو شہر کی ایک ایک سمت پر مامور فرمایا۔ ہر ایک کے ساتھ سرنگ لگائے والوں دیواروں میں روزن بنائے والوں اور سیر بھی لگا کے فصیل پر چڑھ جائے والوں کا ایک گروہ متعین کیا اور ان کے پیچھے حملہ مخالف کے بچانے کے غرض سے مشہور مشہور تیر اندازوں کی فوج کو رکھا کہ جو شخص اس گروہ سے مزاحمت کرے اسکو فوراً نشانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سپہ سالاران فوج کو یہ ہدایت کر دی کہ زنگیوں کی شکست کے بعد بلا اجازت میرے بقصد قناب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا اور نہ روزنوں کی را سے بلا حکم میرے شہر میں داخل ہونے کا قصد کرنا۔ الغرض جب موفی نے حملہ کا پورا پورا انتظام کر لیا اس وقت سمجھوں کو حملہ کا حکم دیا۔ لشکر نہ تھا ایک سیلاب تھا جس کے مقابلہ پر زنگیوں کی گاہ کے برابر بھی وقعت نہ تھی۔ زنگیوں نے روٹنے کے قصد سے تیرباری شروع کی مگر شاہی تیر اندازوں نے اس کے جوصلے پست کر دیے۔ ہر چار طرف سے تیر کا مینہ برسے لگا۔ زنگی گھبرا گھبرا کے چھتوں سے اتر کے مکانوں چھپ گئے اور شاہی لشکر نے شہر پناہ کی دیوار میں متعدد روزن بنائے۔ زنگیوں کی فوجیں بھڑمٹ باندھ کے مقابلہ پر آئیں شاہی لشکر نے ان کو اپنے پر زور حملہ سے

پچھے ہٹا دیا اور جوش کامیابی میں قتل و غارت کرتا ہوا اس مقام سے بھی آگے بڑھ گیا
 جہاں تک جنگ سابق میں پہنچا تھا حریف مقابل سے جو شکست پر شکست کھاتا ہوا بھاگا
 باتا تھا مگر حملہ کیا مختلف مقامات سے ان زنگیوں نے نکل کے دھاوا کیا جو کمینگا
 میں چھپے ہوئے تھے۔ شاہی لشکر نقصان اٹھا کے دجلہ کی جانب لوٹا۔ زنگیوں نے ان لوگوں
 کو قتل و قید کرنا شروع کر دیا ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ہاتھ آیا۔ موفق نے اپنے شہر
 موفقیہ کی طرف مراجعت کی سرداران لشکر کو بلا اجازت آگے بڑھنے پر بلا مت کی جو
 لوگ اس معرکہ میں کام آگے تھے ان کے اہل و عیال کی تنخواہیں مقرر کر دیں اور
 درستی و ترتیب لشکر کا حکم صادر فرمایا۔

بعد اس کے موفق تک یہ خبر پہنچی کہ بعض بادشاہینان بنو تمیم زنگیوں کو رسد
 و غلہ پہنچاتے ہیں سن کے آگے بگولا ہو گیا اسی وقت ایک لشکر بنو تمیم کی سرکوبی کو
 بھیج دیا جس نے پہنچنے کے ساتھ ہی قتل عام کا بازار گرم کر دیا، اکثر قتل کئے گئے اور
 جو قید ہوئے ان کے قتل کا موفق نے حکم دیدیا۔ حد و بصرہ تک رسد و غلہ
 کی آمد روک دی اور رسد کی آمد قطعاً موقوف ہو گئی اور موفق حصار میں سختی سے
 کام لینے لگا۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی۔ زنگیوں کی ایک جماعت شدت گرسنگی
 سے تنگ آگے بتلاش اشیاء خوردنی بلا و قصبات بعیدہ میں پھیل گئی موفق نے
 ان لوگوں کے سمجھانے اور بلائے پر آدمیوں کو متعین کیا اور یہ حکم دیا کہ جو شخص شاہی
 امن حاصل کرنے سے انکار کرے اس کو بے تامل مار ڈالنا۔ اس حسن تدبیر سے بھی
 ہزار ہا زنگی موفق کے سایہ امن میں آگئے اور ہزاروں کا کام تمام کر دیا گیا۔

خصیت اور اس کے ہمراہی جب اس حال بد تک پہنچ گئے تب موفق اور
 اس کے لڑکے نے پھر سنگامہ کارزار کو گرم کیا روزانہ جنگ و خونریزی سے زنگیوں
 کی گرمی و بلوغت فرور کرنے لگے انہیں معرکوں میں زنگیوں کا نامور سپہ سالار بمبوس بن عبد الوہاب

مارا گیا جیسا بہبود کا مارا جانا موفوق کے اعظم فتوحات کا مقدمہ تھا ویسا ہی زندگیوں کے
 ادبار کا یہ پیش خمیہ تھا۔ اس کے مارے جانے سے عسا کر اسلامیہ کو بہت بڑی راجت
 نصیب ہوئی۔ یہ کنجھت ایک جنگی کشتی پر تھوڑی سی فوج لئے ہوئے دریا میں گشت
 کرتا رہتا تھا۔ کشتی پر عباسی پھریرہ کی طرح پھریرہ نصب کیا تھا۔ اسلامی جنگی کشتیوں
 کا بیڑہ اس سے یہ خیال کر کے کہ یہ بھی ایک اسلامی جنگی کشتی ہے متعرض نہ ہوتا اور یہ موقع
 پا کے انپر اپنا ہاتھ صاف کر دیتا تھا ایک بار اتفاق سے ابو العباس کے ہاتھ لگ گیا
 قریب تھا کہ اس کی مکار زندگی کا خاتمہ ہو جاتا مگر خوش قسمتی سے بچ گیا دوبارہ ایک اسلامی
 کشتی پر حملہ کیا اہل کشتی لڑنے لگے جن وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل
 ہوئیں۔ موفوق کے غلام نے لپک کے اس کے پیٹ پر ایسا نیزہ مارا کہ لگتے ہی جگر
 کے پار ہو گیا تڑپ کے دریا میں گرا ہمارا ہوں نے اٹھا کے کشتی میں رکھا اور راہی ہو
 خبیثت تک پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا۔ موفوق نے اہل کشتی اور نیز اس غلام
 کو انعامات دئے اور گرانہما خلعتیں عنایت کیں۔

بہبود کے مارے جانے کے بعد خبیثت کو طمع و امنگیر ہوئی بہبود کے اعزہ و اقارب
 کو گرفتار کر کے مال و اسباب طلب کیا ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا اس پر خبیثت
 نے بعضوں کو ان میں سے پٹوایا اور بہبود کے بعض مکانات کو بائید و قینہ گھدوایا
 اس سے خواص اور عوام میں برہمی پیدا ہوئی اکثر بھاگ کے موفوق کے پاس چلے آئے
 موفوق نے عہدہ ہائے جلیلہ اور انعامات عطا فرمائے اور بقیہ ہمراہیان بہبود کو امان
 کی منادی کرا دی چونکہ اکثر اوقات ہوائے مخالفت کی وجہ سے دریا عبور کرنے میں
 وقتیں پیش آتی تھیں اس وجہ سے بہ نظر آسانی مختارہ کے جانب غربی کی صفائی کا
 حکم دیا اس سمت میں باغات اور جنگل کی کثرت تھی کام کرنے والوں اور فوج محافظ
 کی حفاظت کی غرض سے مورچے قائم کئے اور ان کے ارد گرد عمیق عمیق خندقیں

کھدوائیں مگر نادانستگی راہ اور ہاڑی دروں کے سبب بجائے کامیابی کے نقصان
 اٹھانا پڑا۔ زنگیوں کو یہ راہیں مشق تھیں وقت بے وقت دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے
 دفعہ حملہ کر دیتے تھے اور ان غریب لشکریوں کو نقصان کے ساتھ سپاہ ہونا پڑتا تھا ستم تو
 یہ تھا کہ زنگیوں کے خوف سے ان لوگوں تک امدادی فوج بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔ موفقی
 نے مجبور ہونے کے اپنے اس قصد سے رُک کے پھر انہدام شہر پناہ کی طرف عنان تو جبر
 سعطف کی اور راستہ کے فرائض کرنے میں جان توڑ کوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی
 مزدوروں کے ساتھ شہر پناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہو جاتا تھا اور کبھی چوہا
 میں آگے شمشیر بکفت میدان جنگ میں جا پہنچتا۔ آخر کئی روز کی لڑائی اور شبانہ روز
 جانکاہ محنت کے بعد نہر سلمیٰ کی جانب شہر پناہ کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ زنگیوں نے
 یورش کی۔ موفقی بذاتِ خاص لڑنے لگا ہر سردار اور سپاہی جانفروشی پر تیار ہو گیا۔
 عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ جاسین کے ہزار ہا آدمی کھیت رہے زخمیوں کا کوئی
 شمار نہ تھا۔ چار روز تک برابر یہ لڑائی صبح سے شام تک بڑے زور و شور سے ہونی
 رہی لیکن دونوں حریف میں سے ایک کی بھی قسمت کا آخری فیصلہ ظہور میں نہ آیا اور
 نہ کسی نے ہمت ہاری۔ شہر کے شمالی جانب دوپہل تھے جس پر اس وقت تک محاصرین کا
 قبضہ نہ ہوا تھا۔ محصورین وقت جنگ اکثر انھیں پلوں سے عبور کر کے شاہی لشکر پر پڑتے
 تھے اور نقصان کثیر ہو پانچا کے واپس چلے جاتے تھے موفقی نے ان پلوں کی حالت سے
 مطلع ہو کے جبکہ زنگیوں سے گھمسان لڑائی ہو رہی تھی ایک دستہ فوج معہ مزدوروں کے
 ان کے توڑنے کو بھیج دیا۔ زنگیوں نے توڑنے میں مزاحمت کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ شاہی
 فوج نے دوپہر تک میں توڑ ڈالا۔ بعد اسکے موفقی کے رکاب کی فوج ایک دوسرے جا
 سے شہر پناہ کی دیوار کو توڑنے لگے گھس پڑی اور قتل و غارت کرتی ہوئی ابن سمان کے مکان
 تک بڑھ گئی جہاں کہ نصبت کے خزانے اور دفاتر تھے پھر یہاں سے بڑھ کے جامع مسجد

پہنچی اور اسکو ویران کر کے ایک بہت بڑی خونریز جنگ کے بعد اسکے منبر کو موفق کے پاس
 اٹھالائے زنگیوں نے روکنے کی ہر چند کوشش کی مگر بائیں پر طیار ہونے لیکن اس کو
 کچھ فائدہ نہ پہنچا۔ اس واقعہ کے بعد شہر سپاہ کی دیوار منہدم ہو گئی فتحمدی کے آثار نمایاں
 ہو چلے مگر منگامہ کارزار تیزی اور سختی سے گرم ہو رہا تھا جیسا کہ تھوڑی دیر پیشتر تھا اس اثناء
 میں اتفاق سے جبکہ جمادی الاول ۲۶۹ھ کے پورا کرنے کو پانچ راتیں باقی رہ گئی تھیں
 موفق کے سینہ پر ایک تیر آگیا اسی وقت لڑائی موقوف کر دی اپنے لشکر گاہ موقیہ میں
 واپس آیا۔ زخم کے علاج میں مصروف ہوا اگلے دن لشکریوں کی تسلی خاطر کے خیال سے
 پھر میدان جنگ کا راستہ لیا تمام دن اسی مستعدی سے لڑتا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے
 پہلے لڑتا تھا اس سے موفق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب فرانس ہو گیا
 مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی راہ دی۔ موفق نے اس راہ سے
 مخالفت کی اور برابر چندے جنگ موقوف کر کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تین
 ماہ تک علاج کرتا رہا تا آنکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زخم مندل ہو گیا۔ برص
 دھوم و حمام سے غسل صحت کیا عساکر اسلامیہ میں پھر چل پھل ہونے لگی لشکریوں
 کے دل خوش اور چہرے بشاش ہو گئے۔

زنگیوں نے اس موقع کو مغتنامت سے شمار کر کے شہر سپاہ کی منہدم دیواروں کو
 پھر درست کر لیا اور حفاظت کی غرض سے جا بجا فوجیں متعین کیں۔ موفق نے مصحتیابی
 کے بعد ہی پھر دھاوا کیا اور شہر سپاہ کے توڑنے کا حکم صادر فرمایا اسلامی فوجیں سیلاب
 کی طرح شہر سپاہ کی دیواروں سے نہر سلمیٰ کے قریب جا کے ٹکر کھانے لگیں جنگ کا
 بازار گرم ہو گیا زنگیوں کا لشکر اسلامی فوج کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور یہ تھے کہ جان
 کھیل کے پلے پڑتے تھے۔ ایک روز جبکہ اس سمت میں نمونہ قیامت جنگ عرصہ ہی تھی
 موفق نے جنگی کشتیوں کے بیڑے کو نشیبی نہر ابن خصیب کی جانب سے حملہ کرنیکا

اشارہ کیا اسلامی امیر البحر یہ حکم پاتے ہی جنگی کشتیوں کے بیڑہ کو نشیبی نہرا بن خصب کے کنارہ پر اس تیزی سے پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اسکی خبر تک نہ ہوئی وہ پورے زور و مجموعی قوت سے اس طرف نہر سلمیٰ کے قریب عساکر اسلامیہ سے لڑتے رہے اور اُس طرف بحری فوج نے زنگیوں کے ایک محسّر کو جلا دیا جو کچھ پایا لوٹ لیا رہنے والوں کو گرفتار و قید کر لیا غروب آفتاب کے وقت اسلامی فوجیں مظفر و منصور میدان جنگ سے اپنے فرو و گاہ پر آئیں۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد پھر دھاوا ہوا اسلامی مقدمتہ الجیش انکلا بن خبیت کے محل تک قتل و غارت کرتا ہوا پہنچ گیا اسکا محسّر اسکے باپ خبیت کے محل سے ملا ہوا تھا علی بن ابان نے نہروں میں جو محسّر کے چاروں طرف تھیں پانی جاری کرنے اور عساکر اسلامیہ کے مقابل متعد و خندقیں کھودنے کا حکم دیا تاکہ اسلامی فوجیں انکلا کے محل تک نہ پہنچنے پائیں زنگی فوج کا ایک حصہ اس کام میں مصروف ہوا دوسرا حصہ بدستور مصروف جدال و قتال رہا موفقیے حریت کی ان حرکات سے مطلع ہو کے فوراً اپنے رکاب کی فوج کو چند ٹکڑیوں پر منقسم کر کے ایک کو خندق اور نہر کے پاس پر مامور کیا دوسری ٹکڑی کو دجلہ کی جانب سے قصر خبیت پر حملہ کا اشارہ کیا باقی رہی تیسری ٹکڑی۔ اسکو لاکال لکار لڑا رہا تھا چونکہ زنگیوں نے دجلہ کی جانب حفاظت کا پورا پورا انتظام کر لیا تھا اس وجہ سے بیڑہ جنگی کو کامیابی نہ ہوتی تھی جوں ہی جنگی کشتیاں دیوار شہر سپاہ کے قریب پہنچیں اوپر سے سنگ باری اور آتشباری ہونے لگتی تھی مجبورانہ پیچھے ہٹا تا پڑتا تھا ایک شبانہ روز اسی عنوان سے لڑائی ہوتی رہی۔ موفقی نے یہ رنگ دیکھ کے کشتیوں کی چھتوں کو لکڑی کے تختوں سے پائے اور ان کو ادویہ مانع احراق سے رنگنے کا حکم دیا نفاطین اور نامی جنگ آوروں کے ایک گروہ کو اس پر متعین فرمایا تمام رات جنگ کے اہتمام سے نہ سو یا سرداران لشکر کو ہدایتیں لشکریوں کو بڑھاوے اور انعامات دینے کے وعدے کرتا رہا اسی شب میں

عشا کے وقت محمد بن سمان (غبیت کے سکریٹری) نے حاضرین کے امن کی درخواست کی موفق نے خلعت عنایت کی امن دی اور عزت و احترام سے ٹھہرایا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لڑائی چھڑ گئی اور موفق نے زنگیوں کی قوت جنگ تقسیم کرنے کے خیال سے ابو العباس کو زنگی سپہ سالاروں کے مکانات کے جلانے کا حکم دیا جو کہ قصر غبیت کے قریب متصل واقع تھے اُدھر ان کشتیوں کا بیڑہ جنگی چھتیں ایسی ادویہ سے رنگی ہوئی تھیں جس پر آگ کا اثر نہ پہنچ سکتا تھا قصر غبیت کی جانب وجہ کی طرف سے بڑھا زنگیوں نے آتشباری شروع کی مگر بے سود تھا اسلامی کشتیوں کا بیڑہ نہایت تیزی سے آتشباری کرتا ہوا قصر غبیت کے نیچے جا لگا نفاطوں نے روشن نفاط کی پچھاریاں بھربھر کر خالی کرنا شروع کر دیں قصر غبیت کی بیرونی عمارت جلا کے خاک و سیاہ کر دی گئی زنگیوں کا لشکر مجلس غبیت میں جا چھپا عساکر اسلامیہ نے وجہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے سمجھوں میں آگ لگا دی بڑے بڑے عالی شان مکانات جل رہے تھے کوئی بچھانے والا نہ تھا قیمتی قیمتی اسباب اور سامان کو آگ نے دم کی دم میں نیست و نابود کر دیا اور جو کچھ اس عام آتش زنی سے باقی رہ گیا اسکو عساکر اسلامیہ نے پہنچ کے لوٹ لیا اور عورتوں کی ایک جماعت کو انکے پنجہ غضب سے چھڑا لیا زنگیوں کے نامی نامی سرداروں کے مکانات اور نیز انکلائے بن غبیت کا محل جل کر ایک تو وہ خاک ہو گیا اس اثناء میں عشا کا وقت آ گیا موفق نے عساکر اسلامیہ کو واپسی کا حکم دیا۔

اگلے دن صبح ہوتے ہی موفق نے نصیر میر البحر کو اس پل پر قبضہ کرنے کو مامور کیا جسکو غبیت نے نہرا بی خصیب پر حال میں علاوہ ان دو پلوں کے تعمیر کیا تھا جو مختارہ کے شرقی جانب میں تھے اور سرداران عساکر اسلامیہ کو تھوڑی تھوڑی فوجوں کے ساتھ مختارہ کے ہر چار طرف بھیلادیا نصیر پہلے ہی حملہ میں معہ اپنی

جنگی کشتیوں کے پل کے قریب پہنچ گیا اس کے بعد ہی چند اسلامی کشتیاں اور
 بلا اجازت نصیر کی کشتیوں کے قریب پہنچ گئیں زنگیوں نے پل سے تیر باری
 شروع کر دی نصیر نے اپنی کشتیوں کو پیچھے ہٹانے کا قصد کیا مگر اس پر قادر نہ ہوا
 کیونکہ کشتیوں کی کثرت نے وہاں نہر کا بند کر رکھا تھا زنگیوں نے اس امر
 احساس کر کے اپنی کشتیوں کو بڑھایا اسلامی کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکر
 کھا گئیں متعدد کشتیاں ٹوٹ گئیں گرفتار ہو جانے کے خیال سے ملاح دریا میں
 کود پڑے نصیر نے بھی انھیں ملاحوں کے ساتھ اپنے کو دریا میں ڈال دیا ڈوب گیا
 باقی کشتیاں صحیح و سلامت واپس آئیں تمام دن بڑے زور شور سے لڑائی ہوتی
 رہی۔ سلیمان ابن جامع (زنگیوں کے نامور سپہ سالار) نے اس لڑائی میں کمال
 مردانگی سے کام لیا جس طرف جاتا تھا صفوں لشکر کو الٹ پلٹ دیتا تھا مگر اختتام
 جنگ کے قریب شکست کھا کر بھاگا سو اتفاق سے ان مقامات سے ہو کے گذرا
 جہاں پراگ کے شعلے روغن لفظ کی پچکاریوں کا کام دیتے تھے ہزار جہد و جہد اس سے
 نجات پائی لڑتے لڑتے شام ہو گئی تھی دونوں حریف نے اپنے اپنے لشکر کو واپسی کا
 حکم دیا۔ موفق بھی صحیح و سالم اپنے لشکر گاہ میں واپس آیا۔

اسی شب میں موفق بجا رضہ وج مفاصل گرفتار ہو گیا ماہ شعبان ۲۶۹ھ تک
 سلسلہ علالت قائم رہا مجبوری ہنگامہ کارزار بھی گرم نہ کیا گیا زنگیوں کو موقع
 مناسب مل گیا بلوں کو درست کر لیا علی الخصوص اس پل کو از سر نو تعمیر کرایا
 جہاں پر کہ نصیر امیر البحر ڈوب گیا تھا مزید براں پل کے آگے دونوں کناروں پر
 پتھروں کے بڑے بڑے ڈھس بانڈھ دیئے تاکہ کشتیوں کی آمد و رفت نہوسکے۔
 موفق نے صحتیابی کے بعد دھاوا کا حکم صادر فرمایا جنگی کشتیوں کے بیڑہ کو دو حصہ
 پر منقسم کر کے ایک کو نہرا بی نصیب کے شرقی جانب اور دوسرے کو غربی جانب سے

بڑھے کا اشارہ کیا ان دونوں حصوں کے ساتھ مزدوروں نجاروں اور نفاطوں کی ایک ایک جماعت تھی ایک کشتی پر گھاس بھوس اور نئے وغیرہ بار کر کے روانہ کیا تھا عرض مل کے جلائے اور دھسوں کے توڑنے کا سامان کثرت سے فراہم کر کے دسویں شوال ۱۷۹۹ء کو عام حملہ کر دیا سنگامہ کارزار گرم کر کے کومر ہیا طرف اپنی فوج کو بھیلایا یا انکلاے بن خبیت ابن ابان اور ابن جامع مل کے بچانے کو بڑھے گھسان لڑائی ہونے لگی دونوں طرف کے سیکڑوں آدمی غرق اور ہزاروں قتل ہوئے وقت عشا تک بڑے زور شور سے لڑائی جاری رہی بالآخر عسا کر اسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی مزدوروں نے دھسوں کو توڑ کر نہر میں بہا دیا نفاطوں نے روغن لفظ کی پکاریاں خالی کرنا شروع کر دیں

نجاہوں نے پہونچ کے پل کے پرزہ پرزہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا اور گھاس بھوس اور نئے کو ڈال کے روغن لفظ چھڑک کے آگ لگا دی۔ نہر کا وہاں نہ صاف اور کشادہ کر دیا گیا۔ کشتیوں کی آمد و رفت سہولت اور آسانی سے ہونے لگی۔ رنگیوں کا ایک گروہ کثیر اس معرکہ میں کھیت رہا۔ کچھ لوگوں نے امن کی درخواست کی موفق نے ان کو اپنے سایہ امن و عاطفت میں جگہ دی خبیت اپنے اور اپنے ہمراہوں کے مکانات جل جانے کے بعد نہرانی خبیت کے شرقی جانب چلا آیا تجارت پیشہ اور بازاری اس طرف اٹھائے ضعف اور مجبوری کے آثار پیدا ہو گئے رسد غلہ وغیرہ کی آمد بالکل بند ہو گئی شہر میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا تھا وہ بھی تمام ہو گیا گرانی اور گرسنگی کی یہ نوبت پہونچی کہ پہلے تو رنگیوں نے گھوڑوں اور گدھوں کو کھایا بعد ازاں جب اسنے بھی کفایت نہ کی تو آدمیوں نے آدمیوں کو کھانا شروع کر دیا مگر خبیت کا دم و خم وہی رہا اور موفق جانب شرقی کے منہدم کرنے میں اسی سرگرمی سے مصروف رہا جیسا کہ جانب غربی کے توڑنے میں مشغول تھا۔ اس سمت میں میدانی کا مکان تھا یہ نہایت مضبوط و مستحکم بنا ہوا تھا بڑے بڑے دھسن اور اونچی اونچی

چوڑی چوڑی دیواریں ہر چار طرف محافظت کی غرض سے بنی ہوئی تھیں جا بجا بجنیقیں
 نصب تھیں آلات حصار شکنی بھی کثرت سے رکھے ہوئے تھے اسلامی فوجیں اسکے
 قریب پہنچنے تک گئیں موقوف نے لشکارا مگر بلندی کی وجہ سے چڑھنے سے نہیں سیکھیں
 لگائیں پھر بھی کامیابی نہ ہوئی تب کمند ڈال کے قبضیت کے پھر یوں کو کھینچا ان کا
 گرناتھا کہ زنگیوں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا نفاطوں نے روغن نفاط کی ہزاروں چمکال

خالی کر دیں سارا مکان ایک لمحہ میں جل کے خاک و سیاہ ہو گیا عسا کر اسلامیہ سے
 داخل ہو کے جو کچھ پایا لوٹ لیا قرب و جوار کے مکانات میں آگ لگا دی قبضیت
 کے خاص خاص مصاحبین امن کے خواستگار ہوئے موقوف نے نہایت خوشی سے
 ان کو امن دی انعامات دیئے۔ صلے دیئے ان لوگوں نے ایک بہت بڑے بازار
 کا پتہ بتا دیا جو پہلے پل کے قریب بہار کے نام سے آباد تھا اس بازار میں بڑے بڑے
 تاجر اور ساہوکار رہتے تھے زنگیوں کو اس سے بہت مدد ملتی تھی۔ موقوف نے
 اس پر دھاوا کر دیا اور جلا دینے کے قصد سے نفاطوں کو لے کے قتل و غارت
 کرتا ہوا بڑھا۔ زنگیوں نے جی تیر کے مقابلہ کیا موقوف کے لشکر یوں نے آگ لگا دی
 تمام دن جنگ اور آتش زنی کا بازار گرم رہا شام کو قبضیت اپنے لشکر گاہ میں لوٹ آیا
 تاجر اور ساہوکار موقع پاکے بالائے شہر میں اٹھ گئے اس واقعہ کے بعد قبضیت نے مختارہ
 کے جانب شرقی میں بھی خندقیں کھدوائیں اور دمدموں کا باندھنا شروع کر دیا جیسا
 کہ شہر کے جانب غربی میں حفاظت کے خیال سے خندقیں کھدوائیں اور دمدمے
 بندھوائے تھے اسکے اہل و عیال جانب غربی سے شرقی جانب چلے آئے باقی
 رہے اسکے ہمراہی وہ نہر عربی ہی پر مقیم رہے۔ موقوف نے ان حالات سے مطلع ہو
 جانب غربی پر دھاوا کیا بہت بڑی لڑائی ہوئی ہزار ہا آدمی دونوں فریق کے مارے
 گئے بالآخر موقوف نے مختارہ کے شہر سیاہ کو شہر غربی تک جلا کے خاک و سیاہ کر دیا۔

اس سببت میں خبیت کے نامی نامی جنگ اوروں کا جھگڑا تھا ایک چھوٹے سے قلعہ
 میں حفاظت کا سامان کئے ہوئے پناہ گزین تھے موقع جنگ پر جس وقت موفق لشکر
 مصروف جدال و قتال رہتا اس وقت یہ لوگ وائیں بائیں سے نکل کے حملہ آور ہوتے
 تھے اس سے موفق کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا تھا موفق نے اس قلعہ کے سر کرنے کے
 قصد سے سرداران لشکر کو جمع کیا اور براہ دریا و خشکی ایک عام حملہ کا حکم دیا خبیت نے
 قلعہ کی حفاظت اور موفق کے حملہ سے بچانے کو مہلبی اور ابن جامع کو مامور کیا مگر
 کامیابی نصیب نہ ہوئی غائب و خائسہ مجبورانہ موفق کے لشکریوں کے حوالہ کر کے
 بھاگ گئے زنگیوں کا ایک گروہ کثیر کھیت رہا قلعہ کے مفتوح ہونے پر عورتوں اور
 لڑکوں کے جم غفیر نے قید کی مصیبت سے رہائی پائی اور موفق مظفر و منصوب اپنے
 لشکر گاہ میں واپس آیا۔

جانب غربی موفق کا قبضہ جس وقت موفق نے خبیت کے محاصرے کی تفصیلات

کو منہدم کر دیا اس وقت جنگی ضرورت کے خیال سے راستوں کے وسیع کرنے کا
 حکم صادر فرمایا۔ اول پل کو جو نہراہی خبیت پر تھا جلا دیا اس غرض سے زنگی نہیں
 ایک دوسرے کو مدونہ پہنچا سکیں اس پل کے توڑنے اور جلائے میں بہت بڑھوسہ
 ہوا طرفین سے آتشباری ہوئی ہزار ہا پچکاری روغن نطف کی خالی کی گئیں زنگیوں نے
 موفق کی ایک کشتی غرق کر دی جس پر پل کے جلائے کا سامان تھا موفق عنوان
 جنگ بدلتا ہوا دیکھ کے خود سوار ہو کے وہاں نہراہی خبیت کی طرف حملہ کیا ہوا
 بڑھا اور لشکریوں کو نہر کے شہرتی اور غربی جانب سے حملہ کرنے کا حکم دیا تاکہ
 موفق کے لشکری پل تک غربی جانب سے لڑتے بھڑتے پہنچ گئے یہ سمت
 انکلانی بن خبیت اور ابن جامع کی سپردگی میں تھی ایک سخت و خونریز جنگ
 کے بعد موفق کے لشکریوں نے پل کے جانب غربی میں آگ لگا دی اس آتشباری

موفق کے لشکر کا دوسرا کالم شرقی جانب سے پہنچ گیا اور اس نے بھی ہزاروں کمانوں
بھاگے پل کے اس جانب میں بھی آگ لگا دی۔ زنگی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں پل
گھاٹ جہاں پر خبیت کی کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ مکان جہاں پر کشتیوں کی مرمت
ہوا کرتی تھی اور قید خانہ جلا دیا گیا تھا۔ خبیت مع اپنے ہمراہیوں کے اس سمت کے
دوسری سمت شہر کے شرقی جانب چلا گیا۔ اور موفق نے اپنے کامیابی کا جھنڈا
غربی جانب پر گاڑ دیا۔ خبیت کے اکثر سپہ سالاروں نے امن حاصل کر لی اور جو
بھاگ سکے بھاگ گئے انہیں فراریوں میں خبیت کا قاتلی بھی تھا۔

اس پل کے جل جانے کے بعد ادھر خبیت نے دوسرے پل کی حفاظت پر
نامی نامی سپہ سالاروں کو متعین کیا اور موفق نے اس پل کے جلانے کے قصد سے
اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو بڑھنے کا حکم دیا مشہور مشہور سردار زماؤں کی ایک فوج
مرتب کی گئی بڑے بڑے سوراخوں کی افسری دی گئی پل توڑنے کے آلات اور
لفظ کی پکپکریاں، کارگیروں اور مزدوروں کی بہت بڑی جماعت اس فوج کے
ہمراہ تھی۔ دونوں فوجیں رو در رو ہوتے ہی بھر گئیں غربی جانب میں ابوالعباس کے
مقابلہ پر انکلا سے اور ابن جامع تھا اور شرقی جانب میں اسد (یہ موفق کا آزاد غلام تھا)
کے مقابلہ پر خبیت اور مہلبی لڑ رہا تھا تین پہر کامل لڑائی ہوتی رہی آخر الامر انکلا سے
اور ابن جامع کو ہزیمت ہوئی فتح مند گروہ نے پل پر پہنچ کے آگ لگا دی۔ بات کی
بات میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پاسے رفتن نہ جاسے ماندن کا
مضمون ہو گیا مجبوراً انکلا سے اور ابن جامع مع اپنے ہمراہیوں کے نہر میں کود پڑا
ایک گروہ کثیر ڈوب کر مر گیا مگر یہ دونوں ہزار خرابی و وقت بیچ گئے پل کے جلنے کی
حالت میں جو شعلے حرارت قاتلی کی وجہ سے آسمان سے باتیں کرنے کو بلند ہوئے
تھے اور پھر اجزا کثیرہ ارضیہ کے مل جانے سے اپنے مرکز ثقل کے طرف گر رہے تھے

انہوں نے اُن مکانات باغات اور باداروں میں آتش زنی شروع کر دی جو کنائے
 نہر پر تھے موفق کا لشکر دونوں جانب پھیل گیا غبیت کے اُس مکان کو لوٹ لیا جس میں
 مجلس کے جلنے کے بعد اٹھیا تھا عورتوں اور لڑکوں کو قید سے رہا کیا اور زنگیوں کی
 ہر قسم کی کشتیوں کو جو نہرائی خصیب میں لنگر زن تھیں دجلہ کی جانب نکالا جوں ہی
 وہاں نہر سے نکلیں اپنے لشکریوں کو لوٹ لینے کا حکم دیا۔ انکلا سے بن غبیت نے
 بھی امن حاصل کر لی غبیت کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوا بعد اسکے سلیمان
 بن موسیٰ شعرانی (یہ زنگیوں کا بہت بڑا نامور سپہ سالار تھا) امن کا خواستگار ہوا
 تھوڑی دیر تو قف کر کے اسکو بھی امن دیدی گئی۔

سلیمان بن موسیٰ کے آنے کے وقت عجب واقعہ پیش آیا زنگیوں کو اسکے نکلنے سے
 اشتعال پیدا ہوا مجتمع ہو کے لڑنے لگے سلیمان کسی طرح سے اُن سے اپنا پیچھا چھڑا کر
 موفق کی خدمت میں آ کے حاضر ہو گیا موفق نے نہایت احترام سے اسکو ٹھیرایا
 حسن سلوک سے پیش آیا اسکے بعد ہی شبل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرا نامور
 سپہ سالار بھی امن حاصل کر کے موفق کے لشکر میں چلا آیا غبیت اور اسکے اراکین دولت کو
 ان لوگوں کے امن حاصل کرنے سے سخت صدمہ ہوا مگر چارہ کار ہی کیا تھا شبل
 بن سالم کے چلے آنے سے غبیت کو زیادہ نقصان اسوجہ سے اٹھانا پڑا کہ یہ
 اکثر موفق کے لشکر پر شجون مارتا تھا جس سے ہمانوں کو بھی نقصان پہنچا کرتا تھا
 جانب شرقی پر انھیں لڑائیوں کے اثناء میں ایک روز موفق نے دربار عام
 کیا سرداران لشکر اراکین دولت ارباب شوری اور وہ
موفق کا قبضہ
 نامی نامی سپہ سالار بھی حسب مدارج حاضر ہوئے جو فریق مخالفت سے علیحد ہوئے
 موفق کے سایہ عاطفت میں آ کے پناہ گزین ہوئے تھے موفق نے حمد و نعت کے بعد
 پناہ گزین سپہ سالاران لشکر مخالفت سے مخاطب ہو کے کہا میرے عزیز دلاؤ رو

تم لوگ جس مصیبت میں گرفتار تھے اُس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہماری کوششوں کے ذریعہ سے نجات دی اس کا شکر یہ ہے کہ مختارہ کے جانب شرقی پر قبضہ کرنے میں جان توڑ کے کوشش کرو تم لوگ اسکی راہوں اور ہر قسم کے حالات سے بخوبی آگاہ ہو میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خیال سے کیا اب تم لوگ بھی اپنے محسن کے احسان کے بدلہ میں خالصاً و مخلصاً للہ اس مہم کو سر کرو میں علاوہ رہیں منت ہونے کے تم لوگوں کو خاطر خواہ انعام دوں گا پناہ گزین سپہ سالاروں نے ایک زبان ہو کے عرض کی خداوند نعمت اہم لوگ دولت عباسیہ کے لئے اپنا خون بہانے کو تیار ہیں مگر گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ کسی مخصوص سمت کے طرف متعین فرمائے جائیں تاکہ ہماری جان نثاری اور دشمنان دولت کے مقابلہ کرنے کی کیفیت آپ ملاحظہ فرمائیں ابات معقول تھی موقوفے منظور فرمائی اسی وقت دجلہ کے گل گھاٹوں پر کشتی کی فراہمی کا گشتی فرمان بھیجا ہر چہا طرف کشتیوں کی آمد شروع ہو گئی دوہی ایک روز میں بے شمار کشتیاں ہر قسم کی موجود ہو گئیں جن پر دس ہزار ملاح ملازم تھے۔ موقوفے نے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعباس کو مختارہ کے شرقی جانب سے براہ دریا حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر خبیت کے محسرا جلائے پر قادر نہ ہو سکناتو مہلبی کے مکان پر آ کے مجتمع ہونا ابوالعباس کے ہمراہ ڈیڑھ سو جنگی کشتیوں کا بیڑہ تھا جو شرقی جانب کی طرف سیلاب کی طرح بڑھا ان کشتیوں پر علاوہ ملاحوں اور مزدوروں کے دس ہزار فوج تھی خشکی کی راہ سے دریا کے کنارہ کنارہ ایک فوج قدر اندازوں کی روانہ کی اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ اگر سیاہ بخت زنگی شاہی بیڑہ جنگی سے مزاحمت کریں تو انکو بے تامل نشانہ تیرا بل بنا دینا یہ دونوں فوجیں اول ہی شب میں ذیقعدہ کو روانہ کی گئیں صبح ہوتے ہی کہ ذیقعدہ ۶۵ھ کی آٹھویں تاریخ تھی خود بھی

چیدہ چیدہ جنگ آوروں کو لئے ہوئے بقصد حملہ بڑھا۔ اور زنگیوں نے تیر کا مینہ برسانا شروع کیا شاہی تیر انداز جو اب ترکی بہ ترکی دینے پر تل گئے دوسری طرف سے موفق نے حملہ کر دیا ابو العباس نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور زنگی اسکی مدافعت کی کوشش کر رہے تھے بالآخر زنگیوں کو شکست ہوئی ایک گروہ کثیر مارا گیا کچھ لوگ گرفتار کر لئے گئے جس کا خاتمہ جنگ پر وارا کیا گیا۔ موفق نے نصبت کے مکان پر دھاوا کیا نصبت نے اپنے ہمراہیوں کو لگا رہا ہر چار طرف سے چھڑٹ ہاندھ کے ٹوٹ پڑے مگر فوراً منہ کی کھا کے بھاگ کھڑے ہوئے اور جبکو حریف مقابل کے تصرف سے بچانے کو آئے تھے مجبوری اپنے مقابل حریف کے حوالہ کر گئے۔ فتح مند گروہ نے فرش اسباب اسامان آرائش غرض اور جو کچھ پاپا لوٹ لیا بیس نعر عورتیں اور لڑکے گرفتار کر لئے گئے نصبت بھاگ کے مہلی کے مکان میں جا چھپا شاہی لشکر نے تعاقب کیا نصبت نے وہاں بھی پناہ کی صورت نہ دیکھی نکل بھاگا۔ مہلی کا مکان بھی لوٹ لیا گیا اس اثناء میں شام ہو گئی لشکری مال غنیمت فراہم کر کے کشتیوں پر بار کرنے میں مصروف ہوئے زنگیوں کو طمع دامنگیر ہوئی مجتمع ہوئے پھر مقابلہ پر آئے اور نیچا دیکھ کے واپس گئے۔ موفق نے معہ اپنے لشکر کے مظفر و منصور موقیہ کی جانب مراجعت کی۔

اس واقعہ کے بعد لولور ابن طولون کے غلام کی عرضی آئی جس میں حاضری کی اجازت طلب کی تھی موفق نے مصلحتاً لولور کے آئے تک لڑائی موقوف کر دی۔

خلیفت کا مارا جانا تیسری محرم ۲۷ھ کو لولور ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ موقیہ میں وارد ہوا موفق نے حسب مدارج اسکے لشکریوں کو انعامات اور صلے حرمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کی طیاری کا حکم دیا۔

چونکہ نصبت نے زبانتہ قبضہ نہراہی نصیب میں پلوں کو تڑوا کے ایک جدید باندہ وہاں تہر پر دونوں طرف سے ایسا بندھوایا تھا جس سے پانی کی روانی میں کمی

آگئی تھی کشتیوں کی آمد وقت بند ہو گئی تھی اور اگر اتفاق سے کوئی کشتی وہاں تک پہنچ بھی جاتی تو اس کی واپسی دشوار تھی موفوق کی آئندہ کامیابی اس باندھ کے توڑنے پر موقوف تھی ایک مدت سے موفوق اسکے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور خصیت اسکی مدافعت میں سرگرم تھا لولود کے آنے پر موفوق نے اس مہم پر لولود کو متعین فرمایا چنانچہ لولود نے نہایت مردانگی سے دھاوا کیا ایک ہفتہ تک روزانہ لڑائی ہوتی رہی سیکڑوں مکانات جو کنارہ پر بنے ہوئے تھے جلا دیئے ہزار ہا آدمی خاک و خون میں ملائے گئے غربی جانب میں تھوڑی سی زمین باقی رہ گئی تھی جس پر ہنوز موفوق کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر چند مکانات اور باغات تھے جس کی حفاظت پزنگیوں کا ایک گروہ مہمور تھا ابو العباس نے اس سمت پر حملہ کر دیا مخالفین میں سے سوا معدودے چند کے کوئی جانبر نہ ہو سکا۔ اسکے بعد لولود نے باندھ پر بھی قبضہ کر لیا اور اسکو گھدوا ڈالا نصیبت طیش میں آکر خود مقابلہ پر آیا اور ابو العباس موقع پا کے کھلب کے مکان کے طرف بڑھا پناہ گزینوں کی فوج شبل بن سالم کے رکاب میں تھی شبل بن سالم نے ان میں سے ایک ٹکڑے کو علیحدہ کر کے ایک گوشہ میں چھپا کے یہ ہدایت کی کہ جس وقت تم لوگ کرنا کی آواز سننا یا جب میں اپنے سیاہ پھر پے کو جو کرمانی کے مکان پر نصب ہے جنبش دوں اُس وقت بے تامل حملہ کر دینا۔ زنگیوں کو اسکی خبر نہ تھی ابو العباس کے مقابلہ پر جی توڑ کے لڑ رہے تھے خشکی اور دریا میں ہنگامہ کا زرار گرم تھا وفتاً شبل بن سالم نے زنگیوں کے پشت پر پہنچ کے سیاہ جھنڈی کو حرکت دی کرنا واسلے کرنے بجایا سارا میدان جنگ پناہ گزینوں سے بھر گیا جنگ کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا زنگیوں کا لشکر بے قابو ہو کے بھاگ کھڑا ہوا ہزار ہا مارے گئے اور بے شمار ڈوب کر مر گئے یہ واقعہ تائیسویں محرم ۲۷ھ یوم دوشنبہ کا ہے۔ موفوق نے شہر پر قبضہ کر لیا قیدیوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ غلیل

اور ابن ابان مع اپنے اور اپنے بھائی کے اولاد کے گرفتار کر لیا گیا۔ خبیت مع اپنے
 بیٹے انکلا سے اور ابن جامع وغیرہ سپہ سالاروں کے نہر سفیانی کے طرف بھاگ گیا جسکو
 بوقت فرار اپنا بلجا، دوا و ابنا رکھا تھا۔ موفق نے براہ دریا تعاقب کیا اور لولو کے خشکی کا
 راستہ لیا۔ کنارے نہر پر خبیت سے ملاقات ہو گئی خبیت نہایت تیزی سے نہر عبور
 کر گیا لولو نے اپنے ہمراہیوں کے دو چار گھوڑوں کو مار کے دہانہ نہر میں ڈال دیا
 اور اس پر سے مع اپنے ہمراہیوں کے عبور کر کے خبیت سے جا بھر خبیت دو
 چار ہاتھ لڑ کے پھر بھاگا لولو نے تعاقب کیا خبیت کمال سرعت سے نہر سامان کو
 عبور کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ گیا جو اسکے قرب میں تھی چونکہ شام کا وقت آ گیا تھا
 اور راستہ معلوم نہ تھا لولو نے مع اپنے ہمراہیوں کے مراجعت کی موفق نے
 لولو اور اسکے لشکریوں کو انعام اور صلے مرحمت اور اپنے ہمراہیوں کو لولو کی
 امداد نہ کرنے پر نصیحت و ملامت کی ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم نے لولو کی امداد
 میں اس خیال سے کوتاہی کی کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اس مرتبہ ہماری عفو و تقصیر
 کی جائے آئندہ سے ایسی غلط فہمی نہ ہونے پائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔
 اس واقعہ کے دوسرے دن موفق نے اپنے سرداران لشکر کو مجتمع کر کے خبیت
 کے تعاقب کی ترغیب دی سمجھوں نے ایک زبان ہو کے عرض کیا۔ ہم لوگ دولت
 عباسیہ کے لئے اپنا خون بہانے میں دریغ نہ کریں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس حملہ میں
 ہم اسکو بغیر گرفتار کے ہوسے زندہ واپس نہ آئیں گے مناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے
 عبور کر جانے کے بعد کشتیاں ہٹا دی جائیں حریف مقابل کے مقابلہ سے جی
 چڑا کے ہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں، موفق نے زنگیوں کا اس مستعدی
 اور آمادگی پر شکر یہ ادا کیا۔ جلسہ برخواست ہو گیا سرداران لشکر اپنے اپنے خیموں میں
 آئے موفق فوج کی آراستگی اور حملہ کی تیاری میں مصروف ہوا تیسری صفر ۲۷۲ھ کو

کہ دن جمعہ کا تھا بقصد حملہ لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور بعد عبور کرنے کے کشتیوں کو ہٹا دیا
 عساکر اسلامیہ نہایت تیزی سے طے مسافت کر کے خبیت کے سر جا پہنچے گھمسان لڑائی
 شروع ہو گئی خبیت کا میمنہ اسلامی فوج کے میسرہ سے شکست کھا کے بھاگ گیا خبیت
 نے انکے سنبھالنے اور وکٹے پر چند دستہ فوج کو اپنے میسرہ سے روانہ کیا موقوف نے
 اس امر کا احساس کر کے خبیت کے میسرہ پر یلغار کر دیا خبیت نے قلب لشکر کو
 اسکی کمک پر متوجہ کیا مگر اس کمک کے پہنچنے سے پیشتر میسرہ میں بھگدڑ شروع ہو گئی
 کئی انھیں کے ساتھ یہ امدادی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی ہر چہ اڑھت سے قتل
 اور گیر و دار کا ہنگامہ برپا ہو گیا خبیت کے ساتھ معدودے چند آدمی میدان کا زرا
 میں اڑے رہے ازاں جملہ جہلی تھا اس کا بیٹا نکلا سے اور ابن جامع جیسا نامور سپہ سالار
 میدان جنگ سے بھاگ نکلا عساکر اسلامیہ کے ایک گروہ نے ابو العباس کے حکم سے
 انکا تعاقب کیا اسی اثنا میں براہیم بن جعفر ہمدانی (زنکیوں کا بہت بڑا نامور سپہ سالار)
 گرفتار کیا گیا ابو العباس نے مشکیں بندھوا سے ایک کشتی میں قید کر دیا۔ بعد اس کے
 بقیہ زنکیوں نے مجتمع ہو کے خبیت کے اُبھارنے سے عساکر اسلامیہ پر پھر حملہ کیا یہ
 حملہ نہایت پُر جوش اور حد سے زیادہ خطرناک تھا عساکر اسلامیہ کو اس حملہ میں پیچھے
 ہٹنا پڑا لیکن پھر سنبھل کے ایسا پُر زور حملہ کیا کہ زنکیوں کے چھکے چھوٹ گئے ابتری
 کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگ کھڑے ہوئے موقوف نے خبیت کا تعاقب کیا انتہا سے
 نہرا بی خضیب تک بڑھتا چلا گیا بوقت مراجعت جب کہ خبیت کے طنے سے نا امید
 ہو کے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا تو لولور کے ہمراہیوں میں سے کسی ایک کا غلام مل گیا
 جس کے ہاتھ میں خبیت کا سر تھا موقوف نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور مطفرو
 منصور اپنے خرگاہ میں لوٹ آیا۔

نکلا سے اور مہلبی دیناری کے طرف بھاگ گیا تھا موقوف نے یہ خبر پا کے ایک دستہ

فوج کو ان دونوں سیاہ بختوں کی گرفتاری پر متعین کیا چنانچہ انکلاے اور مہلبی معہ
 پانچ ہزار زنگیوں کے گرفتار ہوا تھا مہلبی اور انکلاے کی مشکلیں باندھ دی گئیں اور موٹہ
 زنگی اس واقعہ سے پیشتر خبیت کے اشارہ سے دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگل میں
 چلا گیا تھا دن دھاڑے لوٹ لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا تجارت پیشہ اور
 مسافروں کو اس سے سخت زحمت تھی لیکن اسکو جب خبیت کے مارے جانے کی خبر
 لگی بدحواسی سی چھا گئی کچھ بن نہ پڑا موفوق کی خدمت میں امن کی درخواست کی موفوق نے
 نہایت فراخ حوصلگی سے امن دیدی۔ ورمونہ نے امن حاصل کرنے کے بعد مخصوصہ
 مال و اسباب کو ان کے مالکوں کے پاس بھیج دیا اور نہایت نیک طبعی سے موفوق
 کی خدمت میں رہنے لگا۔

موفوق نے اس مہم کو سر کر کے بلا واسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اور امن لینے
 کا گشتی فرمان روانہ کیا اور چند دنوں تک امن و امان قائم کرنے اور انتظام کے خیال
 سے موفوقیہ میں مقیم رہا بصرہ، ایلہ اور کوردوجہ کی حکومت محمد بن حاد کو عنایت کی اور
 اپنے بیٹے ابوالعباس کو بغداد کی جانب روانہ کیا چنانچہ ابوالعباس نصف جمادی الثانی
 ۲۵۷ھ کو داخل بغداد ہوا اہل بغداد نے بڑی خوشی منائی سارا شہر حیران کیا گیا۔
 زنگیوں کے سردار نے آخر رمضان ۲۵۷ھ میں خروج کیا تھا اور اپنی حکومت
 کے چودہ برس چار مہینے بعد اول صفر ۲۵۷ھ میں مارا گیا۔

ابن کندیج کی گورنری | جس وقت احمد بن موسیٰ بن بغا کو جزیرہ کی گورنری
 دی گئی اور اسے اپنی طرف سے موسیٰ بن اتامش کو دیار ربیعہ پر متعین کیا اسحاق
 بن کندیج کو سخت برہمی پیدا ہوئی اسکے لشکر سے علیحدہ ہونے کے ایک جداگانہ گروہ
 قائم کر لیا اور موقع پا کے اکراد یعقوبیہ پر حملہ کر دیا انکے مال اسباب کو لوٹ کے
 ابن مساور خارجی سے جا بھرا اور اسکو تہ تیغ کر کے موصل کے جانب چلا آیا اہل موصل

نے ڈر کے کچھ زلفند اور مال پر مصالحت کر لی ان دنوں موصل کی حکومت پر علی بن داؤد تھا ہنوز اسکی وصولی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ علی بن داؤد کو اسکی خبر لگ گئی ابن کنداج کی مدافعت پر طیار ہو گیا احمد بن حمدون تغلبی اور اسحاق بن عمر بن ابوبن خطاب تغلبی عدوی بھی آملاپندرہ ہزار کی جمعیت ہو گئی۔ ابن کنداج تین ہزار فوج سے مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی۔ ابن کنداج نے جوڑ توڑ لگا کے علی بن داؤد کے ہمراہیوں سے سازش کر لی جس سے ابن کنداج فتحیاب ہو گیا۔ حمدان اور علی بن داؤد نیشاپور کی جانب بھاگ گیا اسحاق بن عمر نے نصیبین میں جا کے دم لیا۔ چونکہ ابن کنداج اس کے تعاقب میں تھا نصیبین سے نکل کے آمد پہونچا عیسیٰ ابن شیخ شیبانی (آمد کا گورنر) بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا عزت و احترام سے ٹھہرایا دو چار روز بعد جب اسکے ہوش و حواس درست ہوئے تو امداد کی درخواست کی چنانچہ والی امداد اور ابوالعزمو ابن زرارہ عامل ارون اعانت و امداد پر آمادہ و طیار ہو گیا۔ اس اثناء میں دربار خلافت سے اسحاق بن کنداج کے نام سند گورنری موصل آپہونچی۔ ابن کنداج نے موصل کا رخ کیا عیسیٰ ابن شیخ اور موسیٰ بن زرارہ نے ایک لاکھ دینار نذر کی اور یہ درخواست کی کہ اسحاق بن عمر وغیرہ کو انکی حکومتوں پر بحال رہنے دیجئے۔ ابن کنداج نے اسکو منظور نہ کیا تب یہ سب اس سے جنگ لڑنے پرتل گئے۔ ابن کنداج نے یہ خبر پائے مصلحتاً اس درخواست کو منظور کر لیا۔ باہم مصالحت ہو گئی مگر یہ مصالحت عارضی تھی چنانچہ پھر شکستہ میں ان لوگوں نے ابن کنداج سے معرکہ آرائی کی اسحاق بن ابوعیسیٰ بن شیخ اور ابوالعزم بن حمدان بن حمدون وغیرہم نے ربیعہ، تغلب، بکر اور یمنی قبائل کی بہت بڑی جماعت ایک جا کر کے بڑے زور شور سے مقابلہ کیا مگر ابن کنداج نے انکو دوبارہ شکست دی اور تعاقب کرتا ہوا نصیبین اور نصیبین سے آمد تک چلا گیا۔ آمد میں ابن شیخ اور ابن کنداج سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔

موصل میں خوارج کی لڑائیاں

مساور خارجی ۳۶۳ء مقام بوزنج میں بجالت جنگ
عساکر غلظہ مر گیا تھا اسکے ہمراہیوں نے محمد بن خرزاد کو
جو کہ ان دنوں شہر زور میں تھا بجائے مساور کے اپنا امیر بنانا چاہا مگر اس نے منظوم
نہ کیا تب ان لوگوں نے ایوب بن حیان معروف بہ غلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی
اس پر محمد بن خرزاد نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ تم لوگوں نے عجلت کی
بہتر ہے کہ ایوب بن حیان کی نقض بیعت کر کے اس سے منحرف ہو جاؤ کیونکہ مساور
نے مجھے کچھ عہد و پیمانہ کر رکھا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اب یہ ناممکن ہے
ہم لوگوں نے جسکی بیعت کر لی ہے اسی کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد مدی ہرگز
نہ کریں گے محمد بن خرزاد اس جواب کو سن کے آگ بگولا ہو گیا ایک لشکر حراریکے چڑھ آیا
مساور کے ہمراہی بھی بسرافسری ایوب بن حیان کے مقاومت کرنے کو میدان جنگ
میں آئے لڑائی ہوئی اثناء جنگ میں ایوب بن حیان مارا گیا تب ان لوگوں نے ہارون
بن عبدالمد بجلی کے ہاتھ پر بیعت کی لوگوں کی ہجو عات زیادہ ہوئی تھوڑے ہی
دنوں میں اسکے تابعین کی تعداد بڑھ گئی محمد بن خرزاد اسوقت اس سے جنگ کرنا
نامناسب تصور کر کے شہر زور واپس آیا اور ہارون نے بلاد موصل پر قبضہ کر لیا بعد
چندے محمد بن خرزاد نے پھر لیغا کر کیا یہ شخص بہت بڑا عابد اور زاہد تھا زمین پر بیٹھتا
تھاموئے ٹکیرے اون کے پہنتا تھا اور وقت جنگ گائے پر سوار ہوتا تاکہ بھانگے
کا وہم و خیال بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ الغرض رفتہ رفتہ واسط پہنچا امرائے موصل خیر
پاکے موصل سے باہر آئے محمد بن خرزاد بھی انکی طرف بڑھا مقابلہ کی نوبت آئی ایک
خونریز جنگ کے بعد ہارون شکست کھانے بھاگا تقریباً اسکے دو سو ہمراہی مارے
گئے۔ ہارون نے بنو تغلب سے امداد چاہی بنو تغلب امداد پر آمادہ ہو گئے اس اثناء
میں حمدان بن حمدون بھی آگیا۔ ترتیب لشکر اور فراہمی آلات حرب کے خیال سے

موصل کی جانب سمجھوں نے مراجعت کی۔ محمد بن خرزادہ تھیاپی کی خوشیاں منانے لگا لشکر اور لشکریوں کے حال سے بے خبر ہو گیا۔ ہارون نے موقع پا کے محمد بن خرزادہ کے ہمراہیوں کو بلا لیا محمد بن خرزادہ کے ہمراہ اگراد کی ایک جماعت قلیل باقی رہ گئی ہارون نے لشکر مرتب کر کے وہاں کر دیا محمد بن خرزادہ اس معرکہ میں مارا گیا۔ بعد اسکے ہارون نے اگراد جلالیہ پر یلغار کر دیا۔ تب عین کی جماعت بہت بڑھ گئی موصل کے قرب و جوار پر ہا بڑھایا براہ و جملہ مال کی آمد و برد پر چنگی مقرر کی زکوٰۃ اور صدقات کے وصول کرنے پر عمال مقرر کئے۔

ان واقعات کے بعد ۲۶۶ھ میں ہارون سے بنو شیبیان جنگ کرنے کو آئے ہارون نے حمدان بن حمدون سے مدد طلب کی چنانچہ حمدان بنفسہ ہارون کے ملک پر آیا نہر خازن پر بہت بڑی لڑائی ہوئی بالآخر ہارون کا پتروں بھاگ کھڑا ہوا اس کی ہزیمت سے خود ہارون بھی شکست کھا کے بھاگا اور حدیثہ میں پہنچے مع اپنے ہمراہیوں کے قیام کر دیا۔

حالات رافع | جس وقت ۲۶۸ھ میں نجستانی مارا گیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اس وقت اسکے ہمراہیوں نے مجتمع ہو کے رافع بن ہرثمہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو محمد بن طاہر کا ایک سپہ سالار تھا اور پھر جب یعقوب صفار نے نیشاپور پر قبضہ حاصل کر کے بنو طاہر کو حکومت کی کرسی سے اتار دیا رافع بن ہرثمہ ایک چلتا پڑھتا تھا یعقوب صفار سے مراسم پیدا کر کے مصاحب بن گیا بعد چندے یعقوب نے سجستان کی طرف مراجعت کی تو رافع بھی اسکے ہمراہ سجستان چلا آیا مگر یہاں پہنچے اسکی خدمت سے علیحدہ ہو کے اپنے قیام گاہ تائین مصافحات باؤسک میں اٹھیرا تا آنکہ نجستانی نے رافع کو طلب کر کے اپنے لشکر کی سپہ سالاری عنایت کی پھر جب سجستانی مارا گیا تو مقام ہرات میں لشکریوں نے متفق ہو کے اسکو اپنا امیر بنایا۔

رافع نے حکومت کی کرسی پر متمکن ہوتے ہی نیشاپور پر چڑھائی کر دی ابو طلحہ بن سرب
ان دنوں حرجان سے نیشاپور چلا آیا تھا رافع نے پہونچکے اسپر محاصرہ ڈال دیا رسد و غلہ
کی آمد قطعاً بند کر دی ابو طلحہ نے مجبور ہو کے نیشاپور کو چھوڑ کے مزدکارا راستہ اختیار کیا
اور رافع نے نیشاپور میں داخل ہو کے قبضہ کر لیا (یہ واقعہ ۲۶۹ھ کا ہے)۔

ابو طلحہ نے مرو میں پہونچکے محمد بن مہندی کو ہرات کی حکومت پر متعین کیا چنانچہ مرو
اور ہرات میں محمد بن طاہر کا نام خطبہ میں پڑھا گیا عمرو بن لیث صفار نے یہ خبر پا کے
فوج کشی کر دی اس معرکہ میں محمد بن مہندی کو ہزیمت ہوئی جس قدر ممالک اس کے
قبضہ میں تھے اُن سبھوں پر عمرو بن لیث کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن سہل بن ہاشم اسکی طرف
سے مرو کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابو طلحہ اس خوف سے کہ آئی گئی بلا میرے سر نہ آجائے
مرو سے نکل کے بیکنڈ چلا گیا اسماعیل ابن احمد سامانی سے مدد کا خواستگار ہوا اسماعیل
نے ایک لشکر خزار سے ابو طلحہ کی مدد کی چنانچہ ابو طلحہ نے مرو میں پہونچکے محمد بن سہل
(عمرو بن لیث کے عامل) کو نکال باہر کیا اور دوبارہ محمد بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھایا
واقعہ ماہ شعبان ۲۷۱ھ کا ہے۔

اسی ۲۷۱ھ میں موفق نے صوبجات خراسان کی گورنری محمد بن طاہر کو مرحمت
فرمائی یہ اُس وقت بغداد ہی میں تھا سند گورنری حاصل کر کے روانہ خراسان ہوا۔
بلحاظ ضرورت وقت خراسان پر اپنی طرف سے رافع بن مہرثمہ کو بطور نائب کے
مقرر کیا اور باوراء النہر کی حکومت پر نصر بن احمد کو بحال و قائم رکھا اور بار خلافت
سے اس انتظام پر ناراضی اور عمرو بن لیث کی معزولی کا فرمان صادر ہوا۔ اسپر رافع
خراسان سے ہرات کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں ہرات میں محمد بن مہندی
(ابو طلحہ کا نائب) حکومت کر رہا تھا۔ یوسف بن معبد نامی ایک شخص نے یوریش
کر کے محمد بن مہندی کو مار ڈالا تھا اس وجہ سے ہرات میں ایک ہنگامہ برپا ہو رہا تھا۔

یوسف نے یہ خبر پا کے کہ رافع آگیا ہے رافع کے پاس چلا آیا امن کی درخواست کی رافع نے اس کو امن دی عفو تقصیر کی اور اپنے جانب سے ہرات پر ہمتی بن محسن کو متعین کیا بعد ازاں رافع کو ابو طلحہ کی فکر و منگیس ہوئی کمی فوج کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دے سکتا تھا اسماعیل بن احمد کو لکھ بھیجا کہ بمقابلہ ابو طلحہ کے میری مدد کرو اسماعیل نے چار ہزار سواروں کی لکن بھیجی اور خود بھی مسلح ہو کے اس امدادی فوج کے ہمراہ آیا۔ اس پر بھی فوج کافی مہیا نہ ہوئی تو علی بن حسین مرور و ذی کو معاہدے کے رکاب کی فوج کے بلا بھیجا اور ایک عظیم الشان لشکر مرتب کر کے ۲۶۲ھ میں ابو طلحہ پر چڑھائی کر دی یہ ان دنوں مرو میں تھا ایک خونریز جنگ کے بعد ابو طلحہ شکست کھا کے بھاگا ہرات پہنچا ہمتی بن محسن عامل ہرات اپنے محسن رافع سے باغی ہو کے ابو طلحہ سے مل گیا دونوں متفق ہو گئے لشکر فراہم کیا اور بعد طیاری سامان جنگ رافع سے جنگ کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے مگر رافع کی تجربہ کاری اور مردانگی نے دونوں کو پھر نیچا دکھایا ابو طلحہ تو عمرو بن لیث کے پاس بھاگ گیا مگر ہمتی بن محسن ۲۶۲ھ میں گرفتار رافع نے بعد چندے رہا کر دیا اور اسی سنہ میں ہرات سے خوارزم چلا آیا اور اہل خوارزم سے خراج وصول کر کے نیشاپور کی جانب مراجعت کر دی۔

خلیفہ معتز اور موفق کی ناصانی

چونکہ بوجہ چند موفق کو ابن طولون سے منافرت اور شکر رنجی پیدا ہو گئی تھی اس وجہ سے موفق نے ابن طولون کی معزولی کے خیال و قصد سے موسیٰ بن بعا کو بسر افسری ایک عظیم الشان لشکر کے ۲۶۲ھ میں ابن طولون کی طرف روانہ کیا تھا۔ دس مہینے تک یہ لشکر رقتہ میں ٹھہرا رہا بالآخر لشکریوں کے باہمی اختلاف و مخالفت کی وجہ سے موسیٰ بن بعا بے نیل مرام واپس آیا۔

خلیفہ معتز نام کا خلیفہ تھا اعمال کا زور و بدل ملک کا نظم و نسق اسراران لشکر

کی تقرری تنزلی غرض حکومت و سلطنت کی تمام موقوف (خلیفہ معتمد کے بھائی) کے قبضہ میں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ موقوف میں کفایت شعاری، معاملہ فہمی سیر شمی اور دانائی کا مادہ قدرت سے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور خلیفہ معتمد کو موقوف کا اس قدر صاحب قابو ہونا ناگوار گذرتا تھا خفیہ طور سے احمد بن طولون کو اس امر کی شکایت لکھ بھیجی احمد بن طولون نے تحریک کی کہ آپ میرے پاس مصر میں چلے آئیے میں آپ کی اعانت و مدد کروں گا خلیفہ معتمد اس امر پر طیار ہو گیا ابن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرض سے ایک لشکر رقمین بھیج دیا۔ موقوف ان دنوں زنگیوں سے مدروت جدال و قتال تھا خلیفہ معتمد دربار خلافت سے اسکی غیر حاضری کو معذرتا وقت سے خیال کر کے شکار کے بہانہ سے معہ اپنے چند سپہ سالاروں کے ۲۶۹ھ میں دارالخلافہ سے بقصد مصر روانہ ہو گیا۔ موصل کے قریب پہنچا۔ ان دنوں موصل اور جزیرہ کی حکومت پر اسی ابن کنداج تھا۔ موقوف کے وزیر صاعد بن مخلد نے موقوف کی جانب سے بوقت روانگی خلیفہ معتمد لکھ بھیجا تھا کہ جس طرح ممکن ہو خلیفہ معتمد کو اثنائاً راہ سے دارالخلافہ کو لوٹا دو اور اسکے ہمراہی سرداروں کو گرفتار کر لو پس جب خلیفہ معتمد نے سر زمین موصل میں قدم رکھا ابن کنداج نے حاضر ہو کے دست بوسی کی نذر دی اور اس کے ساتھ ساتھ چند منزل تک گیا تا آنکہ ابن طولون کی گورنری کے حدود تک پہنچا ایک روز خلیفہ معتمد کی خدمت میں حاضر ہو کے سرداروں سے جو خلیفہ کے رکاب میں تھے مخاطب ہو کے کہنے لگا "کیوں حضرات تم کو ابن طولون کے پاس جانے شرم نہیں آتی اس کو کوئی فضیلت تم پر نہیں ہے وہ تم جیسا ایک شخص ہے کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اس کے ماتحت ہو کر رہو" سرداروں نے کچھ جواب دیا ابن کنداج نے اسکو رو کیا۔ بحث و مباحثہ ہونے لگا ابن کنداج بولا "امیر المؤمنین کے حضور میں ان لغویات پر بحث کرنا بے ادبی ہے آپ لوگ میرے خیمہ میں چلیں

اور خوب جی کھولے بحث کریں اگر مجھے آپ لوگ قائل کر دیں تو میں آپ کا ہم آہنگ ہو جاؤں " سرداروں نے اسکو منظور کر لیا خلیفہ معتمد کی خدمت سے اٹھ کے ابن کندیج کے خیمہ میں آئے اندر آنے کے ساتھ گرفتار کر لئے گئے۔ ابن کندیج ان لوگوں کی صفائی کا انتظام کر کے خلیفہ معتمد کی خدمت میں آیا۔ دارالخلافہ چھوڑ کر آئے۔ ہونہار لائق بھائی (موفق) سے کشیدہ خاطر ہوئے اور ایسے حال میں اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر نصیحت کی جبکہ وہ دشمنانِ خلافت و فائدانِ حکومت سے مصروف جنگ ہے خلیفہ معتمد نے اسکا کچھ جواب دیا ابن کندیج نے اسکو معاف کر کے جو اس کے ہمراہ تھے بجز اکراہ سامرکند اور پشاور کے لوگوں کو رہا کر دیا۔ انہیں وجوہات سے جسکا تذکرہ اوپر ہو چکا ابن طولون نے موفق کے نام کو خطبہ سے نکال دیا اور عنوانِ خطوط سے بھی محو کر دیا اس گستاخی کی خبر موفق کے کان تک پہنچی سخت برہم ہوا مگر اس وجہ سے کہ زنگیوں سے مصروف جدال و قتال تھا ابن طولون کی گوشمالی کی نسبت متوجہ نہ ہوا رفتہ رفتہ خلیفہ معتمد تک اس کی خبر لگ گئی ابن طولون کو دربارِ خلافت میں طلب کر کے بے حد لعنت و ملامت کی اور بہ نظر چشم نامی معزول کر کے اس کی گورنری پر اسحاق بن کندیج کو متعین فرمایا عرض باب شامیہ سے افریقہ تک کے بلاد ابن کندیج کی گورنری میں داخل ہو گئے۔

لولو (ابن طولون کا آزاد غلام) حمص، حلب، قنسرين اور جزیرہ کے دیار مفرک ابن طولون کی جانب سے والی تھا۔ رقبہ میں اس کا صدر مقام تھا اسی رقبہ میں ابن طولون کی بد اقبالی اور موفق سے منحرف ہو جانے کا واقعہ سن کے ابن طولون سے باغی ہو گیا رقبہ سے نکل کے پالس پہنچا اور اسکو لوٹ لیا موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے اسکی خواہش کے مطابق جواب بھیجا چنانچہ لولو پالس سے روانہ ہو کے فرقیسیا میں جا اتر ابن صفوان عقیلی اس شہر کا حاکم تھا اس نے رسد و غلہ کے دینے سے انکار کیا لولو نے نقارہ جنگ

بجوائے حملہ کر دیا ابن صفوان کو ہزیمت ہوئی لولؤ فرقیسیا پر قبضہ حاصل کرنے کے احمد بن مالک ابن طوق کے سپرد کر دیا اور خود ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتا ہوا موفق کی خدمت میں جا پہنچا موفق اس وقت غلبت (زنکیوں کے سردار) سے لڑ رہا تھا بڑی عزت سے پیش آیا خلعت اور انعامات مرحمت فرمایا۔ اور زنکیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا چنانچہ لولؤ نے ان لڑائیوں میں ناموری اور کامیابی کا بہت بڑا حصہ لیا۔

بعد اسکے ابن طولون نے اسی سنہ میں بلا کسی استحقاق کے ایک لشکر مکہ معظمہ کو موسم حج کے انتظام کی غرض سے روانہ کیا ان دنوں ہارون بن محمد والی مکہ تھا ابن طولون کے لشکر کے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کے بھاگ گیا موفق نے جعفر کو بسر کر دگی ایک لشکر چہرا مکہ معظمہ کی جانب روانہ کیا اس سے ہارون کے حوصلے بڑھ گئے مردانگی کے ساتھ ابن طولون کے لشکر کے مقابلہ پر آیا سخت معرکہ ہوا ابن طولون کے لشکر کو ہزیمت ہوئی دو سو سپاہی مارے گئے سپہ سالاران لشکر کو ہزار ہزار دینار زرفدیہ لے کے زہا کیا حرم شریف کی مسجد میں موفق کا عالیشان فرمان پڑھا گیا جس میں ابن طولون پر لعنت تھی۔ اہل مصر صحیح و سلامت اپنے شہر کو واپس آئے۔

اسی وقت سے لولؤ نہایت مستعدی اور جان نثاری سے موفق کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ۲۷۳ھ میں موفق نے کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو کے گرفتار کر لیا اور چار لاکھ زر جرمانہ وصول کر کے رہا کیا اسی زمانہ سے اوبار کی ابتدا ہوتی ہے تھوڑے ہی دنوں میں ایسا مفلوک اور نادار ہو جاتا ہے کہ نان شبینہ کو بھی محتاج نظر آتا ہے بعد چند سے ہارون بن خمارویہ کے آخری زمانہ میں تن تنہا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مصر واپس آتا ہے۔

ابن طولون کی وفات

۱۲۵۰ء میں بازمان خادم نے طرسوس میں علم بغاوت بلند کر کے
ابن طولون کے نائب کو گرفتار کر لیا احمد بن طولون اس وحشت
خبر کو سن کے تاب نہ لاسکا لشکر مجتمع کر کے بازمان کی سرکوبی کی غرض سے طرسوس پر
چڑھ آیا اور محاصرہ کر لیا بازمان نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے مجبور ہو کے ابن
طولون نے انطاکیہ کی جانب مراجعت کی انطاکیہ پہنچے علیل ہو گیا اطباء نے بہت
علاج کیا کچھ سود مند نہ ہوا حکومت مصر کے چھبیسویں سال انتقال کر گیا۔
ابن طولون کے انتقال پر اس کا لڑکا خمارویہ بجائے اسکے مقرر کیا گیا ابن طولون
کے نائب نے جو دمشق میں رہتا تھا خمارویہ سے مخالفت کی خمارویہ نے اسکی سرکوبی
کے لئے ایک لشکر بھیجا گرمی و ماغ فرو ہو گئی بدستور سابق مطیع ہو گیا۔
ان دونوں موصل اور جزیرہ کی گورنری پر اسحاق بن کنداج تھا۔ انبار، رجبہ اور طریق فرا
کی حکومت محمد بن ابوالسلج کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں (ابن کنداج اور ابن ابوالسلج)
نے شام کی جانب قدم بڑھانے کی اجازت طلب کی اور ملک کے خواستگار ہوئے
موفق نے اجازت دیدی اور اعانت و امداد کا وعدہ کیا چنانچہ ابن کنداج اور ابن
ابوالسلج نے لشکر مرتب کر کے بقصد بلاد شام کوچ کر دیا قریب و حمار کے جس قدر بلاد
تھے سمجھوں پر قبضہ کر لیا۔ ابن کنداج نے انطاکیہ، حلب اور حمص کو دیا لیا۔ نائب دمشق
نے خمارویہ کو ان واقعات سے مطلع کیا خمارویہ نے متعدد فوجیں ملک شام کی
حفاظت کو روانہ کیں۔ ابن کنداج موفق کی امداد کے خیال سے شیراز میں جا کے
قیام کیا خمارویہ کے لشکر نے دمشق میں پہنچنے کے ابن کنداج اور ابن ابوالسلج سے
جنگ کرنے کے قصد سے شیراز کا رخ کیا ابن کنداج نے نہایت آہستگی سے لڑائی
شروع کی اور موفق کی امدادی فوج کے انتظار میں زمانہ جنگ کو طول دیتا گیا
ہاں گھم موسم سہرا آ گیا اور ابوالعباس احمد بن موفق (یہی معتضد باللہ کے لقب سے مشہور ہے)

بغداد سے ایک فوج لئے ہوئے آپہنچا شیراز کے محاصرین ایسے بے خبر تھے کہ ان کو اسکے آنے کی خبر نہ ہوئی اور اس نے حالت غفلت میں اپنے شیخون مارا خارویہ کے لشکر کا زیادہ حصہ کام آگیا معدومہ چند جو باقی رہے انہوں نے دمشق کا راستہ لیا اور ابو العباس نے ان لوگوں کو جلاء وطن کر دیا اور کامیابی کے ساتھ ماہ شعبان ۱۷۲ھ میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔

اس واقعہ کے بعد خارویہ نے نعمہ اپنے بقیہ لشکر کے رملہ میں مقام کیا ابن کندیج کے حوصلے اس نمایاں کامیابی سے بہت بڑھے ہوئے تھے ابو العباس سے اجازت حاصل کر کے رقبہ پر فوج کشی کر دی رقبہ العنور اور عوام پر خارویہ کی جانب سے ابن وعباس تھا ابن وعباس نے ابن کندیج کی آمد سے مطلع ہو کے جنگ کی تیاری کی۔ فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر ابن کندیج کو فتحیابی حاصل ہوئی۔

ابو العباس معتضد نے دمشق کے انتظام سے فارغ ہو کے رملہ کا رخ کیا خارویہ یہ خبر پانے کے مصر سے رملہ کی حمایت کو آپہنچا دونوں لشکروں کا ایک چشمہ پر جس کا نام طوا حین تھا مقابلہ ہوا۔

چونکہ ابو العباس نے ابن کندیج اور ابن ابو السلاج پر بڑی زور کا الزام لگایا تھا کیونکہ انہوں نے امداد و کمک کے انتظار میں خارویہ سے جنگ کرنے میں درنگی کی تھی اسوجہ سے یہ دونوں اس معرکہ میں شریک نہیں ہوئے۔

اگرچہ خارویہ کے رکاب میں زیادہ فوج تھی لیکن ابو العباس سے نہایت ہوشیاری اور مردانگی سے اپنے لشکر کو آراستہ کیا لڑائی شروع ہوئی خارویہ اس مصلحت سے کہ اپنے لڑائی چھیرنے سے پہلے چند دستہ فوج کو ایک گوشہ میں چھپا رکھا تھا قصداً پسپا ہوا ابو العباس جوش کامیابی میں بڑھتا گیا بہانہ تک کہ خارویہ کے خیمہ پر قبضہ کر لیا جس وقت اسکے ہمراہی لوٹے میں مصروف ہوئے خارویہ کی فوج نے میدان جنگ کے ایک گوشہ

نکل کے حملہ کر دیا۔ ابو العباس اس اچانک **درویشوں میں**
 بھاگا اہل دمشق نے دروازہ نہ کھولا بدرجہ مجبوری **پانچ سو تھان**
 بلا امیر کے لڑنے لگیں خاریہ کے لشکر نے متفق ہوئے۔ یہاں عظیم الشان کتب خانہ
 امیر بنایا اور قتل و غارت کرتا ہوا شام کی جانب بڑھا۔ کل بلاد
 قبضہ حاصل کر لیا کوئی مزاحمت و مخالفت کرنے والا نہ تھا موقوف اورا۔
 سے نکال ڈالا گیا۔ خاریہ اس نمایاں کامیابی کو سن کے مارے خوشی کے ہمداری کی
 نہ سماتا تھا۔ قیدیوں کو جو اسکے ہمراہ تھے رہا کر دیا۔
 بعد چند دنوں کے اہل طرسوس کے دماغ میں بھی بغاوت کے بخارات چڑھ گئے، مجتمع
 ہو کے ابو العباس کو نکال دیا۔ بیچارہ ابو العباس بجال پریشان بغداد کو روانہ ہوا بعد اسکے
 اہل طرسوس نے مازیار کو حکومت کی کرسی پر متمکن کیا جب اسکی حکومت کو استحکام ہو گیا تو
 اسے خاریہ سے زر کثیر لیکے اسکے نام کو خطبہ میں داخل کر دیا اور نیز اسکے حق میں دعا کی۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ خاریہ نے مازیار کو تیس ہزار دینار پانچ سو تھان قیمتی قیمتی
 کپڑوں کے پانچ سو گھوڑے اور بیسٹار آلات حرب بھیجے تھے بعد اسکے جب مازیار نے
 خاریہ کا نام خطبہ میں پڑھا تو پچاس ہزار دینار اور بھیج دیئے۔

تم الجزء السابع و یلیہ الجزء الثامن انشاء اللہ تعالیٰ
 اولہ وفاة صاحب طبرستان

بغداد سے ایک فوج لئے ہوئے آپہونچا
اسکے آنے کی خبر نہ ہوئی اور اس
زیادہ حصہ کام آگیا بعد
نے ان لوگوں کا
کا جھ

صرف اٹھائیس روپیوں میں

اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ذخیرہ، دنیا و اسلام کی تاریخ کا عظیم الشان کتب خانہ

ترجمہ تاریخ علامہ ابن خلدون (رحمۃ اللہ علیہ)

جس کی خریداری کے بعد اسلامی تاریخ کی کسی دوسری کتاب کی خریداری کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کل انبیاء کرام اسلامین عظام کے انساب و حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آٹھویں صدی ہجری تک کے صحیح صحیح واقعات۔ فاتحان و فرمانروایان اسلام کی عالمگیر فتوحات کمال تحقیق اور تفصیل سے مندرج ہیں۔ تاریخ اسلام میں بعض بعض واقعات جو غلط مشہور ہو گئے ہیں ان پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے واقعات بسط اور تفصیل سے لکھنے اور شایقین کی دلچسپی بڑھانے کی غرض سے فاضل مترجم عالیجناب حکیم مولوی احمد حسین صاحب الہ آبادی نے کتب تواریح عربیہ دو گراں السنہ سے مضامین انتخاب کر کے جا بجا نہایت خوش اسلوبی سے نوٹس بھی چڑھائے ہیں اس کتاب کے مستند و معتبر نوٹس اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ

مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے

گیارہ جلدیں چھپ کر شایع ہو گئی ہیں۔ ہر جلد کا حجم چار سو صفحات سے زائد کا ہے۔ کل جلدوں کے خریدار کو محصول معاف

سلطان صلاح الدین یوسف فاتح بیت المقدس کی سوانح عمری

جس میں سلطان موصوف کے خاندانی حالات و ولادت، تربیت، فضائل، عادات اور اس کی شاندار فتوحات عیسائی دنیا کے مقابلے اور بیت المقدس کے تفصیلی واقعات نہایت بسط و تفصیل سے مورخانہ حیثیت سے لکھے ہیں عربی اور انگریزی کی معتبر تاریخیں اس کی ماحضہ ہیں۔ حجم دو سو صفحات سے زائد۔ کاغذ سفید، چکنا رائل سائز یعنی ۲۰ x ۲۶ قیمت بلا محصول ڈاک

حیات سلطان نور الدین محمود زنگی

اس نامور تاریخ کی سوانح عمری ہے جو چھٹی صدی ہجری میں صلیبی لڑائیوں کا فاتح جزیرہ و شام کا نامور حکمران گزرا ہے۔ اسی نے دوبارہ ایک صدی کے بعد فتح بیت المقدس کی مبارک بنیاد ڈالی تھی جسکی تکمیل سلطان صلاح الدین یوسف فاتح بیت المقدس نے کی۔ یہ اپنے قابل قدر فتوحات کی وجہ سے رحمت الہی کا ایک کرشمہ مانا گیا ہے عربی اور نیز دوسری زبانوں کی مستند معتبر تواریخ سے اسکی سوانح عمری مرتب کی گئی ہے۔ کاغذ سفید چکنا رائل سائز قیمت بلا محصول ڈاک

المش
ساختہ

پیشرو قمر الاسلام آباد

بجولہ تعالیٰ

تاریخ تالیف علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ

کتاب ثانی جلد ہفتم

جس میں

نامور حکمرانان اسلام خلفاء بنی عباسیہ ہارون، امین، مامون، معتصم،
واثق، متوکل، منصر، مستعین، معتز، معتدی اور معتد علی اللہ کے زمانہ
حکمرانی کے واقعات تحریر کئے گئے ہیں اور بے سرو پا قصہ عقد عباسیہ و جعفر
کی قلعی کھولی گئی ہے۔ براہِ مکہ کی تباہی کے اصلی اسباب ظاہر کئے گئے ہیں

مترجمہ

جناب مولوی حکیم احمد حسین صاحب الہ آبادی مؤلف سوانح عمری سلطان

صلاح الدین یوسف فاتح بیت المقدس و حیات نور الدین

۱۳۲۰ھ

۱۹۲۲ء

باہتمام منشی حامدین یونانی و خاں پریس الہ آباد چھپی

قیمت فی جلد بلا معمول ہے

جملہ حقوق بذریعہ جی بی بی محفوظ ہیں